

122

خالد، سيف الله

حضرت خالد ^{رض} بن ولید



زندگی اور فتوحات

ابوزید شلی

ترجمہ : شیخ محمد احمد پانی پتی

مکتبہ جدید

انارکلی • لاہور

جملہ حقوق محفوظ

بار اول - ۱۹۵۶ء

طابع : نذیر احمد چودھری

سویرا آرٹ پریس ، لاہور

ناشر : رشید احمد چودھری

مکتبہ جدید ، انارکلی لاہور

۲۹۷۹۹۲۲

خ ۱۹ ش

A . No . 6602

DATA ENTERED

ترتیب

122

دیباچہ ، مصنف ، ۹

پیش لفظ ، مصنف ، ۱۲

پہلا حصہ

خالد رض بن ولید ، اسلام سے قبل ، ۱۹

نسب - ولادت - خالد رض کا وطن - مکہ ، اجتماعی کیفیت -
خالد رض کے اہم - خالد رض کے بھائی - خالد رض کی والدہ -
خالد رض کے والد - قریش میں خالد رض کا مرتبہ - خالد رض کا
پیشہ - خالد رض کی بہادری و کامرانی کا راز - خالد رض کی معاندانہ
کوششیں - جنگ خندق - حدیبیہ کے موقع پر - عمرۃ القضاء کے
موقعہ پر ،

دوسرا حصہ

قبول اسلام سے لے کر رسول کریم صلعم کی وفات تک - ۷۵

خالد رض کا اسلام قبول کرنا - اسلام قبول کرنے میں دیر -
غزوہ مؤتہ - فتح مکہ - عزی بت کا انہدام - خالد رض ، بنو جذیمہ
میں - بنو جذیمہ کے قتل کا اصل سبب - غزوہ ہوازن -
غزوہ طائف - بنو مصطلق - دومة الجندل - نجران -

تیسرا حصہ

خالد رضہ عہد صدیق میں - ۱۳۵

تمہید - طلیحہ - مالک بن نویرہ - مالک بن نویرہ کے قتل کی
اصل حقیقت - سسلیمہ کذاب -

عراق میں حضرت خالد رضہ کی فتوحات ، ۱۸۲

جنگ ابلہ - جنگ مذار (الثنی) - جنگ ولجہ - جنگ الیس -
فتح اسغیشیا - جنگ حیرہ - حضرت خالد کے اعمال اور امراء -
جنگ انبار - جنگ عین التمر - جنگ دومة الجندل - جنگ حصید -
فتح خنافس - جنگ مصیخ - جنگ ثنی اور جنگ زبیل - جنگ فراض
حضرت خالد رضہ کا خفیہ حج -

عراق میں حضرت خالد رضہ کی فتوحات کا اثر ، ۲۲۸

شام میں حضرت خالد رضہ کی فتوحات ، ۲۳۴

کیا حضرت خالد رضہ شامی افواج کے سپہ سالار اعظم تھے ؟ ۲۴۶
جنگ یرموک -

چوتھا حصہ

خالد رضہ ، حضرت عمر کے عہد میں ، ۲۶۹

فتح دمشق - معرکہ فحل - جنگ مرج الروم - فتح حمص -
فتح حاضر - فتح قنسیرین - فتح مرعش - فتوحات کا اختتام -

واقعات کی ترتیب اور ان کا زمانہ وقوع -

حضرت خالد اور حضرت عمر ، ۲۹۰

حضرت عمر کے اوصاف - حضرت خالد کے بعض اوصاف -
 حضرت عمر کی حضرت خالد سے ناراضی کے اصل اسباب - معزولی
 کب ہوئی؟ ٹھوس تاریخی شہادتیں - تاریخی واقعات - معزولی کا
 اثر، حضرت خالد کے دل پر - امراء کے دلوں پر معزولی کا اثر -
 لشکریوں کے دلوں پر معزولی کا اثر - صحابہ کے دلوں پر معزولی
 کا اثر - ناراضی اور اختلاف کا اختتام - حضرت خالد رض کا ذہنی
 مرتبہ - حضرت خالد کے اوصاف و اخلاق - آپ کی جنگی لیاقت -
 لشکر کے سپاہیوں سے آپ کا حسن و سلوک - جہاد سے عشق -
 حضرت خالد کے اہل و عیال - حضرت خالد کی وفات -

ماخذ کتاب ، ۳۲۷

فہرست شجرات و نقشہ جات

- ۱ - شجرہ حضرت خالد کا نسب اور رسول اللہ صلعم اور حضرت ابوبکر صدیق سے اس کا اتصال ، ۲۱
- ۲ - شجرہ حضرت خالد کا شجرۂ نسب والد اور والدہ کی طرف سے ، ۲۲
- ۳ - شجرہ بنو مخذوم کے بعض سربر آوردہ اشخاص ، ۳۸
- ۴ - شجرہ حضرت خالد کے چچا اور بعض چچا زاد بھائی اور بہنیں ، ۴۰
- ۵ - شجرہ حضرت خالد کے بھائی بہن ، ۵۰
- ۶ - شجرہ حضرت خالد کی سگی اور سوتیلی خالائیں اور ماموں ، ۵۴
- ۷ - نقشہ جزیرہ عرب ، ۲۴۸ اور ۲۴۹ کے درمیان
- ۸ - نقشہ العراقین اور الجزیرہ
- ۹ - نقشہ شام
- ۱۰ - نقشہ منطقہ یرموک
- ۱۱ - نقشہ شہر دمشق اور آس کی سیر گاہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
سيدنا محمد و علي آله و صحبه اجمعين -

یہ کتاب اسلام کی اس عظیم الشان شخصیت کے بارے
میں لکھی گئی ہے جو متفقہ طور پر مسلمانوں کا سب سے بڑا
سپہ سالار مانا جاتا ہے۔ ہماری مراد حضرت خالد رضہ بن ولید
سے ہے جنہیں بارگاہ رسالت سے ”سیف اللہ“ کا خطاب مرحمت
ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔

جس بات نے مجھے اس عظیم فاتح کی سوانح حیات لکھنے پر
آمادہ کیا وہ میرا یہ مشاہدہ تھا کہ زندہ اور ترقی کرنے والی
قومیں اپنے مشاہیر کے کارناموں کو نہ صرف یاد رکھتی ہیں
بلکہ ان پر فخر کرتی ہیں اور کسی موقع پر بھی وہ ان کی تعریف
و توصیف سے غافل نہیں رہتیں۔ ذاتی محفلیں ہوں یا پبلک جلسے،
کوئی جگہ بھی ان کے تذکرے سے خالی نہیں رہتی۔ نتیجہ یہ
ہوتا ہے کہ قوم کے بچے بچے کے دل میں اپنے بڑے لوگوں کے
لئے احترام اور تعظیم کے جذبات سوجزن رہتے ہیں۔

اس کے بالمقابل مسلمانوں نے اپنی آن مایہ ناز ہستیوں کو
بالعموم فراموش کر دیا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اعلاء

کلمۃ الحق اور دین خدا کی حمایت و نصرت کے لئے وقف کر دی تھی ، جو امت مسلمہ کی عزت و افتخار کا باعث تھیں اور جن کی پیش بہا قربانیوں کے باعث اسلام کوشان و شوکت نصیب ہوئی۔ ہمیں دنیا کی قوموں میں جو مقام حاصل ہے وہ محض ہمارے اسلاف کی وجہ سے ہے لیکن کیا یہ ظلم نہیں کہ ہم ان کے سارے کارنامے بھول چکے ہیں اور ہمیں ان کی حقیقی شان کا مطلق علم نہیں۔ ہماری بے حسی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمیں بہادری ، شجاعت اور جوان مردی کے بارے میں جب بھی کوئی مثال دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو نپولین کا نام ہی ہماری زبانوں پر آئے گا۔ ہمیں قطعاً یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہماری قوم ایک شاندار ماضی کی حامل ہے اور ہم میں ایسی ایسی نادرہ روزگار ہستیاں گذری ہیں جن کے سامنے نپولین جیسے عظیم المرتبت جرنیل بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

ذرا تصور تو کیجئے اگر خالد رض بن ولید کسی زندہ و بیدار قوم کے فرزند ہوتے تو ہر سال کتنے جلسے محض ان کی یاد منانے کے لئے منعقد کئے جاتے اور کتنی یادگاریں ان کے نام پر قائم کی جاتیں؟۔

میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جامعہ ازہر مصر کی تعلیم کے دوران میں مجھے ایسے فاضل اساتذہ سے استفادے کے موقع ملا جن کی غیرت اسلامی اور اسلاف سے محبت نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا۔ اسی اثر کا نتیجہ ہے کہ میں نے اپنے لئے یہ موضوع منتخب کیا۔ اگر پڑھنے والوں کو اس میں کوئی مفید بات یاد اچھی چیز نظر آئے تو اس کا تمام تر سہرا میرے محترم اساتذہ کے سر پر ہے۔

جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے آج تک کوئی مستعمل

کتاب اسلام کے اس عظیم الشان سپہ سالار کے بارے میں نہیں لکھی گئی۔ مجھے امید ہے کہ میری اس تصنیف سے حضرت خالد رضہ بن ولید کی زندگی کے تمام پہلو نمایاں ہو جائیں گے اور روم و فارس میں جو کارہائے نمایاں آپ نے سر انجام دئے اور ان علاقوں میں اسلام کا نام پہنچانے کے لئے آپ نے جو عظیم المثل قربانیاں کیں ان کا نقشہ پڑھنے والوں کے سامنے آجائے گا۔ میں نے اس کتاب کے مرتب کرنے میں بڑی محنت کی ہے اور کوشش کی ہے کہ یہ کتاب کسی پہلو سے بھی تشنہ تکمیل نہ رہے۔ خدا کرے میں اپنی اس محنت میں کامیاب ہوا ہوں۔

ابوزید شلی

۱۳۵۲ ھ ۱۹۳۳ء

پیش لفظ

کسی قوم کی حقیقی قدر و منزلت اُس کے افراد کے ذریعے ہوتی ہے۔ افراد اپنے کارناموں کی بدولت قوم کی سربلندی کا باعث بنتے ہیں۔ جس قوم میں مخلص کارکن، باعمل عالم، نڈر اور بے خوف مجاہدین اور راست باز سیاست دان ہوں وہ قوم ترقی حاصل کئے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہی قوم اس بات کی مستحق ہے کہ زمین کی بادشاہت اس کے ہاتھ آئے۔

اسلام سے قبل عربوں کا شمار دنیا کی وحشی قوموں میں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی پر اگندگی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ کسی کی اطاعت کرنا اُن کے لئے عار تھا۔ معمولی معمولی باتوں پر غیظ و غضب کی آگ اُن کے دلوں میں بھڑک اُٹھتی تھی جس کا نتیجہ عموماً خوں ریز جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ قبائلی عصبیت پر دوسری تمام چیزیں قربان کر دی جاتی تھیں۔ اپنے قبیلے کی حمایت میں ہر شخص کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا تھا خواہ قبیلہ حق پر ہو یا ناحق پر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اُن کی حالت بالکل اس شعر کے مصداق تھی:

لایساً لون اخاہم حین یند بہم
فی المنائبات علی ما قال برہانا

(جس وقت ان کا بھائی کسی مصیبت کے موقع پر ان کو مدد کے لئے بلاتا ہے تو معاملے کی نوعیت دریافت کئے بغیر وہ اُس کی مدد کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں) وہ بتوں کی پرستش

کرتے تھے اور ان کے دلوں میں یہ وہم سایا تھا کہ اس طرح انہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم و شائستگی سے عاری تھے اور فکر و تدبیر و مال اندیشی ان سے کوسوں دور تھی۔

ایک لمبے عرصے کی گمراہی اور پستی کے بعد آخر خدا تعالیٰ نے ان پر اسلام کے ذریعے اپنی رحمت نازل کرنے اور اپنے انعامات سے انہیں سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اسلام کے ظہور کے قریب اس نے قس بن ساعدہ * اور ورقہ بن نوفل جیسے چند نیک لوگوں کو پیدا کر دیا جنہیں عقل و فکر، تدبیر و فراست، زیرکی و دانائی سے حصہ وافر ملا تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اسلام کی تعلیمات قبول کرنے کے لئے تیار کیا جا سکے۔ ان لوگوں نے اپنی پر حکمت باتوں اور مواعظِ حسنہ کے ذریعے عربوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور ان کی گمراہی کو ان پر آشکارا کرنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک گروہ دین ابراہیمی کی تلاش میں تھا اور ایک جماعت اس فکر میں غلطاں تھی کہ اپنی قوم کے دین سے کسی بہتر دین تک اس کی رہنمائی ہو جائے †۔

ان حکماء اور مفکرین کے گروہ کی مثال صبحِ کاذب کی روشنی سے دی جا سکتی ہے جو صبحِ صادق کی خبر دینے کے لئے فجر سے قبل کچھ وقت کے لئے نمودار ہوتی ہے۔ اس کے بعد صبحِ صادق کا ظہور ہوتا ہے کچھ عرصہ بعد صبح کے مطلعِ تاباں سے سورج طلوع ہو کر تمام عالم کو اپنی روشنی سے منور کر دیتا ہے۔

اسلام کی صبحِ درخشاں کا ظہور ایک ہولناک تاریکی کے بعد ہوا۔ اس وقت دنیا شاہانِ کسریٰ کے استبداد اور قیصرہ

* السیرة الجلیہ جلد اول صفحہ ۱۷۲ † آگے چل کر سکہ کی پیامی حیثیت کے بیان میں مفصل طور پر اس کا تذکرہ آئے گا۔

کے ظلم و جور کی چکیوں کے نیچے بری طرح پس رہی تھی۔ خدا کے بندے اپنے معبود حقیقی کو بھول کر بے جان پتھروں اور ستاروں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے، کہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے نہ چاہا کہ اس کے بندے اس گمراہی میں ادھر ادھر بھٹکتے پھریں۔ اس نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کو بھٹکی ہوئی

دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا جنہوں نے آکر لوگوں کو بتایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے انسانوں کے لئے جو ضابطہ اخلاق مقرر فرمایا اس سے بہتر ضابطہ اخلاق نہ پہلے کسی نے پیش کیا تھا اور نہ آئندہ کوئی پیش کر سکتا ہے۔ آپ نے تمام انسانوں کو، قطع نظر اس کے کہ وہ عربی ہیں یا عجمی، آزاد ہیں یا غلام، معزز قوم کے افراد ہیں یا پست اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، مساوی حقوق دئے۔ فضیلت کا معیار آپ نے ایک اور صرف ایک یعنی تقویٰ مقرر فرمایا۔ آپ نے واشکاف الفاظ میں اعلان فرمایا:

”ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم“ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب

سے معزز و مکرم وہی فرد ہے جو تقویٰ کے میدان میں سب سے آگے ہے۔ ”لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقویٰ“ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو محض تقویٰ کے سبب۔

امت مسلمہ اپنے عہد اولین میں تمام اقوام عالم کے لئے ایک نمونہ تھی۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ وطن کی خاطر قربانی اور ایمان کی پختگی کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے اور جو فتوحات مسلمانوں نے حاصل کیں ان کے پس منظر میں جو چیز کام

رہی تھی وہ تھی ”قوم کی صفوں میں مکمل یک جہتی اور رعایا کے درمیان کامل مساوات۔“

آست مسلمہ ابتدا میں عدل و انصاف کی قدر و قیمت سے حقیقی طور پر آشنا تھی۔ کوئی معزز ترین شخص بھی قصور کر کے سزا سے بچ نہیں سکتا تھا اور کوئی نہایت ہی غریب شخص بھی مظلوم ہو کر انصاف سے محروم نہیں رہ سکتا تھا۔

جس ایک کلمے پر مسلمان متحد ہو گئے تھے وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ زبان پر آتے ہی مسلمانوں کے دلوں سے سے کینہ مٹ جاتا تھا اور ان کے سینوں میں ایک نئی حرارت پیدا ہو جاتی تھی۔ ان کی تمام جد و جہد اسی کلمے کو سر بلند کرنے کی خاطر تھی۔ اسی کی خاطر وہ جمع ہوتے تھے اور اسی کی خاطر وہ جہاد کرتے تھے۔

کوئی مورخ جب ان فتوحات پر نظر دوڑاتا ہے جو مسلمانوں نے ابتدائی عہد میں (جبکہ ان کی وحشیانہ طرز زندگی کو ختم ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے) حاصل کی تھیں تو حیرت سے اس کا دماغ چکرانے لگتا ہے۔ آخر وہ کونسی چیز تھی جس نے اس تہذیب و اخلاق سے عاری قوم کو اعلیٰ درجے کی تہذیب اور شائستہ قوم بنا دیا اور اس میں وہ اتحاد پیدا کر دیا جس کی نظیر ملنی مشکل ہے؟ حالانکہ ایک وقت یہ تھا کہ کسی شاعر کا ایک شعر ہی ایک باپ کے دو بیٹوں میں ہمیشہ کے لئے تفریق ڈالنے اور باہم عداوت کی آگ بھڑکانے کے لئے کافی ہوا کرتا تھا، تفریق و عداوت بھی ایسی کہ اس کا نتیجہ اکثر خون ریز جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔

ہر شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دلوں میں

یہ انقلاب عظیم کس طرح برپا ہوا؟ کیا اس انقلاب کا سبب و نیا دین تھا جس کے وہ پیروکار بن گئے تھے؟ یا وہ عدل تھا جو اس وقت قائم ہو چکا تھا؟ یا وہ مساوات تھی جس نے حاکم اور محکوم دونوں کو ایک سطح پر لا کھڑا کیا تھا؟ یا فوجوں کی اعلیٰ کارکردگی تھی جس نے ان کو فتوحات سے نوازا؟ -

ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ یہ دین اسلام ہی تھا جس نے عربوں کے منتشر شیرازے کو یکجا کیا، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کیا، دور جاہلیت کی سہلک رسومات سے انہیں روکا اور عین اُس وقت جب ان کی قوتیں باہمی تنازعات میں ضائع ہو رہی تھیں ان کے سامنے ایک بلند نصب العین رکھا اور ان کی قوتوں کو اس کے حصول کی کوشش میں لگا دیا*۔

اسی دین نے انہیں مساوات اور عدل کی نعمتوں سے روشناس کرایا، اسی نے انہیں اتحاد کی تلقین کی، اسی نے انہیں ”اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا“ (اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑو کیونکہ اس طرح تم کمزور ہو جاؤ گے) کی تعلیم دے کر اختلافات اور جھگڑوں سے بچنے کا

* مشہور فرانسیسی مستشرق لییان اپنی کتاب ”التعالیم النفسیہ للحرب الاوریہ“ کے چوتھے باب میں ”دوران جنگ میں روحانی عوامل“ کے عنوان کے تحت اسی امر کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتا ہے ”عربوں کے اس ایمان کے نتیجے میں جو انہیں حاصل تھا اس چھوٹی سی جماعت نے نہایت قلیل مدت میں دنیا کے تقریباً تمام متمدن حصے کو فتح کر لیا اور ان کی سلطنت کا دائرہ مشرق سے مغرب تک وسیع ہو گیا“ صفحہ ۶۶ مطبوعہ الهلال

پریس ۱۹۱۶ء -

حکم دیا ، اسی نے یا ایہا الذین آمنوا اذالقیتم فئۃ فاثبتوا و اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون (اے ایمان والو ! جب کسی گروہ سے تمہارا سامنا ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو اسی طرح تم کامیاب ہو سکتے ہو) کا فرمان سنا کر انہیں فتح پانے کا گر بتایا ۔

اسی دین نے ان کی عقلوں کو جلا دی اور اولم ینظروافی ملکوت السموت و الارض و ما خلق اللہ من شیئی (کیا انسان زمین و آسمان کی بادشاہت اور خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء پر غور و فکر نہیں کرتے) کا حکم سنا کر انہیں زمین و آسمان کے عیاں و نہاں خزانے حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا ۔

جب مسلمانوں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو امراء عیش پرستی میں مشغول ہیں ، دوسری طرف غلام اور غریب رعایا جور و ستم میں دبی ہوئی ہے ۔ ننگ انسانیت کام کئے جا رہے ہیں اور ہر طرف گمراہی کا بازار گرم ہے ۔ اس وقت انہیں یہ خدائی فرمان یاد آیا : ”ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر“ (تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیئے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے ، بھلائی کی تلقین کرے اور بدی سے بچائے) ۔ اس فرمان کے بموجب انہوں نے دین اسلام کی اشاعت اور خدا کے بندوں کو ہدایت دینے کی خاطر کمر ہمت باندھ لی اور جی جان سے اس کام میں لگ گئے ۔ ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا اعلاء کلمۃ الحق اور مخلصی خدا کی بھلائی ۔ ابوبکر ، عمر ، عثمان ، علی ، عمرو بن العاص اور خالد بن ولید اس میدان کے عظیم ترین شہسوار ہیں ۔

حضرت خالد بن ولید انتہائی اہم شخصیت کے مالک تھے ۔

مرتدین کا زور توڑنے اور سواد عراق اور شام کو فتح کرنے میں جو کارہائے نمایاں آپ نے سرانجام دئے وہ تاریخ میں بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ جس حیرت انگیز قابلیت کے ساتھ آپ نے اسلامی فوجوں کی کمان کی، اسی کا اثر تھا کہ جب دشمن سنتے تھے کہ خالد بن ولیدؓ ان کے مقابلے کے لئے آرہے ہیں تو ان کے چہرے چھوٹ جاتے تھے اور وہ مقابلے سے پہلے ہی ہمت ہار بیٹھتے تھے۔

ابو زید شہی

پہلا حصہ

خالد بن ولید ؓ اسلام سے قبل

نسب

حضرت خالد بن ولید کا شجرہ نسب مندرجہ ذیل ہے :

ابو سلیمان* خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر † بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لؤی - اس طرح رسول اللہ صلعم اور حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کا نسب ساتویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے - (شجرہ نمبر ۱)

آپ کی والدہ کا نام لبابة الصغریٰ تھا جو حارث بن حزن ہلالیہ کی بیٹی تھیں - آن کا اور آپ کے والد ولید کا سلسلہ نسب مضر پر جا کر مل جاتا ہے - (شجرہ نمبر ۲)

ولادت

تاریخ کی کسی کتاب سے ہمیں حضرت خالد بن ولید کی

* بعض روایتوں میں ابو سلیمان کی بجائے ابوالولید آیا ہے -

† بعض کتب تاریخ میں عمر کی بجائے عمرو لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے - ہم کئی قلمی اور مطبوعہ کتابوں کی چھان بین کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں - انساب القرشیین جلد ۱ صفحہ ۵۹ - ابن ہشام کی جلد اول و جلد ثانی - ابن سعد جلد ۳ اور طبری جلد ۲ و ۳ کے بے شمار مقامات میں عمر ہی لکھا ہے -


صحیح تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ ابن عساکر نے اور ابن برہان الدین نے اپنی سیرۃ* میں لکھا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت خالد بن ولید نے کشتی لڑی جس میں خالد نے عمر کی پنڈلی توڑ ڈالی جو کافی علاج معالجے کے بعد ٹھیک ہوئی۔ اس واقعے سے دونوں کا ہم عمر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت حضرت عمر ستائیس سال کے تھے۔ حضرت خالد کی بھی اس وقت تقریباً یہی عمر ہوگی †۔

حضرت خالد کی زندگی کے اصل واقعات شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان کے منشا، مولد، ان کے قبیلے اور ان کے والدین کا مختصر حال بیان کر دیا جائے۔ کیوں کہ اس طرح ہم ان کے متعلق ایسی رائے قائم کر سکتے ہیں، جو حقیقت سے دور نہیں ہوگی۔ وہ جگہ جہاں کوئی شخص قیام پذیر ہوتا ہے، اس جگہ کی آب و ہوا، وہاں کے میدان اور وادیاں، اس شخص کے ساتھی اور دوست اور قبیلہ جن میں وہ اپنی زندگی

* تاریخ ابن عساکر جلد ۳ صفحہ ۷۱۔ و سیرۃ ابن برہان الدین جلد ۳ صفحہ ۲۷۶۔

† اگر یہ بات مان لی جائے کہ دونوں ہم عمر تھے تو حضرت عمر کی عمر بعثت نبوی کے وقت متفقہ طور پر ۲۷ برس کی تھی اور رسول کریم صلعم پر پہلی وحی ۱۲ فروری ۶۱۰ء کو نازل ہوئی تھی (رحمۃ للعالمین جلد ۱ صفحہ ۵۲) اس سنہ میں سے ۲۷ برس سنہا کئے جائیں تو اس حساب سے خالد کی پیدائش ۵۸۳ء میں ثابت ہوتی ہے۔ یعنی رسول کریم صلعم کی ولادت با سعادت سے تقریباً بارہ سال بعد (مترجم)۔

شجره نمبر ١



شجرہ نمبر ۲


حضرت

خالد رضی کا شجرہ نسب

والد اور والدہ
کی طرف سے

ماخذ

- ۱- الطبری جلد ۲ صفحہ ۱۷۷-۱۷۸
- ۲- نہایۃ الارب جلد ۲ صفحہ ۳۵۶
- ۳- الاستیعاب جلد ۲ صفحہ ۷۷۸، ۷۷۹
- ۴- انساب الاشراف جلد ۲ صفحہ ۲۱۴-۲۱۶
- ۵- سیرۃ ابن ہشام جلد ۱ صفحہ ۱۶۷-۱۷۰
- ۶- الاصابہ جلد ۸ صفحہ ۱۷۸



گزارتا ہے ، اس کے اخلاق و عادات اور خصائل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں ۔ ان اثرات کا تعلق انسان کی ابتدائی زندگی ہی سے نہیں بلکہ قبل از پیدائش کی زندگی سے بھی ہوتا ہے ۔ ماہرین نفسیات کا مقولہ ہے کہ کسی شخص میں کسی خاص خصلت کا پایا جانا اس امر کی غازی کرتا ہے کہ اس کے والدین اس کی پیدائش سے پہلے کسی حادثے سے دو چار ہو چکے ہیں ۔ چنانچہ سترھویں صدی کے مشہور انگریزی مدبر تھامس لوب کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ انتہائی بزدل تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کو ہسپانوی بحری بیڑے ” آرمیڈا “ کے انگلستان پر چڑھائی کے دوران میں انتہائی خوف و ہراس کے عالم میں سے گزرنا پڑا تھا ۔ اسی خوف و ہراس کا اثر اس کے بیٹے میں بھی سرایت کر گیا ۔

خالد رض کا وطن

خالد بن ولید خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے جو مکہ کا مشہور و معروف قبیلہ تھا ۔ شہر اور قبیلے نے خالد پر گہرا اثر ڈالا تھا ۔ ان اثرات کو سمجھنے کے لئے مکہ کی طبعی اور اجتماعی حالتوں کا مطالعہ ضروری ہے ۔

مکہ ۔ طبعی حالت

مکہ حجاز کے جنوبی علاقے میں بنجر وادی کے درمیان واقع ہے ۔ یہاں کی ہوا گرم ہے البتہ پانی ہر قسم کی کدورتوں اور گندگی سے پاک ہے ۔ ساحل سمندر قریب ہی ہے اس لئے صحرا میں ہونے کے باوجود صحرائی آب و ہوا کا زیادہ اثر مکہ پر نہیں ہے ۔ یہ علاقہ زراعت اور صنعت و حرفت کے قابل نہیں ہے ۔

ریٹلی زمین ہونے کی وجہ سے کھیتی باڑی نہیں ہوسکتی اور صنعت و حرفت کے لئے خام مواد نہیں مل سکتا۔ اس لئے یہاں کے باشندوں کو روزی کمانے کے لئے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں اہل مکہ سال کا بیشتر حصہ سفر میں گزارتے تھے اور ان کے قدم رات دن گردش میں رہتے تھے۔ اس کی طرف خدا تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے :

لایلاف قریشن ایلا فہم۔ رحلة الشتاء والصیف۔ فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع و آسنہم من خوف (چوں کہ خدا تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں جاڑے اور گرمی کے سفروں کی الفت پیدا کردی ہے۔ اس لئے انہیں چاہئے کہ وہ اس الفت پیدا کر دینے کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن میں رکھا)۔

اہل مکہ پر ان حالات کا اثر

ان طبعی حالات کا اثر باشندوں پر پڑنا ضروری تھا۔ ان کی صحت بہت اچھی تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ستارہ شناسی میں انہیں کافی دسترس تھی۔ دن رات سفر میں رہنے کے باعث ان میں محنت و مشقت اٹھانے کی عادت راسخ ہو چکی تھی۔ مختلف قوموں سے میل جول تھا، اس لئے فراست اور دانائی میں یہ لوگ دوسرے عرب قبائل میں ممتاز تھے۔

مکہ۔ اجتماعی کیفیت

مکہ۔ دینی مراکز

مذہبی لحاظ سے عرب میں مکہ کو بہت اہمیت اور

تقدیس حاصل تھی کیوں کہ اس جگہ حضرت ابراہیم کے مبارک ہاتھوں سے بنائی ہوئی وہ مقدس عمارت کھڑی تھی جسے کعبہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جس کی طرف منہ کر کے دنیا کا ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور جس کی زیارت کے لئے ہر سال لاکھوں آدمی جمع ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کے مکہ میں واقع ہونے کے علاوہ اہل مکہ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل تھی کہ وہ حضرت اسماعیل جیسے جلیل القدر نبی کی اولاد تھے۔ کعبہ کی تولیت انہی کے ہاتھوں میں تھی اور اس وجہ سے وہ ایسی خاص مراعات کے حامل تھے جو دوسرے عرب قبائل کو حاصل نہ تھیں۔ چنانچہ اسلام سے قبل حج کے موقع پر اہل مکہ عرفات میں جا کر نہیں ٹھہرتے تھے حالانکہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عین حرم کے رہنے والے ہیں، حرم کی حد کے باہر کیوں جائیں۔ اسی طرح وہ باہر سے آنے والوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اپنے معمولی کپڑوں میں حج نہ کریں بلکہ خاص کپڑے (احرام) پہن کر آئیں اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تنگے ہو کر حج کریں*۔

اسی کا اثر تھا کہ تمام عرب قبائل میں اہل مکہ کو نہایت درجہ عزت اور احترام حاصل تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ عرب کا کوئی فرد، گھرانہ اور قبیلہ ان سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے بھی اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کر کے، جو اس نے

* اسلام نے ان تمام امتیازات کو مٹا دیا اور اہل مکہ پر یہ فرض قرار دیا کہ باہر سے آنے والے لوگ جس طریق پر حج کرتے ہیں اسی طریق پر وہ بھی کریں، انہیں کسی قسم کی مراعات نہیں دی جا سکتیں۔

اہل مکہ کو عطا فرما رکھی تھی ، مندرجہ بالا سورۃ میں شکر ادا کرنے کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے ۔

مکہ - تجارتی مرکز - مکہ آن تجارتی قافلوں کے راستے میں پڑتا تھا جو ہندوستان اور اپنے ملک کی چیزیں لے کر یمن سے شام اور مصر جایا کرتے تھے ۔ یہ قافلے پانی کا ذخیرہ کرنے اور راستے کے لئے سامان خورو نوش اکٹھا کرنے کے لئے یہاں ضرور قیام کیا کرتے تھے ۔ مکہ کے قریب کئی بازار تھے جن کی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں نہ صرف تجارتی سامان فروخت ہوتا تھا بلکہ شاعری اور ادب کے مقابلے بھی منعقد ہوتے تھے ۔ عرب قبائل ایک دوسرے پر اپنی فوقیت اور بڑائی کا اظہار انہی بازاروں میں کرتے تھے ۔ تجارتی قافلوں کے آنے جانے سے مکہ میں خوب چہل پہل گہا گہمی اور رونق رہتی تھی ۔ مکہ محض تجارتی قافلوں کی گزر گاہ ہی نہ تھا بلکہ یہاں کے باشندے بھی تجارت کا کام وسیع پیمانے پر کرتے تھے اور بیسیوں شہروں خصوصاً شام اور یمن کی جانب آن کے تجارتی قافلے بکثرت جایا کرتے تھے ۔

تجارت ، سفروں کی کثرت اور مختلف اقوام کے ساتھ میل جول رکھنے کا نتیجہ اہل مکہ کے حق میں بہت سود مند ثابت ہوا ۔ ان کے یہاں مال کی فراوانی تھی اور وہ نہایت خوش حال تھے ۔ دوسری قوموں کے ساتھ میل جول کے نتیجہ میں ان کے مختلف تہذیبوں اور افکار کے مطالعے کا موقع ملا جس سے ان کے عقلیں صیقل ہوئیں اور ذہن کافی حد تک بلند ہوا ۔

مکہ - ادبی اور اخلاقی مرکز - مذہبی حیثیت کے علاوہ

مکہ کو تمام عرب پر ادبی اور اخلاقی حیثیت سے بھی امتیاز حاصل تھا۔ یہ امتیاز اس وقت سے شروع ہوا جب قریش کے جد امجد قصی بن کلاب* نے خزاعہ پر غلبہ حاصل کر کے مکہ کی سیادت اور بیت الحرام کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ قصی کو جو عزت، قدر اور منزلت حاصل ہوئی وہ اس کی وفات پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ نسلاً بعد نسل اس کی اولاد میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ اہل مکہ تمام عرب میں انتہائی ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے۔ اہل مکہ کے اس امتیاز اور برتری میں بہت بڑا حصہ ان بازاروں کا بھی تھا جو مکہ کے قریب واقع تھے۔ یہ بازار جن کو میلہ کہنا زیادہ مناسب ہے ہر سال منعقد ہوتے تھے۔ سارے عرب سے شعراء، خطیب، مفکر اور حکماء ان میلوں میں شامل ہونے کے لئے آتے تھے۔ شعر و شاعری کی محفلیں منعقد ہوتیں، فصیح البیان خطیب اپنے خطبوں سے لوگوں کے دل گرماتے، ہر قبیلہ اپنے شاعروں، خطیبوں، مفکروں اور حکماء کے بل پر دوسرے قبیلوں پر اپنی بڑائی جتاتا اور اپنے بلند اور اعلیٰ مرتبے کا ڈھنڈورا پیٹتا۔ ان میلوں میں اہل مکہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ جب شعراء فیخریہ اشعار سناتے اور قبائل کے سردار اپنی بڑائی اور برتری کا اظہار کرتے تو وہ قریش کو مستثنیٰ قرار دے لیتے تھے۔ چنانچہ مشہور شاعر اخطل کہتا ہے

رأيت الناس ما حاشا قریشا
فانانحن افضلهم فعلا

* زمانہ حال کے مؤرخین کی تحقیق یہ ہے کہ قصی بن کلاب نے ۳۸۰ء میں وفات پائی۔

(میں نے تمام لوگوں کو خوب اچھی طرح پرکھ کر یہ رائے قائم کی ہے کہ ہم سوائے قریش کے باقی تمام لوگوں سے افضل ہیں)۔ اہل مکہ میں اپنی بڑائی اور برتری کے احساس کی وجہ سے شجاعت، بہادری، ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت، ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے اور دشمنوں سے پورا پورا انتقام لینے کا جذبہ، اپنی تعریف سنانے کا شوق، ہر قومی کام میں سبقت، وفاء عہد، پڑوسیوں اور پناہ گزینوں کی حفاظت کے خصائل قدرتی طور پر پیدا ہو گئے تھے۔ اپنے قومی کردار کے قیام اور عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لئے وہ کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔

مکہ۔ سیاسی مرکز۔ اہل مکہ میں سیاسی شعور بہت بڑھ

ہوا تھا۔ ان میں جو سیاسی نظام مروج تھا وہ شوراؤں اور جمہوری حکومتوں کے نظام سے بہت ملتا جلتا ہے۔ عہدوں اور رتبوں کی تقسیم میں ہر قبیلہ شریک تھا اور کوئی قبیلہ اپنے جائز حق سے محروم نہ تھا۔

باہمی معاملات میں مشورہ کرنے کے لئے ایک 'دار الندوہ' قائم تھا جہاں وقتاً فوقتاً سرداران قبایل جمع ہو کر حاضر الوقت مسائل پر بحث و تمحیص کرتے اور باہمی مشورے سے کسی قطعی اور یقینی فیصلے پر پہنچتے۔ دارالندوہ کی اسی شکل کے بعد میں متمدن اقوام نے اپنایا جسے آج کل 'پارلیمنٹ' کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

سرداروں کے فیصلوں کو حرف آخر کا درجہ حاصل ہوتا تھا اور قوم کو انہیں لازماً قبول کرنا پڑھتا تھا۔ دارالندوہ کا قیام اسی لئے عمل میں لایا گیا تھا کہ یہاں بیٹھ کر سرداران قبایل

پہلے متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کر لیں تا کہ کسی خاصی اور غلطی کا امکان نہ رہے۔ اس کے بعد وہ آسے اپنے اپنے قبیلے کے ذریعے نافذ کرائیں۔ اس طرح اہل مکہ کی قومی زندگی میں دارالندوہ کو زبردست اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو فیصلے کئے جاتے تھے کسی شخص کو ان پر چون و چرا کرنے کا حق حاصل نہ تھا۔ ہر کوئی سچے دل سے انہیں قبول کرتا اور بعد میں کسی قسم کے حیلے بہانے کر کے انہیں کالعدم قرار دینے کی کوشش نہ کرتا۔ اس طرح قوم میں یک جہتی اور اتحاد و اتفاق قائم رہتا تھا۔

اس جمہوری طریقے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ مکہ کے ہر قبیلے کے لوگوں میں اپنے فرائض کا احساس اور اپنے سردار کا احترام تھا۔ ان پر شوری کی اہمیت اچھی طرح واضح تھی اور اس کے لئے وہ ایسے ہی نمائندے (رئیس) کو منتخب کرتے تھے جو ان کے معاملات کو اچھی طرح مجلس کے سامنے پیش کر سکے۔

معاملات کے اس اجتماعی نظام کا اہل مکہ پر بہت گہرا اثر پڑا عرب کے دوسرے قبائل کے مقابلے میں ان کا اخلاق نمایاں طور پر بہتر تھا۔ اپنے اور دوسرے لوگوں کے حقوق و فرائض کا انہیں کماحقہ احساس تھا۔ قریش کے جدا کبر قصی سے قبل اور اسلام کے ظہور کے وقت اہل مکہ کی حالتوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو دونوں حالتوں میں ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ وہ ایک پراگندہ اور جاہل قوم سے، جسے اپنے اونٹوں کے علاوہ اور کسی چیز کی خبر نہ تھی، ایک ایسی متہمدن قوم میں تبدیل ہو گئے تھے جس نے شائستگی اور تہذیب میں کافی حد تک ترقی کر لی تھی۔ اہل مکہ کے کردار میں تبدیلی کی روشن مثال

”حلف الفضول“ کا واقعہ ہے جب انہوں نے مل کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ ہر مظلوم کی مدد کریں گے۔ اسی حلف الفضول کے بارے میں رسول کریم صلعم نے یہ فرمایا تھا کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں میں نے ایک ایسا عہد کیا تھا جو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے اور اگر اب اسلام کے زمانے میں بھی مجھ سے اس کا واسطہ دے کر مدد مانگی جائے تو میں اس کے لئے تیار ہوں*۔

* اس واقع کی تفصیل ابن ہشام نے اپنی سیرت میں باین الفاظ بیان کی ہے ”قریش کے بعض قبائل نے باہم ایک عہد کرنا چاہا۔ چنانچہ وہ عبداللہ بن جدعان بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی کے گھر میں جمع ہوئے اور سب نے بالاتفاق قسمیں کھائیں کہ مکہ میں وہ جس مظلوم کو دیکھیں گے، خواہ وہ مکہ کا باشندہ ہو یا مسافر، اس کے ساتھ ہو کر ظالم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ اس حلف کا نام انہوں نے ”حلف الفضول“ رکھا۔ مندرجہ ذیل قبائل اس موقع پر جمع تھے: بنو ہاشم، بنو عبدالمطلب، اسد بن عبدالعزی، زہرہ بن کلاب اور تیم بن مرہ۔“ اسی حلف کے بارے میں زبیر بن عبدالمطلب نے یہ اشعار کہے تھے

ان الفضول تحا لفوا وتعاقدوا
الا یقیم بیطن مکة ظالم
امر علیہ تعاهدوا وتعاقدوا
فالجار والمعتر فیہم سالم

(السمیعی جلد ۱ صفحہ ۹۹ و ابن خلدون جلد ۲ صفحہ ۳)

(باقی صفحہ ۳۱ پر)

اس کے ساتھ ساتھ قریش میں ایسے افراد کا پیدا ہو جانا جنہوں نے اپنے آبائی دین کو ترک کر کے ، بت پرستی کو چھوڑ کر خدائے واحد کی پرستش اختیار کر لی ، اس روشن ضمیری کا پتہ دیتا ہے جو قریش میں رونما ہو رہی تھی * -

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۰)

یعنی ” فضول نے (یہ حلف اٹھانے میں چار ایسے آدمی پیش پیش تھے جن کا نام فضل تھا - اسی مناسبت سے اس کا نام حلف الفضول پڑ گیا) یہ عہد کر لیا ہے کہ آئندہ وادی مکہ میں کوئی ظالم رہنے نہیں پائے گا - اس عہد کی انہوں نے خوب نگہداشت کی ، اسی کا نتیجہ ہے کہ اب پڑوسی اور غریب و بیگس انسان کی طرف کوئی شخص آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ۔“

* ابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں : ”ایک دفعہ قریش اپنے ایک تہوار کے موقع پر ایک بڑے بت کے قریب جمع ہوئے جس کی وہ بہت تعظیم کرتے تھے ، اس پر چڑھاوا چڑھاتے تھے ، اس کے نام پر قربانیاں کرتے تھے اور اس کے گرد طواف کرتے تھے - اس موقع پر چار اشخاص نے خفیہ طور پر ان سے علیحدگی اختیار کر لی جو سدرجہ ذیل تھے -

(۱) ورقہ بن نوفل - (۲) عبید اللہ بن جحش - (۳) عثمان بن حویث - اور (۴) زید بن عمرو بن نفیل - انہوں نے آپس میں طے کیا کہ چونکہ ہماری قوم نے انتہائی گمراہی اختیار کر لی ہے اور دین ابراہیمی سے ان کو کسی قسم کا تعلق نہیں رہا ، جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ محض پتھر ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ (باقی صفحہ ۳۲ پر)

ذہنیتوں اور افکار میں یہ تبدیلی کیونکر رونما ہوئی؟ اور وہ جو کبھی جنگل کے بھیڑے تھے متمدن انسانوں میں کس طرح تبدیل ہو گئے؟ یہ دراصل اس امر کی علامت تھی کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نئے دین کا ظہور ہونے والا ہے اور اس پیغمبر کی ولادت کا وقت آن پہنچا ہے جس کے سپرد دین خدا کو تمام مذاہب پر غالب کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ قریش کی ظاہری حالت اگرچہ ایسی نہ تھی کہ تاریخ میں زیادہ دیر تک ان کا نام زندہ رہ سکتا۔ اور وہ تمام عرب کو اپنے گرد اکٹھا کر کے اور انہیں اپنا مطیع و فرمان بردار بنا کر ایک لمبے عرصہ تک عالم پر حکمرانی کرتے۔ لیکن چونکہ رسول کریم صلعم کی ولادت کے بعد دنیا کی سرداری کا تاج انہی کے سر پر رکھا جانے والا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کی مخفی استعدادوں اور صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا جو ان عظیم فتوحات اور کارہائے نمایاں میں بے حد مدد ثابت ہوئیں جن کا کچھ ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔

خالد کا قبیلہ - حضرت خالد بن ولید بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ زیرک، دانا اور باکمال افراد کی اس قبیلے میں کمی نہ تھی۔ مغیرہ بن عبداللہ بن عمر،

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۱)

دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں اس لئے ہمیں دین ابراہیمی کی تلاش کرنی چاہئے۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل نے بہت کچھ غور و فکر کے بعد عیسائیت اختیار کر لی اور بائبل اور انجیل کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ عیسائیت کے بہت بڑے پیرو کار بن گئے۔“ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۱۴۵

جو سخاوت میں اپنی مثال نہ رکھتے تھے، اسی قبیلے کے فرد تھے۔ ابو وہب بن عمرو بھی، جنہوں نے سب سے پہلے لوگوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف وہی رقم صرف کی جائے جو حلال طریقوں سے حاصل کی گئی ہو، اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب قریش کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے شروع کرنے لگے تو ابو وہب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا ”اے میری قوم تم اس عمارت کی تعمیر شروع کرنے لگے ہو، جو خانہ خدا ہے، جس میں شب و روز خدا کا نام لیا جاتا ہے۔ اس لئے اس بات کا سختی سے خیال رکھو کہ اس کی تعمیر میں کوئی ایسی رقم نہ لگائی جائے جس کے حرام ہونے کے متعلق تمہیں شبہ بھی ہو۔ نہ تو اس میں فاحشہ عورت کا روپیہ خرچ ہونا چاہیئے نہ سود کا روپیہ لگنا چاہیئے اور نہ ایسا روپیہ لگنا چاہیئے جو لوگوں پر ظلم و ستم کر کے حاصل کیا گیا ہو *۔“ ابو وہب رسول کریم صلعم کے والد کے ساموں تھے اور تمام مکہ میں نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

بنو مخزوم کو قریش میں جو رتبہ حاصل تھا اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر کا سوال درپیش ہوا تو اس خیال سے، کہ تمام قبائل کو اس کی تعمیر کا شرف حاصل ہو، عمارت کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر قبیلے کے سپرد

* مؤلف روض الانف لکھتے ہیں کہ ابو وہب بن عمرو کی اس تقریر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قریش سود، ظلم اور فواہشات کو دل سے حرام ہی سمجھتے تھے (گو ظاہر میں انہیں ایسا کرنے میں کوئی باک نہ تھا) روض الانف جلد اول صفحہ ۱۳۱۔

ایک ایک حصہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر کعبہ کی عمارت کا چوتھائی حصہ یعنی حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک بنو مخزوم کے حصے میں آیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو مخزوم کس قدر بلند مرتبہ کے مالک تھے*۔

بنو مخزوم کی بزرگی اور قدر و منزلت کا اظہار اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ قریش کی سیادت کے معاملے میں ان کا بنو ہاشم سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے بنو ہاشم قریش کا معزز ترین قبیلہ تھا۔ کسی قبیلے کو اُس سے ہمسری کے دعوے کی جرأت نہ تھی۔ لیکن بنو مخزوم کسی بھی موقع پر اپنی بڑائی اور شرف و منزلت کا اظہار کرنے سے چوکتے نہ تھے۔ جب رسول کریم صلعم نے خدا تعالیٰ کے اذن سے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر آپ کی مخالفت کی کہ اگر خدا تعالیٰ کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ہم سے بناتا۔ چنانچہ ابو جہل بنو ہاشم کو مخاطب کر کے کہا کرتا تھا ”جس وقت سخاوت، شجاعت، بزرگی اور عزت و شرف کا مقابلہ ہوا اور گھوڑے میدان میں دوڑنے لگے اور ہم نے مقابلہ جیت لیا تو اس وقت تم نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں نبی پیدا ہو گیا“۔

جس وقت قریش نے رسول کریم صلعم کی مخالفت میں مغلوب

* یعقوبی جلد ۲ صفحہ ۱۸ - ابن ہشام جلد ۱ صفحہ ۱۳۱ - طبری جلد ۲ صفحہ ۲۰۰ - طبری اور ابن ہشام نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ مذکورہ بالا رکن تمام کا تمام بنو مخزوم کے حصہ میں آیا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ اس حصے کی تعمیر میں بنو مخزوم کے علاوہ چند اور قبائل بھی شریک تھے۔

† المغازی للواقدی صفحہ ۲۳ -

الغضب ہو کر باہم ایک معاہدہ تحریر کیا کہ کوئی شخص آپ سے اور بنو ہاشم سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے گا اور انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز سہیا نہ کرے گا۔ تو رسول کریم صلعم تمام بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے۔ قریش نے تمام راستے بند کر رکھے تھے اور کسی جانب سے بھی آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچ سکتی تھی۔ جب محصورین بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئے تو سب سے پہلے جس کے دل میں مسلمانوں کے متعلق جذبہٴ ترحم پیدا ہوا اور جس نے اس صریح ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کے لئے زور دیا وہ بنو مخزوم ہی کا ایک فرد زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ تھا*۔

جب بعض مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ چلے گئے تو کفار نے ان کو واپس بلانے کے لئے نجاشی شاہ حبشہ کے پاس دو آدمیوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا جس میں ایک تو عمرو بن العاص تھے اور دوسرا بنو مخزوم کا کوئی فرد تھا†۔ ایسی معزز سفارت میں جو ایک بادشاہ کے پاس بھیجی جا رہی

* طبری جلد ۲ صفحہ ۲۲۸ - ابن ہشام جلد ۱ صفحہ ۲۳۲ -
 † بعض روایات میں آیا ہے کہ عمرو بن العاص کے علاوہ دوسرا شخص حضرت خالد بن ولید کا بھائی عمارہ بن ولید تھا اور بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ وہ شخص عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ تاہم قطع نظر اس کے کہ کونسی روایت صحیح ہے اس امر پر مؤرخین کا اتفاق ہے کہ دوسرا شخص قبیلہ بنو مخزوم ہی سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت خالد کے بھائیوں کے ذکر میں یہ بیان تفصیل سے آئے گا۔

تھی بنو مخزوم کے ایک فرد کے شامل ہونے سے اس قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے جو قریش کے دل میں اس قبیلے کی تھی۔

بنو مخزوم اور سرداران بنو ہاشم کے درمیان از دواج کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ چنانچہ عاتکہ بنت عبدالمطلب، ابوآسیہ بن مغیرہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ اسی ابوآسیہ کے لڑکے زہیر بن ابوآسیہ نے سب سے پہلے قریش کے ظالمانہ معاہدے کو فسخ کرنے کا سوال اٹھایا تھا۔ رسول کریم صلعم کی دادی فاطمہ بنت عمرو بنو مخزوم ہی سے تعلق رکھتی تھیں* اگر ان سب باتوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی بنو مخزوم کی منزلت، شرف اور فخر کے لئے یہ امر کافی ہے کہ رسول کریم صلعم نے بھی اس قبیلے سے از دواجی تعلق قائم کیا۔ چنانچہ آپ کی دو ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں †۔

جس طرح بنو مخزوم قریش میں انتہائی بلند مرتبہ کے مالک تھے اسی طرح وہ دولت و ثروت میں بھی کسی سے کم نہ تھے۔ واقدی نے قریش کے اس عظیم الشان قافلے کا حال بیان کرے ہوئے، جو جنگ بدر سے قبل اس مقصد کے لئے تیار کیا گیا تھا کہ اس سے جو منافع حاصل ہوگا اسے مسلمانوں کے خلاف جنگ

* فاطمہ بنت عمرو رسول کریم صلعم کے والد حضرت عبداللہ آپ کے چچاؤں ابوطالب اور زبیر اور سوائے صفیہ کے باقی تمام پھوپھیوں کی والدہ تھیں۔ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۷۸۔ طبری جلد ۲ صفحہ ۱۷۳۔ ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۔
† طبری جلد ۳ صفحہ ۱۷۷ و ۱۷۸۔ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۵۵ و ۲۶۷۔ ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۱۱۔

تیار یوں میں خرچ کیا جائے گا، لکھا ہے کہ اس قافلے میں بنو مخزوم کے دو سو اونٹ تھے اور اس میں ان کا حصہ چار پانچ ہزار مثقال سونا تھا*۔


جہاں بنو مخزوم رسول کریم صلعم کی مخالفت اور دشمنی کرنے میں پیش پیش تھے وہاں اس قبیلے میں مخلصین کی بھی کمی نہ تھی۔ اس قبیلے کے کئی لوگ سابقوں الاولوں میں شامل ہیں اور کئی نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی۔ چنانچہ حبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے ہجرت کی ان میں بنو مخزوم کے آٹھ افراد تھے † جن میں حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد اور حضرت ارقم بن ابی ارقم ‡ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوسلمہ رضہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور حبشہ اور مدینہ کی ہجرتوں کے موقع پر مہاجرین میں پیش پیش آپ ہی تھے۔ حضرت ارقم کی بلندی مرتبہ کے لئے یہی بیان کر دینا کافی ہے کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد آپ ہی کی جائے سکونت تھی جہاں وہ کفار مکہ کی نظروں سے چھپ کر خدائے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے اور جہاں جمع ہو کر وہ اسلام کی ترقی کی تدابیر سوچا کرتے تھے۔

شجرات نمبر ۳، ۴ سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ بنو مخزوم میں کتنے مشہور اور معزز ترین لوگ گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے

* المغازی للواقدی صفحہ ۲۱۔

† ابن ہشام جلد اول صفحہ ۲۰۶۔

‡ ابن ہشام (جلد اول صفحہ ۱۶۵) کی روایت کے بموجب حضرت ابوسلمہ کا نمبر اسلام لانے والوں میں دسواں اور حضرت ارقم کا بارہواں تھا۔ لیکن ابن سعد (جلد ۳ صفحہ ۱۷۳) کی روایت ہے کہ ابوسلمہ ساتویں نمبر پر اسلام لائے۔



خالد

- (۱) بعیت رضوان میں شامل تھے -
- (۲) معززین قریش میں سے تھے اور مؤلفہ قلوبہم کے زمرہ میں شامل تھے -
- (۳) رسول اللہ صلعم کی دادی اور زبیر اور ابوطالب کی والدہ تھیں -
- (۴) اولین مسلمانوں میں سے تھے اور حبشہ کی جازب ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے -
- (۵) ” ” ” ”
- (۶) اولین مسلمانوں اور سہاجرین حبشہ میں شامل تھے - مدینہ کی طرف سب سے پہلے انہوں نے ہی ہجرت کی -
- (۷) سوۃ قلوبہم کے زمرہ میں شامل اور مخاص مسلمان تھے -
- (۸) ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے - انہی کے گھر میں مسلمان خفیہ طور پر جمع ہو کر نمازیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے -

ماخذ

- (۱) طبقات ابن سعد
- (۲) سیرۃ ابن ہشام
- (۳) تاریخ طبری
- (۴) انساب القرشیین
- (۵) تاریخ ابن خلدون

ع ساخذ

شجرہ نمبر ۴

(۱) سغازی الو اقدی (۲) طبقات ابن سعد
(۳) سیرة ابن ہشام (۴) تاریخ طبری
(۵) تاریخ ابن خلدون (۶) فتوح البلدان
بلاذری

حضرت خالد رضی کے چچا اور بعض چچا زاد

بھائی اور بہنیں

الہ غیبیہ

عبداللہ الفساکہ عبدشمس حفص ہاشم الولید ابو حذیفہ ابوربیعہ ابوامیہ ہشام

ابوجہل

۲ سلمہ

۳ خالد

۸ ام سلمہ

۹ المهاجر المعاص

خالد

۱۲ ابوآبیدہ

۱۰ عیاش

۸ ام سلمہ

۳ الحارث

۵ المعاص

۱۴ عثمان

۱۶ ابو قیس

۱۵ الولید

۱۳ حذیمہ

رضی اللہ عنہ

۱۸ نوفل

۱۶ ابو قیس

۱۵ الولید

۱۳ حذیمہ

رضی اللہ عنہ

خاندان کے چچا زاد بھائیوں اور بہنوں کے حالات (متعلقہ شجرہ نمبر ۴)

(۱) ابو جہل : سرداران قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ مشہور صحابی حضرت عکرمہ رض کا باپ تھا۔

(۲) سلمہ : قدیمی مسلمان ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جنگ مرج الصفر میں شہادت پائی۔

(۳) خالد : مؤلفہ قلوبہم کے زسرہ میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہوازن کی غنیمتوں میں سے حصہ دیا تھا۔

(۴) حارث : مخلص مسلمان تھے۔ ان کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے۔

اولی قریش بالمکرم والندی
فی الجاہلیۃ کان والاسلام

(جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں اخلاق اور سخاوت کے لحاظ سے حارث بہترین شخص ہیں)

(۵) العاص : سرداران قریش میں سے تھا۔ جنگ بدر میں حضرت عمر بن خطاب نے اسے قتل کیا۔

(۶) زہیر : محاصرہ شعب ابو طالب کو توڑنے کے لئے سب سے پہلے انہی نے آواز اٹھائی تھی۔

(۷) عبداللہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔

(۸) ام سلمہ : ام المومنین زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۹) المهاجر : انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنعا

کا امیر مقرر کر کے بھیجا تھا۔ مرتدین کی جنگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رض نے انہیں اسود عنسی سے لڑنے کے لئے جھنڈا مرحمت فرمایا تھا۔

(۱۰) عیاش : ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور دارارقم میں مسلمانوں کے جمع ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک تھے۔

(۱۱) عبداللہ : صحابی تھے۔ جنگ طائف میں شہید ہوئے۔
(۱۲) ابوامیہ : سرداران قریش میں سے تھا اور جنگ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل ہوا۔

(۱۳) ہاشم : ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک تھے۔

(۱۴) حنتمہ : حضرت عمر بن خطاب کی والدہ تھیں۔

(۱۵) الولید : جنگ یمامہ میں شہادت پائی۔

(۱۶) ابوقیس : سرداران قریش میں سے تھا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے اسے قتل کیا تھا۔ پہلے اسلام لے آیا تھا پھر مرتد ہو گیا۔

(۱۷) عثمان : یہ ابنِ حضرمی کے قافلہ میں شریک تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا۔

(۱۸) نوفل : جنگ خندق کے موقع پر خندق میں گر پڑا تھا۔ مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بارش کی۔ حضرت علی نے خندق میں کود کر اس کا کام تمام کر دیا۔

جنہوں نے اپنی تمام قوم کو سر بلند کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور جن کی وجہ سے اس قبیلے کا نام اب تک زندہ ہے۔ اس قبیلے کے بعض افراد ابھی تک بالائی مصر میں 'اشمونین' کے مقام پر آباد ہیں اور بہادری اور شجاعت کی قومی خصلتیں ان میں اب تک موجود ہیں۔

اس قبیلے کو قریش میں جو شرف اور مرتبہ حاصل تھا اس کے مختصر سے ذکر کے بعد یہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت خالد کے اعمام (چچاؤں) کا بھی مختصر ما حال بیان کر دیں جس سے معلوم ہو کہ انہیں اپنی قوم میں کس درجہ بزرگی، سیادت اور بلند رتبہ حاصل تھا۔

خالد رضہ کے اعمام

حضرت خالد کے چچا قریش میں ہر قومی کام کے موقع پر سب سے آگے ہوتے تھے۔ شرافت، سخاوت اور امارت میں وہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔

خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا سوال پیدا ہوا تو قریش میں زبردست اختلاف برپا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسی کے حصے میں آئے۔ اس جھگڑے نے یہاں تک طول کھینچا کہ قریب تھا کہ تلواریں کھینچ جاتیں اور خانہ جنگی برپا ہو جاتی۔ اس وقت حضرت خالد کے چچا ابو امیہ بن مغیرہ ہی تھے جنہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس جھگڑے کا تصفیہ اس شخص سے کرایا جائے

جو کل سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو*۔ اس تجویز پر سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا اور قریش ایک زبردست خانہ جنگی سے بچ گئے۔

ابو امیہ قریش میں ”زاد الراکب“ (مسافر کا توشہ) کے لقب سے مشہور تھے کیوں کہ جو شخص ان کے ساتھ سفر میں ہوتا تھا اسے اپنا زاد راہ لینے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ اس کے کھانے پینے کے تمام اخراجات ابو امیہ برداشت کرتے تھے۔ ابو امیہ ظہور اسلام سے قبل ہی وفات پا گئے۔ ابوطالب نے ان کا مرثیہ کہا جس کا ایک شعر یہ ہے :

الا ان زاد الراكب غير مدافع
بسرو سجيم غيبته المقابر†

(افسوس ”زاد الراکب“ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اسے ”سرو سجیم“ میں قبروں نے اپنے نیچے چھپا لیا)۔
ابو احمیحہ نے ان کا مرثیہ لکھتے ہوئے کہا :

* قریش کی خوش قسمتی تھی کہ اگلے روز سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ رسول کریم صلعم تھے جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے ”یہ شخص امین ہے اس لئے ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں“ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۱۳۲ - طبری جلد ۲ صفحہ ۲۸۱ - ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۹ - ابن خلدون جلد ۲ صفحہ ۵۔

† ”سرو سجیم“ اس شہر کا نام ہے جہاں ابو امیہ تجارت کے لئے شام جاتے ہوئے فوت ہوئے تھے۔ بلوغ الارب مؤلفہ الوسی جلد ۲ صفحہ ۲۱۵۔

الاهلك الماجد الرافد و كل قریش له حامد
و من هو عصمة أیتامنا و غیث اذا فقد الراعد*

(افسوس وہ شخص فوت ہو گیا جو بزرگ اور سخی تھا ،
قریش کا بچہ بچہ اس کی تعریف میں رطب اللسان تھا ۔ وہ ہمارے
یتیموں کی پناہ گاہ تھا ، وہ خشک سالی کے موسم میں باران
رحمت تھا) ۔

حضرت خالد کے دوسرے چچا بھی سخاوت اور مہمان نوازی
میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے ۔ فاکہ بن مغیرہ نے ایک
”بیت الضیافت“ بنا رکھا تھا جہاں جا کر ہر شخص بلا اجازت
کھانا کھا سکتا تھا ۔ آپ کے ایک اور چچا ابو حذیفہ بن مغیرہ
ان چار بڑے بڑے رؤساء[†] میں شریک تھے جنہوں نے
رسول کریم صلعم کے فیصلے کے بعد حجر اسود کو اپنی جگہ
رکھنے کے لئے اس چادر کے کونے پکڑے تھے جس میں حجر اسود
رکھا ہوا تھا ۔

ایک چچا ہشام بن مغیرہ بھی قریش کے سرداروں میں سے
تھے ۔ حرب فجار کے موقع پر بنو مخزوم کی قیادت انہیں کے سپرد
تھی ۔ وہ بڑے جری اور بہترین شہسوار تھے ۔ شکل بڑی
بارعب تھی ۔ ان کی وفات سے قریش کو سخت ریخ پہنچا تھا اور

* السیرة الحلبیہ جلد اول صفحہ ۱۶۱ ۔

† یہ چار رؤساء مندرجہ ذیل تھے :-

عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس ۔ اسود بن عبدالمطلب بن اسد بن
عبدالعزی ۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عمر بن مخزوم اور قیس بن عدی
السہمی ۔ الیعقوبی جلد ۲ صفحہ ۱۹ ۔ ابن خلدون جلد ۲
صفحہ ۴ ۔ مروج الذهب مؤلفہ مسعودی جلد اول صفحہ ۳۹۷ ۔

کئی خطبے ان کی شان میں پڑھے گئے تھے۔ مقدسی لکھتا ہے
 ”ہشام کی وفات کے بعد مکہ کے قریب تین سال تک کوئی میلہ
 نہ لگا۔ کئی سال تک یہ طریقہ رائج رہا کہ اگر قریش کسی
 واقعہ کا ذکر کرتے تو یہ کہتے کہ یہ واقعہ ہشام کی موت کے
 اتنے عرصہ بعد وقوع پذیر ہوا*“ ہشام کی وفات پر ایک شاعر
 نے اپنے مرثیے میں کہا تھا :

و اصبیح بطن مكة مقشعرا
 كان الارض ليس بها هشام †

(وادی مکہ بے نور ہو گئی ہے۔ کیونکہ ہشام اس زمین سے
 اٹھ گیا ہے) ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد کے
 چچا قوم میں کس قدر بلند شخصیات کے مالک تھے (تفصیل کے
 لئے شجرہ نمبر ۴ دیکھیں)

خالد رض کے بھائی

مورخین میں آپ کے بھائیوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف
 ہے۔ بعض ان کی تعداد دس † بتاتے ہیں بعض تیرہ۔ بعض کہتے
 ہیں کہ آپ سات بھائی تھے۔ قرآن کریم کی آیت (و بنین شہودا
 سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کئی بھائی تھے جو
 سب کے سب مرفہ الحال تھے اور عیش و آرام سے زندگی بسر
 کرتے تھے۔ سات بھائیوں کا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ
 اسلام سے قبل اور بعد کے واقعات اور غزوات کی چھان بین

* انساب القرشیین مؤلفہ مقدسی جلد ۲ صفحہ ۳۴۸ -

† بلوغ الارب مؤلفہ الوسی جلد ۳ صفحہ ۲۱۵ -

‡ امام فخرالدین رازی مؤلف تفسیر کبیر نے بھی بھائیوں

کی تعداد دس ہی لکھی ہے (تفسیر کبیر جلد ۸ صفحہ ۱۸۷)

کرنے سے سات سے زیادہ کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ سات بھائیوں کے نام یہ ہیں* - (۱) عاص (۲) ابوقیس (۳) عبد شمس (۴) عمارہ (۵) ہشام (۶) ولید (۷) خالد۔ بہنیں دو تھیں فاطمہ اور فاختہ۔

ان میں سے عاص اسلام سے قبل ہی بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ ابوقیس اسلام لے آیا تھا لیکن بعد ازاں مرتد ہو گیا اور جنگ بدر میں حضرت حمزہ اور بعض روایات کے بموجب حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی ”ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم †“ (بعض وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں)۔

عبد شمس حضرت خالد کے بھائی کا نام ہی نہ تھا بلکہ ان کے والد کی کنیت بھی تھی ‡۔

عمارہ کو قریش نے عمرو بن العاص کے ساتھ مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لانے کے لئے بھیجا تھا۔ اسی عمارہ کو قریش نے رسول کریم صلعم کے چچا حضرت ابو طالب کو آپ کے بدلے

* کسی مؤرخ نے ان بھائیوں کے نام یکجا نہیں لکھے۔ مختلف واقعات کی چھان بین کرنے سے جن بھائیوں کا حال ہمیں معلوم ہوا وہ ہم نے لکھ دیا ہے البتہ علامہ الوسی نے اپنی تفسیر (جلد ۹ صفحہ ۱۲۲) میں مذکورہ بالا ساتوں بھائیوں کے نام لکھے ہیں۔

† ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۷۵ و ۱۰۳۔

‡ المغازی للواقدی صفحہ ۱۴۷۔ انساب الاشراف جلد اول

صفحہ ۶۰۔ ابن الاثیر جلد ۲ صفحہ ۴۸۔ ابن خلدون جلد ۲

صفحہ ۲۱۔

پیش کیا تھا اور کہا تھا ”اے ابوطالب ! یہ لڑکا قریش میں سب سے خوبرو اور صاحب فہم و تمیز ہے۔ تم اسے اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے اپنے بھتیجے محمد کو ہمیں دے دو*“۔ قریش کا یہ کہنا دراصل یہ اعتراف کرنا تھا کہ عمارہ میں وہ خوبیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ تمام قوم میں منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لئے انہوں نے اس کو رسول کریم صلعم کے عوض ابوطالب کے سامنے پیش کیا اور اس کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے نجاشی کے پاس بھیجنے کے لئے بھی منتخب کیا †۔

خالد کے علاوہ ولید اور ہشام کو بھی اسلام قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہشام ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رسول کریم صلعم اسلام قبول کرنے کے بعد بطور تالیف قلوب کچھ نہ کچھ مرحمت فرمایا کرتے تھے †۔ ولید پران کے بھائی اور دوسرے قریش اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت ظلم توڑا کرتے تھے۔ آخر کار وہ موقع پا کر مدینہ بھاگ گئے۔ راستے میں لگا تار چلنے کی وجہ سے ان کی ایک انگلی زخمی ہو گئی۔ انہوں نے انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا :

هل انت الا اصبع ذمیت

و فی سبیل اللہ مالقت

* طبری جلد ۲ صفحہ ۲۲۰ - ابن ہشام جلد ۱ صفحہ ۱۷۱ -

† سیرة ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۳۰۹ -

‡ یہ بیان بعض کتب (مثلاً طبری جلد ۲ صفحہ ۲۲۵) کے

اس بیان کے مطابق نہیں ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ ”حضرت

(باقی صفحہ ۳۹ پر)

تو کیا ہے؟ محض ایک انگلی ہی تو ہے جو زخمی ہو گئی۔
ابھی تو نے اللہ کے راستے میں تکلیف ہی کیا برداشت کی ہے؟
ولید اپنے دونوں بھائیوں خالد اور ہشام سے بہت پہلے اسلام
لائے تھے۔ رسول کریم صلعم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان
کے لئے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت خالد کے اسلام لانے میں
ولید کا بھی ہاتھ ہے۔

آپ کی بہن فاطمہ نے فتح مکہ کے دن رسول کریم صلعم کی
بیعت کی تھی۔ ان کی شادی حارث بن ہشام مخزومی سے ہوئی
تھی۔ دوسری بہن فاخہ، صفوان بن امیہ کی بیوی تھیں اور اپنے
شوہر سے کئی ماہ قبل اسلام لائی تھیں*۔ (شجرہ نمبر ۵ دیکھیں)

خالد رضی اللہ عنہ کی والدہ


آپ کی والدہ لبابة الصغریٰ کا نسب اپنے شوہر ولید سے
قیس عیلان بن مضر پر جا کر مل جاتا ہے (شجرہ نمبر ۲ دیکھیں)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۸)

عمرو بن العاص کے ساتھ دوسرے شخص عبداللہ بن ابی ربیعہ
تھے، عمرو بن العاص کئی بار حبشہ گئے تھے اور ایک بار عمارہ
بن ولید بھی ان کے ساتھ تھا۔ چنانچہ مؤلف السیرة الحلبيہ نے
یہی خیال ظاہر کیا ہے (السیرة الحلبيہ جلد اول صفحہ ۳۳۲ و
جلد ۲ صفحہ ۲۶۶) جن کتابوں میں عمارہ کا عمرو بن العاص کے
ساتھ جانا بالصراحت مذکور ہے ان میں اغانی (جلد ۳ صفحہ ۳۴)
الیعقوبی (جلد ۲ صفحہ ۲۸) اور الروض الانف (جلد ۱ صفحہ ۱۷۱)
قابل ذکر ہیں۔

* الاستیعاب جلد ۲ صفحہ ۷۷۵ و ۷۷۶ - طبری جلد ۳
صفحہ ۱۰ و ۱۲۲ -

شخصہ نمبر ۵
حضرت خالد رض کے بھائی ہیں



ان کے اسلام لانے کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے۔
 مؤلف کتاب الاصابہ لکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئی تھیں۔
 ان کے اس دعوے کی بنیاد اس امر پر ہے کہ وہ حضرت عمر
 کے زمانے تک زندہ رہیں* لیکن ابن حجر ان کے اسلام لانے کو
 تسلیم نہیں کرتے۔ لبابة الصغریٰ کی آٹھ بہنیں تھیں۔

(۱) میمونہ بنت حارث زوجہ رسول کریم صلعم۔ گویا حضرت
 خالد کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی ایک خالہ امہات المؤمنین
 میں سے تھیں۔

(۲) ام الفضل لبابة الكبرى بنت حارث زوجہ عباس بن
 عبدالمطلب۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے
 بعد وہ سب سے پہلی عورت ہیں جو اسلام لائیں۔ ان کی اولاد
 آگے چل کر عظیم الشان عباسی سلطنت کی مالک بنی۔

(۳) عصماء بنت حارث زوجہ ابی بن خلف الجہجی۔ ان کے
 بطن سے ابان پیدا ہوئے۔

(۴) عزه بنت حارث زوجہ زیاد بن عبد اللہ بن مالک الہلالی۔
 ان کے متعلق ابن عبدالبر کہتے ہیں ”کسی شخص نے ان کا
 شمار صحابیات میں نہیں کیا۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ انہیں
 اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی۔“

(۵) ہزیلہ بنت حارث۔ ان کا نکاح کسی اعرابی کے ساتھ
 ہوا تھا۔ یہ اکثر اپنی بہن حضرت میمونہ کو گھبی، پنیر اور
 مکھن بھیجا کرتی تھیں۔

(۶) اسماء بنت عمیس۔ سب سے پہلے یہ حضرت جعفر بن ابی

طالب کے نکاح میں آئیں۔ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے شادی کی۔ آخر میں حضرت علی بن ابی طالب کی زوجیت میں آئیں*۔

(۷) سلمیٰ بنت عمیس - پہلے یہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کی زوجیت میں رہیں۔ ان کی شہادت کے بعد شداد بن اسامہ بن ہاد اللیثی نے ان سے شادی کی۔

(۸) سلامہ بنت عمیس زوجہ عبداللہ بن کعب بن منبہ خثعمی †

اس طرح لبابة الصغری سمیت کل سگی بہنیں چھ اور سوتیلی بہنیں (باپ کی طرف سے) نو تھیں۔ رسول کریم صلعم نے انہیں ”الاخوات مومنات“ کا خطاب مرحمت فرمایا تھا۔ لبابة کے سوتیلے بھائی حمیہ بن جزء بن عبدیغوث زبیدی تھے جو ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلعم نے انہیں ”خمس“ وصول کرنے پر لگایا ہوا تھا اور انہیں ایک لونڈی بھی مرحمت فرمائی تھی۔ کجی نے لکھا ہے کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے لیکن واقدی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جنگ جس میں وہ شریک ہوئے جنگ مریسیع ✱ تھی۔

- * انساب الاشراف جلد ۲ صفحہ ۲۱۳ و ۲۱۶ - الاستیعاب جلد ۲ صفحہ ۷۶۸ و ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۶ - السہیلی جلد ۲ صفحہ ۷۸ و ۷۹ -
- † انساب الاشراف جلد اول صفحہ ۲۱۶ - الاستیعاب جلد ۲ صفحہ ۷۷۹ و ۷۸۷ و ۷۸۶ -
- ‡ الروض الانف جلد اول صفحہ ۱۶۸ -
- ✱ الاصابہ جلد ۶ صفحہ ۶۸ - الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۰۶ -

ان تمام بہنوں کی والدہ ہند بنت عوف بن زہیر بن حارث بن
حماطہ الحمیریہ تھیں*۔ شجرہ نمبر ۲ اور شجرہ نمبر ۶ سے واضح
ہو جائے گا کہ شرف اور حسب و نسب میں خالد کی والدہ کا درجہ
کتنا بلند تھا۔ وہ اس قبیلے کی طرف منسوب تھیں جو تمام قبائل
بضر میں سب سے زیادہ معزز اور بڑا تھا۔ اس حسب و نسب
اور شرافت کا اثر ان کے بیٹوں کے اخلاق پر پڑنا لازمی تھا۔

خالد رض کے والد

خالد کے والد عبد شمس ولید بن مغیرہ مخزومی تھے جو
قریش میں صاحب عقل و فہم و ذکا اور بڑے فصیح البیان
خطیب مانے جاتے تھے۔ انہیں جو عزت، شرف اور رتبہ میسر
تھا وہ بہت کم لوگوں کو حاصل تھا۔ وہ جاہلیت کے زمانے
میں قریش کے سرداروں میں سے تھے †۔ عبدالمطلب کی وفات
کے بعد جن لوگوں نے قریش کی سیادت کا دعویٰ کیا ان میں
وہ بھی شامل تھے ‡۔ اسلام سے قبل ہی انہوں نے مے نوشی
بالکل ترک کر دی تھی ✖۔ چوری کرنے کے جرم میں ہاتھ کاٹنے
کی سزا سب سے پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی تھی جس کی بعد میں
اسلام نے بھی توثیق کر دی *۔

* الاستیعاب جلد ۲ صفحہ ۷۸۰۔ انساب الاشراف جلد اول
صفحہ ۲۱۳۔

† یعقوبی جلد ۱ صفحہ ۳۰۰۔

‡ یعقوبی جلد ۲ صفحہ ۱۳۔

✖ السمیلی جلد ۱ صفحہ ۲۸۳۔

• صبح الاعشی جلد ۱ صفحہ ۳۳۵۔

ماخذ

الاستیعاب جلد ۲

صفحہ ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۶

الاصابہ جلد ۸ صفحہ ۱۷۸، جلد ۶

صفحہ ۶۷

انساب الاشراف جلد ۲

صفحہ ۲۱۳، ۲۱۶

سو تیلی خالائیں

حمیہ بن جزء الزیدی (سو تیلے ساموں)

اسماء بنت عمیس

سلمیٰ بنت عمیس

سلاسه بنت عمیس

ہند بنت عوف

زوجہ

حارث بن حزن

حضرت خالد رضہ کی سگی اور

سو تیلی خالائیں اور ساموں

سگی خالائیں

عزہ

عصاء

ہزیلہ

ام المومنین میمونہ رضہ

لبابۃ الصغریٰ

لبابۃ الکبریٰ

شجرہ نمبر ۶

انہیں ”عدل قریش*“ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک سال صرف وہ اکیلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے حالانکہ دوسرے سال تمام قریش مل کر غلاف چڑھاتے تھے۔

حج کے موسم میں وہ منیٰ کے مقام پر تمام حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اور کسی شخص کو اجازت نہ تھی کہ وہ منیٰ میں کھانا پکانے کے لئے آگ جلائے۔ حجاج کے ساتھ ان کے مشفقانہ سلوک کی وجہ سے اعرابی ان کے بے حد مداح اور ثناخواں تھے †۔ خدا تعالیٰ نے انہیں مال و دولت کی فراوانی سے بھی نوازا تھا۔ بارہ ہزار دینار سے کم کسی وقت بھی ان کے پاس روپیہ نہ ہوتا تھا ‡۔ وہ بے شمار باغات کے مالک تھے جو مکہ سے طائف تک چلے گئے تھے اور جن کا پھل سال بھر ختم نہ ہوتا تھا ❖۔

* مؤلف انساب الاشراف لکھتے ہیں کہ انہیں یہ لقب اس لئے دیا گیا تھا کہ ان کے نزدیک عدل و انصاف میں تمام قریش کو مساوی حقوق حاصل تھے (جلد اول صفحہ ۶)۔
السیرة الحلبیہ جلد اول صفحہ ۳۴۷۔

† السیرة الحلبیہ جلد اول صفحہ ۳۴۷۔

‡ آیت ”وجعلت له مالا ممدوداً“ انہی کے بارے میں اور اسی لئے نازل ہوئی تھی۔ السیریلی جلد اول صفحہ ۱۷۳۔

❖ السیرة الحلبیہ جلد اول صفحہ ۳۴۷۔ لیکن میرے محترم استاد شیخ عبد الوہاب اس امر کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ”مکہ سے طائف تک باغات کا وجود صرف خواب ہی میں ممکن ہے۔ دونوں شہروں کے درمیان صرف (باقی صفحہ ۵۶ پر)

ان کی دلیری اور عزم و ارادہ کی پختگی کا اظہار اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ جب قریش نے کعبہ کو ڈھا کر از سر بنانے کا ارادہ کیا تو ہر شخص اسے ڈھاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں اس پر خدائی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ لیکن انہوں نے کدالی اور یہ کہہ کر عمارت ڈھانی شروع کر دی ”اے اللہ! ہم کچھ کرنے لگے ہیں اس میں کسی بد ارادے کو دخل نہیں ہمارا ارادہ نیک ہے۔“

کعبہ کی تعظیم وہ اتنی کرتے تھے کہ کبھی اس میں جو تیرپن کر داخل نہیں ہوئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس طریقے کو رواج دیا وہ ولید ہی تھے †۔ عقیدے پختگی اور اپنے آبائی دین سے حد درجہ شغف ہی کا اثر تھا کہ اسلام کے شدید مخالف بن گئے۔ اور رسول کریم صلعم کے پیغمبر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۵)

جبل کراء پر باغات ہیں لیکن یہ مقام مکہ سے کافی فاصلے ہے اور کافی بلند ہے، محترم استاد نے جو کچھ کہا ہے وہ اس مشاہدے کی بنا پر کہا ہے جو انہیں ۱۳۴۹ھ میں سفر کے دوران میں حاصل ہوا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ طبعی حالات کی وجہ سے زمین میں تغیر واقع ہو گیا ہو اور جب سرزمین میں پہلے باغات موجود ہوں طبعی اثرات کے باعث وہ میں ناپید ہو گئے ہوں۔ ہمارے بیان سے یہ بھی لازم نہیں کہ یہ باغات مکہ سے طائف تک مسلسل چلے گئے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ فاصلے فاصلے پر واقع ہوں۔

* طبری جلد ۲ صفحہ ۲۰۱۔ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۱۳۱

† صبح الاعشی جلد ۹ صفحہ ۴۲۸۔

کو ناکام بنانے کے لئے انہوں نے سرتوڑ کوشش شروع کر دی۔
 قریش کے شرفاء اور معززین کے اس وفد میں جو حضرت ابوطالب
 کے پاس یہ درخواست لے کر گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کو
 ان کے دین کی تحقیر اور ان کے بتوں کی برائی کرنے سے روک
 لیں، ولید بھی شامل تھے*۔

رسول کریم صلعم کی شدید خواہش تھی کہ ولید اسلام
 لے آئیں تا کہ اسلام کو شان و شوکت نصیب ہو۔ جب کبھی
 ولید آپ کے پاس آتے تو آپ نہایت انہماک سے تبلیغ کرتے۔ ایک
 دفعہ آپ انہیں تبلیغ فرما رہے تھے کہ ابن ام کلثوم صحابی، جو نابینا
 ہے، آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ آپ انہیں دین کے بارے
 میں کچھ بتائیں ابن ام کلثوم کا بیچ میں دخل دینا رسول کریم صلعم
 کو کچھ ناگوار گزرا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں:

”عس وتولی أن جاءہ الاعمال وما یدریک لعلہ یزکی.....“
 اے رسول تو نے محض اس بات پر کہ تیرے پاس اندھا آیا،
 بیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ تجھے کیا پتہ کہ شاید وہ اندھا
 پاکیزگی حاصل کرتا)

طبعی اور خاندانی شرافت کا یہ اثر تھا کہ باوجود اسلام کے
 شدید مخالف ہونے کے جس وقت حضرت عثمان بن مظعون الجمحی
 نے حبشہ سے واپس مکہ آ کر ان سے پناہ کی درخواست کی تو
 انہوں نے بلا تامل یہ درخواست قبول کر لی اور عثمان کو قریش
 کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ چند دن بعد عثمان نے اپنی درخواست
 واپس لے لی اور کہا کہ مجھے خدا کی پناہ کے سوا اور کسی
 کی پناہ مطلوب نہیں۔ لیکن ولید کی شرافت کا ان کے دل پر اتنا
 اثر تھا کہ انہوں نے پناہ کی درخواست واپس لیتے ہوئے ان کے
 متعلق کہا ”میں نے ولید کو انتہائی باوقا اور بہترین پناہ دینے
 والا پایا“

ولید کو اپنی قوم میں اتنا اثر و رسوخ اور عزت حاصل تھی کہ اگر وہ اسلام لے آتے تو یقیناً قریش کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ اسلام لے آتی۔ ایک مرتبہ انہیں قرآن کریم سننے کے اتفاق ہوا۔ ان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگے ”اس کلام کی مثال آس خوبصورت کھجور کے درخت کی سی ہے جس کا پھل نہایت میٹھا ہوتا ہے۔ جس کا اوپر کا حصہ ٹمردان ہوتا ہے اور نچلا حصہ پانی سے تر پتر اور جو ہمیشہ بلند و بالا ہی رہتا ہے“* ان کے یہ الفاظ سن کر قریش بڑے مضطرب ہوئے اور کہنے لگے ”اے ولید! تم دین سے پھر گئے اور اپنے ساتھ تم قریش کو بھی گمراہ کر دو گے“۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ محض ولید کے یہ تسلیم کر لینے سے کہ قرآن مجید روز مرہ کے عام کلام کی طرح نہیں ہے، قریش میں بے چینی پھیل گئی اور انہیں ڈر پیدا ہو گیا کہ ولید اسلام لے آئیں گے تو اپنے ساتھ اور بہت سے لوگوں کو بھی لے جائیں گے۔

ولید کے جو اوصاف ہمارے سامنے ہیں اور جن کا قرآن کریم میں بھی اشارہ موجود ہے، ان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے اور قرآن مجید کی تصدیق کرنے میں پیش پیش ہوتے۔ لیکن تکبر اور جاہ و مکنت راہ میں حائل ہو گئی اور وہ نہ صرف اسلام قبول کرنے سے محروم رہے بلکہ اسفل السافلین میں جا گرے ان کی حالت بالکل اس آیت کی مصداق تھی، فانہم لا یکنونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ (اے رسول! یہ کفار تجھے نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں)۔ ولید کا شمار ان پانچ سر بر آوردہ اشخاص میں تھا جو رسول کریم صلعم

* سیرۃ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۱۷۳ - تفسیر بغوی

ابن کثیر اور طبری میں بھی یہ روایت باختلاف الفاظ موجود ہے

کی دشمنی اور آپ سے استہزاء کرنے میں پیش پیش تھے۔ انہی کے اور ان کے ساتھیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”انا کفیناک لمستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون*“ اے رسول ہم ان ٹھٹھا کرنے والوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک مہیراتے ہیں خود نپٹ لیں گے اور عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ استہزاء کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

قریش میں ولید ”الوحید †“ کے نام سے پکارے جاتے تھے کیوں کہ وہ ان خوبیوں اور خصلتوں میں جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں تمام قوم میں منفردانہ حیثیت رکھتے تھے۔ ہجرت کے پانچ ماہ بعد پچانوے برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حجوں مقام میں دفن کئے گئے ‡ موت کا سبب یہ ہوا کہ وہ کسی کام کے لئے خزاعہ قبیلہ میں گئے۔ وہاں ایک شخص تیر تیار کر رہا تھا۔ ان کا پیر ایک تیر پر پڑ کر سخت زخمی ہو گیا۔ یہی زخم جان لیوا ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی تھی کہ وہ خزاعہ سے خون بہا ضرور لے لیں۔ چنانچہ خزاعہ کو خون بہا دینا پڑا ❖۔

انہوں نے قبیلہ ثقیف کو بہت سا روپیہ سود پر دے رکھا تھا۔ ان کی وفات کے بعد خالد نے ان سے سود کا تقاضا کیا۔ بعد

* سیرۃ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۲۲۵ و ۲۳۲۔

† انساب الاشراف جلد اول صفحہ ۶۰۔ السیرۃ الحلیہ جلد اول صفحہ ۳۳۷۔

‡ انساب الاشراف جلد اول صفحہ ۶۰۔

❖ سیرۃ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۲۵۵۔ ابن الاثیر جلد ۲ صفحہ ۳۸۔ السیرۃ الحلیہ جلد اول صفحہ ۳۳۸۔

میں قبیلہ ثقیف اسلام لے آیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی: ”یا ایہا الدین آمنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین ، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ ، وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون“ (اے لوگو کہ ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو سود کا جو روپیہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار رہو۔ اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہیں صرف اصل روپیہ (راس المال) لینے کا حق پہنچتا ہے۔ اس طرح نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم ہوگا اس وقت رسول کریم صلعم نے حضرت خالد سے فرمایا کہ اب تمہیں صرف راس المال لینے کا حق پہنچتا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد نے تمام سود جو قبیلہ ثقیف پر واجب تھا چھوڑ دیا*۔

ولید کے بارے میں کئی آیات نازل ہوئی ہیں † جن سے ان کے اس بلند مرتبہ کا پتہ چلتا ہے جو انہیں اپنی قوم میں حاصل تھا۔ یہ آیات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بزمیم مناع للخم معتد ائیم عتل بعد ذالک زنیم ، ان کان ذامال و بنین ، اذا تننا علیہ آیا تننا قال اساطیر الاولین۔ (تم کسی ایسے شخص کی

* سیرۃ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۲۵۷۔

† ان آیات میں سے بعض تو خاص طور پر ولید کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور بعض تمام سرداران کفار کے لئے، جن میں ولید بھی شامل تھے۔ ان آیات کو درج کرنے سے ہمارا مقصد صرف ولید کی سیادت، شرف، جاہ اور بلند مرتبے کی تصویر دکھانا ہے۔

بات نہ ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا اور آبرو باختہ ہے۔ جو لوگوں پر آوازے کسا کرتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ جو اچھے کاموں سے لوگوں کو روکتا رہتا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، بد ہے، اکھڑ ہے اور ان عیوب کے علاوہ بد اصل بھی ہے۔ جب ہماری آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس برے پر کہ مال اور بہت سے بیٹے رکھتا ہے بول اٹھتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ولید بے شمار مال و دولت کے مالک تھے اور خدا تعالیٰ نے کئی بیٹے انہیں دئے تھے۔ مال و دولت اور بیٹوں کی یہ کثرت ہی ان کے انکار و تکذیب کا باعث بنی*۔

۲- قریش کے قول: لو لانزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ (یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا) کے مصداق بھی ولید ہی تھے۔ قریش کے اس قول سے جسے قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے واضح ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی شخص پر آسمان سے وحی کا نزول ہونا ہی تھا تو اس غرض کے لئے ولید سے بہتر اور کوئی شخص نہیں اور وہ اپنی عظمت اور منزلت کے اعتبار سے محمد صلعم سے کہیں زیادہ اس نعمت کے حق دار ہیں†۔

* تفسیر کبیر از اسام فخرالدین رازی جلد ۸ صفحہ ۱۸۷۔

† خدا تعالیٰ نے ان کے اس قول کا جواب ان آیات میں دیا ہے اہم یقسمون رحمة ربک نحن قسمنا بینہم معیشہم فی الحیوة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا ورحمة

(باقی صفحہ ۶۲ پر)

۳۔ ذرئی و سن خلقت وحیداً وجعلت له مالا ممدوداً وبنین شهوداً و سہدت له تمہیداً * (اے رسول ! اس شخص کی سزا دہی مجھ پہ چھوڑ دو جس کو میں نے یکہ و تنہا پیدا کیا ہے ، اسے مال کثیر اور بیٹے دئے ہیں اور ہر طرح سامان اس کے لئے مہیا کر دیا ہے)۔

مندرجہ بالا آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ خالد کے والدین اپنی قوم میں انتہائی بلند مرتبے کے مالک تھے۔ خالد کی پرورش ایک ایسی قوم میں ہوئی جو شجاعت ، قوت و طاقت اور عزت و وجاہت میں اپنی مثال آپ تھی۔ والدین اور قبیلے کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۱)

ربک خیر مما یجمعون (کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ سو دنیا کی زندگی میں تو ان کی روزی ان میں ہم تقسیم کرتے ہیں اور ہم نے دنیاوی درجوں کے اعتبار سے ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے تاکہ ان میں سے ایک کو ایک اپنا محکوم بنائے رکھے۔ اور جو مال و متاع یہ لوگ جمع کرتے ہیں ، تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے)۔ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۲۲۶۔ انساب الاشراف جلد اول صفحہ ۶۰۔ تفسیر کبیر از امام فخرالدین رازی۔ بغوی۔ ابن کثیرا ورا الوسی وغیرہم۔

* تقریباً تمام مفسرین اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ انساب الاشراف جلد اول صفحہ ۶۔ اسباب التنزیل للواحدی صفحہ ۳۳۔ تفسیر کبیر از امام فخرالدین رازی۔ ابن کثیر۔ بغوی۔ الوسی۔ الروض لائف جلد اول صفحہ ۱۷۳۔

اثر خالد پر بہت گہرا پڑا اور انہوں نے عقلمندی و دانائی ، شجاعت اور بہادری اور فنون حرب سے واقفیت میں انتہائی کمال حاصل کیا۔ انہی خوبیوں کی بدولت اپنی آئندہ زندگی میں خالد نے وہ کارہائے نمایاں سرانجام دئے جو تاریخ کے صفحات میں اب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔

قریش میں خالد کا مرتبہ

صفحات ماقبل میں بیان کیا جاچکا ہے کہ قصی بن کلاب نے خزاعہ پر غلبہ حاصل کر کے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا اور ان کی جگہ اپنے قبیلہ قریش کو آباد کیا تھا۔ اُس وقت سے مکہ اور بیت الحرام کی ریاست قریش کے ہاتھوں میں آگئی تھی۔ یہ ریاست چھ شعبوں میں بٹی ہوئی تھی۔

۱۔ دارالندوہ۔ یہ عمارت قصی نے کعبہ کے بالمقابل بنائی تھی۔ اس میں قریش کے سربرآوردہ اشخاص اور سردار باہمی معاملات پر گفت و شنید کرنے کے لئے جمع ہوتے تھے۔

۲۔ اللواء۔ (علم برداری) علم بردار ہی جنگ کے لئے جھنڈا تیار کرتا تھا اور وہی دوسرے لوگوں کو چھوٹے جھنڈے بنا کر بھی دیتا تھا۔

۳۔ حجابۃ الکعبہ۔ (کعبہ کی دربانی) جس شخص کے سپرد یہ خدمت ہوتی تھی وہی کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا اور کعبہ کے متعلق تمام امور کی نگہداشت اسی کے ذمہ ہوتی تھی۔

۴۔ سقایۃ۔ (پانی پالنا) جس شخص کے سپرد یہ کام ہوتا تھا وہ موسم حج میں حاجیوں کے لئے پانی کا انتظام کرتا تھا۔

۵۔ وفادہ (حاجیوں کی مہمان نوازی و اعانت)۔ وفادہ، قصی نے قریش پر فرض کی تھی۔ وہ ہر سال حج کے قریب تمام قریش سے حسب توفیق رقم اکھٹی کرتا اور اس رقم سے کھانا پکوا کر نادار اور غریب حاجیوں میں تقسیم کرتا تھا۔

۶۔ قیادت۔ یعنی جنگوں کے موقع پر سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دینا۔

قصی نے اپنی زندگی میں یہ تمام مناصب اپنے ہاتھ میں رکھے وفات کے قریب اس نے کعبہ کی تولیت کے تمام امور اپنے بڑے لڑکے عبدالدار کے سپرد کر دئے۔ عبدالدار کی وفات کے بعد اس کے لڑکوں اور اس کے بھتیجوں بنو عبد مناف میں ان مناصب کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور اس اختلاف کے نتیجے میں قریش بھی دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ بنو عبدالدار کی حمایت کرنے لگے اور دوسرا حصہ بنو عبد مناف کی۔ بنو عبد الدار کے حلیفوں نے ان کی امداد اور اعانت کا حلف اٹھایا اور بنو عبد مناف کے حلیفوں نے ان کی امداد و اعانت کا۔ قریب تھا کہ قریش میں باہمی جنگ چھڑ جاتی لیکن بعض لوگوں نے بیچ میں پڑ کر صلح کرادی اور ان مناصب کو جو کابھی بنو عبد الدار کے ہاتھ میں تھے بنو عبد الدار اور بنو عبد مناف میں تقسیم کر دیا* اور پھر آہستہ آہستہ یہ مناصب قریش کے تمام قبائل میں تقسیم ہو گئے۔ اس جگہ ان کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ حضرت خالد کو قریش میں کیا حیثیت حاصل تھی۔

اسلام کے ظہور کے قریب قریش کے دس قبائل میں سے دس اشخاص کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ کیوں کہ مناصب عالیہ

* سیرۃ ابن ہشام جلد اول صفحہ ۸۷-۹۰۔ طبری جلد صفحہ ۱۸۳-۱۸۵۔

کی تقسیم انہی دس اشخاص میں ہوئی تھی۔ وہ دس قبائل یہ تھے۔ (۱) ہاشم۔ (۲) آسیہ۔ (۳) نوفل۔ (۴) عبدالدار۔ (۵) اسد۔ (۶) تیم۔ (۷) مخزوم۔ (۸) عدی۔ (۹) جمح۔ (۱۰) مسہم۔ بنو ہاشم میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب کے سپرد سقایۃ تھی یعنی حج کے دنوں میں حاجیوں کو پانی کی بہم رسانی کا سارا انتظام ان کے ذمے تھا۔ اسلام کے بعد بھی وہ اسی خدمت پر فائز رہے۔ بنو آسیہ میں سے ابوسفیان بن حرب کے سپرد علم برداری تھی۔ جنگ کے دوران میں جھنڈا انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ بنو نوفل میں سے حارث بن عامر کے سپرد رفاۃ تھی۔ جب حج کا موقع قریب آتا تو تمام قریش حسب استطاعت کچھ نہ کچھ رقم نادار حاجیوں کے خور و نوش کے لئے ان کے پاس جمع کرا دیتے اور وہ کھانا پکوا کر حاجیوں میں تقسیم کر دیتے۔ بنو عبدالدار میں سے عثمان بن طلحہ کے سپرد کعبہ کی نگرانی اور انتظام تھا۔ دارالندوہ کا انتظام بھی بنو عبدالدار کے سپرد تھا۔ بنو اسد میں سے یزید بن زعہ بن اسود مشیر تھے۔ جب رؤسا قریش کسی بات پر متفق نہ ہو سکتے تو وہ معاملہ شورے کے لئے یزید بن زعہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا اور جو فیصلہ وہ کرتے سب کو قبول کرنا پڑتا۔ یزید نے جنگ طائف میں جام شہادت نوش کیا۔ بنو تیم میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد ”اشناق“ کا کام تھا۔ تمام جرمانے اور خوں بہا آپ کے پاس جمع ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ اور کسی شخص کے پاس جمع ہونے والے خوں بہا کو قبول نہ کیا جاتا تھا۔ بنو مخزوم میں سے حضرت خالد بن ولید کے سپرد ”قبہ“ اور ”اعنہ“ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور سپہ سالاری تھی۔ قریش جنگ کے لئے جو سامان اکھٹا

کرتے تھے وہ انہی کی تحویل میں رہتا تھا۔ جنگی گھوڑوں کی دیکھ بھال بھی انہی کے سپرد تھی۔ بنو عدی میں سے حضرت عمر بن الخطاب کے سپرد 'سفارة' تھی۔ یعنی جب قریش اور عرب کے کسی دیگر قبیلہ کے درمیان جنگ چھڑنے والی ہوتی تھی تو قریش انہیں اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجتے تھے۔ اگر قبائل کے درمیان عزت و مفاخرہ کا مقابلہ ہوتا تو حضرت عمر ہی کو ثالث بنایا جاتا اور جو فیصلہ وہ دے دیتے قبائل اسے قبول کرتے۔ بنو جمح میں سے صفوان بن امیہ کے سپرد فال لینے کا کام تھا۔ جب کسی شخص کو فال نکلوانی ہوتی تو وہ صفوان کے پاس جاتا اور وہ اسے فال نکال کر دیتا۔ بنو سہم میں سے حارث بن قیس کے سپرد وہ اموال ہوتے تھے جو قریش اپنے بتوں پر چڑھاتے تھے*۔

خالد کا پیشہ

تاریخ کی کتابوں سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسلام سے قبل حضرت خالد کا پیشہ کیا تھا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت خالد کے والد بہت امیر کبیر تھے اور بے شمار باغات کے مالک تھے۔ ایسی صورت میں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ خالد اور ان کے بھائیوں کو کوئی پیشہ اختیار کرنے یا تجارت کے لئے سفر پر جانے کی ضرورت نہ تھی۔

* تاریخ ابن عساکر جلد ۳ صفحہ ۷۰۴۔ المقدسی جلد ۲ صفحہ ۳۳۷۔ العقد الفرید جلد ۲ صفحہ ۳۱۔ مندرجہ بالا بیان ان کتابوں میں بتغیر الفاظ مذکور ہے۔ ہم نے العقد الفرید کے بیان کو درج کیا ہے۔

تھی۔ کیونکہ خدا نے انہیں گھر بیٹھے مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔

ہمارے اس خیال کی تائید سہیلی نے بھی کی ہے۔ وہ آیت ”وہنن شہودا“ کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں: ”ولید کو خدا تعالیٰ نے ایسے بیٹے دئے تھے جو اسی کے ساتھ رہتے تھے۔ سفر کرنے یا مکہ سے باہر جانے کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ ان کے والد کے پاس بے شمار مال و دولت موجود تھا*۔“
الوسی وغیرہ نے بھی اپنی تفاسیر میں اسی خیال کی تائید کی ہے۔ ان امور کی موجودگی میں اغلب گمان یہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت خالد نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا تھا۔

تاہم بے کار رہنا ان کی فطرت کے سراسر خلاف تھا۔ ان دنوں امیروں اور سرداروں کے بیٹوں کے دلچسپ ترین مشغلے گھوڑے کی سواری اور گھوڑ دوڑ کے مقابلے تھے۔ شوق کا یہ حال تھا کہ گھوڑے کو سدھانے کے علاوہ اس کے دانہ پانی کا بھی سارا انتظام لڑکے خود ہی کرتے تھے۔ خادموں کے سپرد کبھی یہ کام نہ ہوتا تھا۔ خالد بھی امراء کے دوسرے لڑکوں کی طرح اسی شغل میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے لئے تو یہ مشغلہ اور بھی زیادہ اہم تھا۔ کیونکہ ان کے قبیلے، بنو مخزوم کے سپرد جنگی کیمپ کا انتظام اور فوجی گھوڑوں کی نگہداشت تھی۔ (جو ان ہونے پر یہ ڈیوٹی حضرت خالد کے سپرد کی گئی) یہ امر محتاج بیان نہیں کہ جس شخص کو شہسواری اور گھوڑ دوڑ میں مہارت حاصل نہ ہو اسے لشکر کی سپہ سالاری اور جنگی گھوڑوں کی نگہداشت کا اہم کام سپرد نہیں کیا جا سکتا۔

* الروض الاثف جلد اول صفحہ ۱۷۳ - الوسی جلد ۲۹

لیکن محض شہسواری ہی کافی نہ تھی بلکہ جب تک نوجوانوں میں پھرتی، چالاکی، شجاعت، خطرات سے بے پروائی اور جنگی مہارت کی صفات موجود نہ ہوتی تھیں انہیں قبیلے میں عزت کا مستحق نہ سمجھا جاتا تھا۔ خالد میں یہ تمام صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔

مندرجہ بالا بیان سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت خالد کا کام صرف گھوڑے دوڑانا ہی تھا۔ دوسرے معززین قریش کی طرح وہ بھی یقیناً تنخواہ دار ملازم رکھ کر اپنا مال تجارت کے لئے ان کے حوالے کر دیتے ہوں گے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جائیں اور تجارت سے جو منافع حاصل ہو وہ انہیں لا کر دے دیں۔ البتہ تجارت کے لئے حضرت خالد کا خود مکہ سے باہر نکلنا کسی تاریخ سے ثابت نہیں۔

خالد رضہ کی بہادری و کامرانی کا راز

کوئی شخص اپنے فرائض کی بجا آوری میں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اسے ان کاموں میں حد درجہ مہارت ہو اور اس میں جبلی طور پر وہ کام کرنے کی استعداد موجود ہو۔ ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی شخص کے سپرد کوئی ایسا کام کر دیا جائے جو اس کی طبیعت کے موافق نہ ہو تو وہ اس میں بالعموم ناکام ہوتا ہے۔ اور خواہ کتنا ہی ہوشیار اور کیسی ہی صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو وہ متوسط سے بھی کم درجے کا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر فطری استعداد کے ساتھ ساتھ فرائض میں رغبت اور ان کی طرف میلان بھی ہو تو یہ چیز سونے پر سہاگہ ثابت ہوتی ہے اور اس شخص کی کامیابی میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔

حضرت خالد قدرت کی طرف سے جنگی دل و دماغ لے کر آئے تھے۔ خاندانی روایات نے ان کی فطری صلاحیتوں کو اور بھی ابھرنے کا موقع دیا۔ جنگی فرائض کی بجا آوری ان کے راہوار شوق کے لئے مہمیز ثابت ہوئی اور حضرت خالد ایک ایسے زبردست جنگی ماہر اور عظیم سپہ سالار بن گئے جن میں بڑے بڑے قائدین عساکر کی تمام صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔

اس زمانے میں کوئی فوجی سکول نہ تھا جہاں حضرت خالد فوجی تربیت حاصل کرتے۔ آپ کی تربیت جنگ کے میدانوں اور مدرسہ عمل میں ہوئی۔ ایسی تربیت کا لازمی نتیجہ تھا کہ آپ شجاع، بہادر، نڈر اور خطرات کو خاطر میں نہ لانے والے بن گئے۔ آپ تمام جنگی حربوں سے پورے طور پر واقف تھے۔ لشکر میں جن صفات کا ہونا ضروری تھا ان میں سے ہر ایک پر آپ کی نظر تھی۔ ارادے کے پکے اور ذکاوت و فطانت میں اپنی مثل آپ تھے۔ دشمن کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھنے والے تھے۔ ان صفات کی موجودگی میں یہ جاننا کوئی مشکل بات نہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا تھا۔

آپ کے حسب نسب اور اپنے قبیلے میں آپ کے مرتبے کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر آتے ہیں جہاں سے اسلام کا دور شروع ہوتا ہے۔

خالد رضہ کی معاندانہ کوششیں

دوسرے سرداران قریش کی طرح خالد بھی شروع میں اسلام کے شدید مخالف تھے اور رسول کریم صلعم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ایسی مخالفت اور دشمنی کا

اثر تھا کہ بعد میں جب کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئیں تو خالد کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں۔

جنگ احد کے موقع پر جنگ کا پانسہ پلٹنے اور مسلمانوں کو شکست دینے میں * سب سے زیادہ حصہ خالد ہی کا تھا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی تھی اور وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے کہ ان کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد نے اپنا دستہ لے کر پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی فتح کو آن کی آن میں شکست میں تبدیل کر ڈالا۔ اگر خالد اس موقع پر دور اندیشی اور جنگی چالوں سے کام

* مصنف کا یہ خیال صحیح نہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ کسی فریق کو شکست اُس وقت ہوتی ہے جب وہ میدان چھوڑ جائے۔ لیکن جنگ احد میں ایسا نہیں ہوا۔ بے شک پشت پر سے اچانک حملے کے باعث مسلمان پراگندہ اور منتشر ہو گئے لیکن فوراً ہی پھر ایک جگہ جمع ہو گئے اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ باوجود نقصان اٹھانے کے ان کی یہ ثابت قدسی دیکھ کر نہ خالد کی ہمت ان پر حملہ کرنے کی ہوئی، نہ عکرمہ کی اور نہ سالار لشکر ابوسفیان ہی میں اتنی جرأت ہوئی کہ وہ ان سٹھی بھر مجاہدین کا دوبارہ مقابلہ کرتا اور اُس نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ فوراً لشکر سمیت تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ (مترجم)۔

† سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۱۳۴ - طبری جلد ۳ صفحہ ۱۶ - ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۱۰۷ - السیرۃ الحلیبیہ جلد ۲ صفحہ ۲۹۱ -

نہ لیتے اور اس موقع کو جو ان کے ہاتھ آ گیا تھا ضائع کر دیتے تو کفار مکہ کے لئے جنگ احد کی شکست بدر کی شکست سے کم نہ ہوتی۔ اگر مسلمان اس موقع پر فتح یاب ہو جاتے تو کفار کو پھر کبھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوتی اور اغلب یہی تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر بھی کفار مسلمانوں کے سامنے سد راہ بن کر کھڑے نہ ہو سکتے اور انہیں زیارت کعبہ سے نہ روک سکتے۔

جنگِ خندق

جنگ خندق کے موقع پر خالد آن چنیدہ لوگوں میں سے تھے جو سارا دن خندق کے کنارے کنارے گشت کرتے رہتے تھے تاکہ اگر خندق کا کوئی حصہ کمزور معلوم ہو یا مسلمان غفلت کی حالت میں ہوں تو وہ خندق پار کر کے مسلمانوں پر حملہ کر سکیں۔

لیکن مسلمان بھی باوجود انتہائی مشکلات کے کفار کے ارادوں سے غافل نہ تھے۔ جب بھی وہ محسوس کرتے کہ خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق پار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر کے انہیں پیچھے ہٹا دیتے* اگر خدا نخواستہ خالد کو خندق پار کرنے کا موقع مل جاتا تو مسلمانوں کے لئے ایک نازک صورت حال پیدا ہو جاتی۔ جنگ خندق میں جب کفار کے لشکر میں عام بھاگڑ پڑی اور گھبراہٹ میں کسی کو اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا تو اس وقت دو اشخاص، خالد بن ولید

* طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۴۹ - السیرة الحلبیہ جلد ۲

اور عمرو بن العاص ہی سے درخواست کی گئی کہ اگر مسلمان
تعاقب کر کے ان پر حملہ کریں تو وہ ان کی حفاظت کریں۔
چنانچہ یہ دونوں دو سو سواروں کے ساتھ بطور ”ساقہ“ لشکر
کے پیچھے پیچھے رہے تا کہ کسی متوقع خطرے کی صورت میں
مقابلہ کر سکیں۔

اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کو خالد پر کتنا
بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اسے یقین تھا کہ خطرات اور مصائب
سے انہیں اگر کوئی شخص محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ خالد ہی
ہیں۔ خالد کے اتنی عظیم ذمہ داری قبول کر لینے سے یہ بھی
پتہ چلتا ہے کہ انہیں خود اپنے اوپر کتنا اعتماد تھا اور وہ
کس طرح بلا خوف و خطر شدید خطرات میں اپنے آپ کو ڈال
دیتے تھے۔ اپنے اوپر اعتماد کا یہی جذبہ ان کی آئندہ پوری زندگی
میں کار فرما رہا۔

حدیبیہ کے موقع پر

حدیبیہ کے موقع پر جب رسول کریم صلعم اپنے صحابہ کے
ہمراہ خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے روانہ ہوئے تو
قریش نے آپ کی آمد کا حال سننے پر خالد کو مزید تحقیق *
کے لئے بھیجا۔ چنانچہ آپ دو سو سوار اپنے ہمراہ لے کر
”کراع الغمیم“ کے مقام پر پہنچے *۔ وہاں رسول کریم صلعم

* طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۵۰ - السیرة الحلیبہ

کے قافلے سے آپ کی مڈھ بھیڑ ہوئی* - خالد نے ارادہ کیا کہ اس وقت رسول کریم صلعم نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوں گے اور وقت وہ بے خبری میں صحابہ پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلعم کو خالد کے ارادے سے اطلاع دے دی جس پر آپ نے صلواتِ خوف کا حکم دیا† وہ اس طرح بار بار ایک ایک دستہ نماز میں مشغول رہتا اور ایک دستہ دشمنوں کے بالمقابل چوکسی اور حفاظت کے لئے کھڑا رہتا۔ اگر قریش معاہدہ صلح کرنے پر آمادہ نہ ہو جاتے تو یقیناً ریح میں منجملہ اور لڑائیوں کے جنگ حدیبیہ کا ذکر بھی آتا جس میں خالد نمایاں حصہ لیتے۔

عمرة القضاء کے موقع پر

اس زمانے میں انہیں اسلام اور مسلمانوں سے اس درجہ نفرت و دشمنی تھی کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال جب معاہدے کے مطابق مسلمان عمرة القضاء کرنے کے لئے مکہ میں داخل ہوئے تو خالد کے سے باہر نکل گئے‡ کیوں کہ وہ یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ان کی نظروں کے سامنے مسلمان مکہ میں داخل ہوں۔ لہذا انکے مسلمان بھی خانہ کعبہ کی تعظیم کرنے میں ان سے کسی طرح کم نہ تھے۔ ان کے اور اہل مکہ کے درمیان عمرة

* طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۶۹ - سیرة ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۲۶ - طبری جلد ۳ صفحہ ۷۲ - ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۱۳۶ - سیرة الحلبيہ جلد ۳ صفحہ ۱۴ -

† السیرة الحلبيہ جلد ۳ صفحہ ۱۴ -

‡ انساب القرشيين جلد ۲ صفحہ ۳۳۸ - تاریخ ابن عساکر جلد ۳ صفحہ ۶۹۰ -

کرنے کے متعلق ایک سال قبل باقاعدہ معاہدہ ہو چکا تھا اور اکثر مسلمان جو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لئے آئے تھے قریش بلکہ خاص ان کے قبیلے میں سے تھے۔ لیکن عقیدے پختگی نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا۔

گو شرک کی حالت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے لیکن عقیدے کی وہی پختگی، جو اسلام اور مسلمانوں سے شدید عداوت کا باعث تھی، آگے چل کر اخلاص اور کارہائے نمایاں کا باعث بنی جو اسلام لانے کے بعد انہوں اس کی نصرت و حمایت میں سر انجام دئے۔

یہاں پہنچ کر خالد کی کتاب زندگی کا پہلا باب ختم ہو ہے۔ اور ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جو پہلے دور سے یکسے مختلف ہے۔ اس نئے دور میں خالد کی شخصیت بالکل نئی صورت میں جلوہ گر نظر آتی ہے۔ یہ نیا باب خالد کی زندگی ہی کا نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا بھی درخشاں باب ہے۔

دوسرا حصہ

قبول اسلام سے لے کر رسول کریم صلعم کی وفات تک

خالد رض کا اسلام قبول کرنا

مؤرخین میں اس بارے میں کافی اختلاف ہے کہ حضرت خالد رض سے سنہ میں اسلام لائے۔ بعض کہتے ہیں ۵۵ میں اسلام لایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ۵۶ میں۔ بعض کہتے ہیں ۵۷ میں۔ بعض کا خیال ہے ۵۸* میں۔ ۵۵ اور ۵۶ میں آپ کا اسلام بعید از قیاس ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے انہوں نے اپنی میں کسی قسم کے دلائل پیش نہیں کئے۔ چنانچہ بہت سے مؤرخین نے بڑے زور سے اس خیال کی تردید کی ہے †۔

* بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلح حدیبیہ اور مکہ کے درمیانی عرصے میں اسلام لائے۔ گو اس قول کے صحیح ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں تاہم اس سے کسی سند کا نہیں ہو سکتا۔ شرح عینی للبخاری جلد ۱۶ صفحہ ۲۳۵۔

† ابن اثیر لکھتے ہیں ”بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خالد رض ۵۵ میں اسلام لائے لیکن اس خیال کو حقیقت (باقی صفحہ ۷۶ پر)

۵۵ اور ۵۶ کے خارج از بحث ہو جانے کے بعد اب یہ رہ جاتا ہے کہ ۵۷ اور ۵۸ میں سے کس سنہ میں آپ اس لئے لائے۔ کتب تاریخ و سیر کی اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ نے فتح مکہ سے قبل اور غزوہ مؤتہ سے دو ماہ قبل صفر ۵۸ میں اسلام قبول کیا۔ ہمارے اس نتیجے کی بنیاد دو امور پر مبنی ہے۔ (الف) تاریخ شہادتیں۔ (ب) عقلی امور جو تاریخی شہادتوں کے مطابق ہیں۔ (الف) سب سے پہلے ہم تاریخی شہادتیں پیش کرتے ہیں۔ (۱) ابن سعد حضرت خالد بن ولید کا اپنا قول نقل کرتے ہیں: ”ہم دونوں (خالد اور عمر و بن العاص) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یکم صفر ۵۸ کو حاضر ہوئے*“۔

(۲) بلاذری لکھتے ہیں: ”عمر و بن العاص نجاشی کے سے مسلمان ہو کر لوٹے۔ راستے میں انہیں عثمان بن طلحہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۵)۔

سے کوئی واسطہ نہیں“۔ ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۱۰۱۔ کتاب الاصابہ لکھتے ہیں ”یہ خیال کہ حضرت خالد ۵۵ اسلام لائے محض ایک واہمہ ہے“ (الاصابہ جلد ۲ صفحہ ۸۸)۔ اسد الغابہ میں ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے جنہوں نے میں آپ کے اسلام لانے کا ذکر کیا ہے لکھا ہے ”یہ قول کرنے کے لائق ہے کیوں کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ حضرت خالد حدیبیہ کے موقع پر کفار کے سواروں کے ساتھ مسلمان کی نقل و حرکت کی خبر لانے کے لئے نکلے تھے“ (اسد الغابہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۱)۔

* طبقات ابن سعد جلد ۴ صفحہ ۱ و ۲۔

بد بن ولید ملے جو رسول کریم صلعم کے پاس مدینہ جا رہے
- چنانچہ یہ تینوں صفر ۵۸ میں رسول کریم صلعم کی خدمت
حاضر ہو کر اسلام لے آئے* -

(۳) ابن قتیبہ لکھتے ہیں: "حضرت خالد بن ولید، حضرت
و بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ ۵۸ میں اسلام میں
مل ہوئے†"۔

(۴) طبری میں ہے: "صفر ۵۸ میں حضرت عمرو بن العاص
رسول کریم صلعم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول
- وہ نجاشی کے پاس سے مسلمان ہو کر آئے تھے - عمرو
العاص کے ساتھ ہی عثمان بن طلحہ عبدری اور خالد بن ولید
مسلمان ہونے کے لئے مدینہ آئے‡"۔

(۵) ابن عساکر، واقدی کا قول نقل کرتے ہوئے رقم طراز
: "ہمارے نزدیک یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ حضرت خالد
بن ولید خیر میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ، عمرو بن العاص اور عثمان
طلحہ بن ابی طلحہ، یہ تینوں فتح مکہ سے قبل یکم صفر ۵۸
اسلام لائے تھے*"

(۶) ابن اثیر لکھتے ہیں: "اس سنہ (۵۸) کے پہلے مسہدے
فر) میں عمرو بن العاص نے رسول کریم صلعم کی خدمت میں

* فتوح البلدان بلاذری صفحہ ۶۹ و انساب الاشراف جلد اول
جہ ۱۸۳ -

† المعارف صفحہ ۹۰ -

‡ الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۰۳ -

* تاریخ مدینہ دمشق جلد ۳ صفحہ ۶۸۶ -

حاضر ہو کر بیعت کی۔ ان کے ساتھ ہی خالد بن ولید اور بن طلحہ عبدری بھی مسلمان ہونے کی غرض سے مدینہ آئے *

(۷) ابو الفداء لکھتے ہیں ” ۵۸ میں خالد بن ولید، بن العاص السہمی اور عثمان بن طلحہ بن عبد الدار مسلمان ہوئے لئے مدینہ آئے +“۔

ان کے علاوہ اور بھی سینکڑوں شہادتیں دی جاسکتی ہیں لیکن ہم غیر ضروری طوالت سے بچنے کے لئے انہیں درج نہ کر رہے۔

(ب) تاریخی شہادتوں کے بعد اب معقولات کی جانب آئیے

(۱) بلاذری فتح مکہ کے حالات میں لکھتے ہیں ”

کریم صلعم نے فتح کے بعد خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن

نکو مرحمت فرمائی جو ۵۸ میں اسلام قبول کرچکے تھے

تاریخی شہادتوں سے ہم یہ بات ثابت کرچکے ہیں کہ

بن طلحہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص

ساتھ ہی اسلام قبول کرنے کے لئے مکہ آئے تھے۔ اس لئے

خالد کا اسلام قبول کرنا بھی ۵۸ ہی میں ماننا پڑے گا۔

(۲) اکثر مؤرخین * جب حضرت عمرو بن العاص کے

* الکامل جلد ۲ صفحہ ۱۵۵۔

+ تاریخ ابوالفداء جلد اول صفحہ ۱۴۲۔

‡ انساب الاشراف جلد اول صفحہ ۲۳۔

* الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۰۴۔ سیرۃ ابن ہشام

صفحہ ۲۱۱۔ الاصابہ جلد ۲ صفحہ ۹۸۔

نے کا حال بیان کرتے ہیں تو خود ان کا اپنا یہ قول بھی بیان کرتے ہیں ”و ذالک قبل الفتح“ یعنی ”یہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے“ اگر یہ واقعہ ۵ھ یا ۶ھ کا ہوتا تو انہیں یہ کہنے سے کیا چیز مانع ہوتی کہ ہم نے حدیبیہ کے بعد یا عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام قبول کیا۔ لیکن صرف یہ کہنے سے کہ ہم نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے فتح سے تھوڑا ہی عرصہ قبل اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ اس بارے میں سیرت ابن ہشام میں بھی حضرت عمرو بن العاص کا یہی قول درج ہے۔ چنانچہ یہ نتیجہ کسی صورت بھی نہیں نکل سکتا کہ آپ فتح مکہ سے ایک سال یا دو سال قبل اسلام لائے تھے کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ اپنے اسلام لانے کو فتح مکہ کے بجائے کسی ایسے واقعہ سے منسلک کرتے جو قریب ہی کے زمانے میں گزرا ہو۔

(۳) جن کتابوں میں حضرت خالد کے بھائی ولید بن ولید کے اسلام لانے کا ذکر ہے ان میں یہ مذکور ہے کہ عمرۃ القضاء کے دوران میں رسول کریم صلعم نے ولید سے کہا ”افسوس خالد ہمارے پاس نہیں آئے۔ اگر وہ آتے تو ہم بڑی گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو تو اسلام قبول کرنے میں کوئی تامل نہیں کرنا چاہئے“ یہ سن کر ولید نے خالد کو ایک خط لکھا جس میں رسول کریم صلعم کے یہ رشادات درج کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہی خط خالد کے اسلام لانے اور ہجرت کرنے کا سبب بنا*۔

* انساب القرشیین للمقدسی جلد ۲ صفحہ ۳۳۸ - الاستیعاب

(باقی صفحہ ۸۰ پر)

اس واقعہ سے بصراحت معلوم ہو جاتا ہے کہ عمرہ القضاء تک حضرت خالد اسلام نہیں لائے تھے۔

رسول کریم صلعم عمرہ سے فارغ ہو کر ذی الحجہ ۷ھ میں واپس مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ ان امور کی موجودگی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ خالد نے ہجرت کا ارادہ کے آخری ایک یا دو روز میں کیا تھا*۔ اور اپنے اس ارادے سے اپنے بعض رفیقوں کو مطلع کیا تھا جس سے ان کے اسلام لانے کی خبر مکہ میں پھیل گئی اور ابوسفیان اور عکرمہ ابوجہل سے تکرار بھی ہوئی۔

(۴) قابل اعتناء مؤرخین کا بیان ہے کہ سب سے اہم واقعہ جس میں حضرت خالد اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلعم ساتھ شریک ہوئے، فتح مکہ ہے اور سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ نے حصہ لیا غزوہ موتہ † ہے۔ غزوہ موتہ اور فتح مکہ دونوں واقعات ۸ھ میں ہوئے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت خالد ۷ھ میں اسلام لائے تو کیا یہ بات قیاس میں آنے والی ہے کہ آپ اتنا عرصہ لوگوں کی آنکھوں سے بالکل اوجھل رہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۹)

جلد ۲ صفحہ ۶۱۹ - الاصابہ جلد ۶ صفحہ ۳۲۳ - اسدالغابہ
جلد ۵ صفحہ ۹۲ - ابن عساکر جلد ۳ صفحہ ۶۹۰ - السیرة الحلبيہ
جلد ۳ صفحہ ۸۶ -

* مغازی الواقدی صفحہ ۴۰۰ و ۴۰۱ - سیرة ابن ہشام
جلد ۲ صفحہ ۲۵۵ -

† الاستیعاب جلد اول صفحہ ۱۵۷ - اسدالغابہ جلد
صفحہ ۱۰۲ - تہذیب الاسماء مؤلفہ امام نووی صفحہ ۳
جلد اول -

نہ اس دوران میں آپ کا کوئی ذکر سننے میں آتا ہے اور نہ کسی غزوہ یا سریہ میں آپ حصہ لیتے ہیں۔ کیا رسول کریم صلعم نے شروع میں آپ کی قدر نہ کی؟ لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد ایسی شخصیت تھے ہی نہیں کہ اتنا عرصہ خاموشی سے گزار دیتے اور کسی شخص کو آپ کا پتہ نہ چلتا۔ رسول کریم صلعم بھی اتنا عرصہ آپ کو نظر انداز نہ کر سکتے تھے جب کہ خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ”اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلعم نے کسی موقع پر بھی مجھے دوسرے صحابہ سے علیحدہ نہیں رکھا“۔

(۵) جو لوگ ۷ھ میں آپ کے اسلام لانے کا ذکر کرتے ہیں وہ نہ کسی خاص مہینے کا ذکر کرتے ہیں اور نہ بالصراحت یہ بتاتے ہیں کہ آپ کس موقع پر اسلام لائے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے ۸ھ میں آپ کا اسلام لانا بیان کیا ہے انہوں نے سنہ، مہینہ اور دن تک بیان کر دیا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو وقت تک بیان کر دیا گیا ہے*۔

ان تمام عقلی اور تاریخی دلائل کی موجودگی میں، جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں، ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ خالد صفر ۸ھ میں اسلام لائے †۔

اس بحث کو ہم نے طول اس لئے دیا ہے کہ خالد کے اسلام

* السیرة الحلبیہ جلد ۳ صفحہ ۸۷۔

† ہماری رائے کی تائید بستانی دائرۃ المعارف میں، ڈاکٹر حسن ابراہیم اپنی کتاب ”عرو بن العاص“ میں اور گبن ”زوال سلطنت روما“ میں کرتے ہیں۔

لانے کے متعلق روایات میں بہت اختلاف اور ابہام پایا جاتا ہے۔
اسی لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ واضح اور بین دلیلوں کے
ذریعہ آپ کے اسلام لانے کا زمانہ معین کر دیں۔

اب ہم حضرت خالد بن ولید ہی کی زبان سے آپ کے اسلام
لانے کا ایمان افروز واقعہ درج کرتے ہیں*۔ آپ فرماتے ہیں :-

”جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل نازل کرنا چاہا تو
اس نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی اور مجھے
سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ
میں محمد کے خلاف ہر جنگ میں لڑا لیکن ہمیشہ ہی ناکامی
کا منہ دیکھنا پڑا اور ہم اسلام کی شان و شوکت مٹانے میں
کامیاب نہ ہو سکے۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال پیدا
ہونے لگا کہ میں ایک غلط راستے پر کھڑا ہوں۔ کوئی غیبی
طاقت بزور میرے دل میں محمد صلعم کے لئے جگہ پیدا کر رہی
تھی۔ جب محمد صلعم عمرۃ القضاء کے لئے مکہ تشریف لائے تو
میں مکہ سے نکل گیا اور جب تک حضور مکہ میں رہے میں
وہاں داخل نہ ہوا۔ میرے بھائی ولید بن ولید جو مسلمان ہو
چکے تھے محمد صلعم کے ساتھ تھے۔ حضور نے مجھے طلب فرمایا
لیکن میں کہاں تھا؟ اس پر میرے بھائی نے مجھے یہ خط لکھا :-
”بسم اللہ الرحمان الرحیم۔ مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے
اس قدر برگشتہ کیوں ہو؟ حالانکہ جس عقل کے تم مالک ہو
وہ کبھی بھی اسلام کے حقیقی نور سے بے بہرہ نہیں رہ سکتی۔
رسول اللہ صلعم نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت فرمایا اور پوچھا

* طبقات ابن سعد جلد ۳ صفحہ ۱ و ۲۔ تاریخ ابن عساکر
جلد ۳ صفحہ ۶۹ و ۶۹۱۔ السیرۃ الحلبیہ جلد ۳ صفحہ ۸۶۔

کہ خالد کہاں ہیں؟ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ خالد کو اللہ ہی لائے تو لائے۔ آپ نے فرمایا ”خالد جیسا شخص کبھی اسلام کی حقیقت سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا“ اے برادر! تم بہت دنوں تک گمراہی میں رہے ہو۔ اب حقیقت کو پہچانو اور سیدھے راستہ پر آ جاؤ۔“

یہ خط پڑھ کر میرے دل پر پڑے ہوئے تاریک پردے پھٹ گئے اور مجھے اسلام سے رغبت پیدا ہو گئی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس گفتگو سے ہوئی جو رسول اللہ صلعم نے میرے متعلق میرے بھائی سے کی تھی۔ آخر میں نے مکہ سے نکل کر رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ انہی ایام میں میں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ میں ایک ویران، چٹیل اور تنگ جگہ میں ہوں لیکن خدا تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی اور میں وہاں سے نکل کر ایک فراخ اور سرسبز و شاداب میدان میں آ گیا۔

جب میں نے مکہ سے نکلنے کی تیاری مکمل کر لی تو میں صفوان بن امیہ سے ملا اور اس سے کہا ”اے ابو وہب! تم دیکھتے ہو کہ محمد عرب اور عجم پر غالب آ گئے ہیں۔ اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کی اطاعت قبول کر لیں تو جو شرف ان کو حاصل ہونے والا ہے اس میں ہم بھی حصہ دار بن جائیں گے“ صفوان نے جواب دیا ”اگر تمام دنیا بھی محمد کو قبول کر لے اور میرے سوا اور ہر شخص مسلمان ہو جائے، تب بھی میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے یہ سن کر اپنے دل میں کہا ”یہ بے چارہ مجبور ہے کیونکہ اس کا باپ اور اس

کے بھائی جنگ بدر میں مارے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد میں ،
 عکرمہ بن ابو جہل سے ملا اور وہی بات جو میں نے صفوان سے
 کہی تھی اس سے بھی کہی ۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو
 صفوان نے دیا تھا ۔ تب میں نے اس سے یہ درخواست کی کہ وہ
 ان باتوں کو اپنے تک ہی محدود رکھے اور کسی سے ان کا ذکر
 نہ کرے ۔ یہ بات اس نے قبول کر لی اور کہا ” میں ان کا
 کسی سے ذکر نہ کروں گا “۔ عکرمہ کے بعد میں عثمان بن طلحہ
 سے ملا جو میرا دوست تھا ۔ پہلے تو میں نے وہی باتیں اس سے
 بھی کہنے کا ارادہ کیا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا باپ
 طلحہ ، چچا عثمان اور چار بھائی مسافع ، جلاس ، حارس اور
 کلاب ، جنگ احد میں قتل کئے جا چکے ہیں ۔ کہیں یہ بھی
 مجھے وہی جواب نہ دے ۔ اس لئے میں نے خاموش رہنا چاہا
 لیکن زیادہ دیر تک خاموش نہ رہ سکا اور بات کہتے ہی بن
 پڑی ۔ میں نے اس سے کہا کہ ” ہاری مثال اس لومڑی کی سی ہے
 جو بھٹ میں چھپی ہوئی ہو لیکن بھٹ میں اگر کثرت سے پانی
 ڈالا جائے تو اسے وہاں سے نکلنا ہی پڑتا ہے ۔ ہمیں یہ نظر
 آ رہا ہے کہ مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے ۔ کیوں نہ ہم پہلے
 ہی اسلام قبول کر لیں ؟ “ میری توقع کے قطعاً برعکس عثمان نے
 فوراً آمادگی ظاہر کر دی ۔ اس کے بعد مدینہ چلنے کی بات ہوئی
 اور یہ طے پایا کہ اگلے روز صبح سویرے ایک مقام پر ہم دونوں
 پہنچ جائیں اور جو پہلے پہنچ جائے وہ دوسرے کا انتظار کرے ۔
 اگلے روز ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں مقررہ
 جگہ پر پہنچ گئے اور وہاں سے مدینہ کی راہ لی ۔ جب ہم ’ہدہ‘
 کے مقام پر پہنچے تو ہمیں عمرو بن العاص ملے جو حبشہ سے
 آ رہے تھے ۔ علیک سلیک کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا :

” ابو سلیمان ! کہاں کا ارادہ ہے ؟ “ میں نے جواب دیا ” اللہ کی قسم ! ، مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ محمد ، اللہ کے رسول ہیں اور میں مسلمان ہونے کے لئے مدینہ جا رہا ہوں “ عمرو بن العاص نے کہا ” میں بھی مسلمان ہونے کے ارادے سے حبشہ سے آ رہا ہوں “ چنانچہ ہم اکتھے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے ۔ جب مدینہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا ۔ ہم نے اپنے اونٹ بٹھائے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگے ۔ رسول اللہ کو بھی ہمارے آنے کی خبر پہنچ گئی ۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا ” مسلمانو ! مکہ نے اپنے جگر گوشے نکال کر تمہارے سامنے ڈال دئے ہیں “ میں نے نئے کپڑے پہنے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلا ۔ راستے میں مجھے میرے بھائی ملے ۔ وہ کہنے لگے ” جلدی چلو ، رسول اللہ تمہارے آنے سے بہت سرور ہیں اور تمہارا انتظار فرما رہے ہیں “ ۔ چنانچہ ہم سب جلدی جلدی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ جس وقت میں حضور کے سامنے پہنچا تو حضور مسکرا رہے تھے ۔ میں نے قریب جا کر السلام علیکم کہا ۔ حضور نے نہایت خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا ۔ میں نے کہا ” حضور ! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں “ ۔ رسول اللہ نے فرمایا ” اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ۔ مجھے یہی آسید تھی کہ تمہاری عقل بالآخر سیدھے راستے کی طرف ضرور تمہاری رہنمائی کرے گی “ ۔ میں نے عرض کیا ” یا رسول اللہ ! میں آپ کے خلاف کئی جنگوں میں لڑ چکا ہوں ۔ آپ اللہ سے میرے اس گناہ کی معافی کے لئے دعا فرمائیں “ آپ نے فرمایا ” اسلام پچھلے تمام گناہوں کو

مٹا دیتا ہے* ” میں نے کہا ” کیا واقعی؟ “ آپ نے فرمایا ” ہاں! “ اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی ” اے اللہ! خالد کی پچھلی تمام لغزشوں کو جو اس سے تیرے دین کی مخالفت کرتے ہوئے سرزد ہوئیں، معاف فرما۔ “ ” میرے بعد عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ کی بیعت کی۔ ہم صفر ۸ء میں مدینہ پہنچے تھے۔ خدا تعالیٰ کی قسم جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے رسول اللہ میرے اور دوسرے صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے اور ہر موقع پر مجھے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ شریک فرماتے تھے۔ رہنے کے لئے حضور نے اپنے ان مکانوں میں سے جو حارثہ بن نعمان نے حضور کو پیش کئے تھے ایک مکان مجھے عنایت فرمایا †۔ “

حضرت خالد کی اس سرگذشت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی لالچ کی خاطر یا کسی پیش آمدہ خطرے سے بچنے کے لئے یا کسی شخص کے سمجھانے بچھانے سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ اسی وقت اسلام لائے جب پورے غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے اور جس عقیدے پر وہ قائم ہیں اس میں سوائے گمراہی اور نقصان کے کچھ نہیں۔ ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو خالد کے اسلام لانے کی کس قدر خواہش تھی۔

رسول کریم صلعم کو خالد سے جو تعلق تھا اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد آپ نے خالد کو اپنے مکانوں میں سے ایک مکان عطا فرمایا۔ لیکن ان کے دونوں

* یہاں پہنچ کر مؤلف السیرة الحلبیہ کا بیان ختم ہوا۔
† طبقات ابن سعد جلد ۳ صفحہ ۱۔

ساتھی ، باوجودیکہ وہ قریش میں انتہائی بلند مرتبے کے مالک تھے ، اس سلوک سے محروم رہے ۔ پھر جب حضرت خالد نے آپ سے اپنے لئے دعائے استغفار کی درخواست کی تو حضور نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی ۔

اسلام قبول کرنے میں دیر

اس سوال کا جواب ہمیں حضرت عمرو بن العاص کی زبان سے مل جاتا ہے ۔ ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کا شمار عرب کے عقل مند ترین انسانوں میں ہوتا ہے پھر آپ نے اسلام لانے میں دیر کیوں کی ؟ انہوں نے جواب دیا تھا ”ہم ایسے لوگوں میں رہتے تھے جنہیں ہم پر ہر طرح سے فوقیت حاصل تھی ۔ ذکاوت ، فطانت اور عقل مندی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا ۔ جب تک وہ ہمارے درمیان رہے ہم ان سے علیحدگی کا خیال بھی دل میں نہ لاسکتے تھے لیکن جب وہ اس دنیا سے اٹھ گئے اور معاملات ہمارے ہاتھوں میں آئے تو ہمیں غور و فکر اور تدبیر کا موقعہ ملا ۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ حق کس طرف ہے چنانچہ اسلام میرے دل میں راسخ ہو گیا ۔“

پھر یہ بھی ہے کہ قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے ۔ ان کا شمار عرب کے معزز ترین قبائل میں کیا جاتا تھا ۔ اس کا طبعی اثر یہ تھا کہ قریش اور بالخصوص ان کے سردار اور سربرآوردہ اشخاص اس نئے دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جس کو قبول کرنے سے ان کی عزت میں فرق آنے کا اندیشہ تھا کیوں کہ اسلام قریش ، غیر قریش ، عرب اور عجم کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ سب مسلمانوں کو مساوی حقوق

دیتا ہے۔ قریش، جن کے دلوں میں پشتہا پشت سے اپنی سرداری اور بڑائی کا غرور قائم تھا، کس طرح یہ برداشت کرسکتے تھے کہ ان کے اور ان کے غلاموں کے درمیان کوئی فرق نہ رہے اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہ ہو۔ چنانچہ وہ اسلام کے پکے دشمن بن گئے۔ یہ دشمنی اس وقت اور بھی بڑھی جب مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کو پے در پے شکستیں ہونے لگیں اور ان کے سردار ان جنگوں میں کثرت سے مارے جانے لگے۔ خصوصاً جنگ بدر میں جہاں مسلمانوں کے ہاتھوں صنا دید قریش کی بھاری تعداد موت کے گھاٹ اتر گئی۔ افراد کے لٹے اس دین کی پیروی بہت مشکل ہوتی ہے جس نے ان کے عزیزوں اور اقرباء کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو، اور ان کے پیاروں کو ان سے چھین لیا ہو۔ چنانچہ جس وقت خالد نے اسلام لانے کا ارادہ کیا اور اپنے اس ارادے سے عکرمہ بن ابی جہل کو مطلع کیا تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا ”تم صابی ہو گئے۔“ خالد نے کہا ”میں صابی نہیں ہوا، مسلمان ہوا ہوں“ تب عکرمہ نے کہا ”خدا کی قسم! خواہ سارے قریش اسلام لے آتے مگر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی“۔ خالد نے پوچھا ”کیوں؟“ عکرمہ نے جواب دیا ”تمہیں وہ وقت بھول گیا جب بدر کے موقع پر تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی قتل ہوئے تھے؟ کم از کم تمہیں تو اسلام نہیں لانا چاہئے تھا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ قریش مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ اس موقع پر تم ان سے علیحدگی اختیار کرنے لگے ہو؟“ لیکن خالد کے دل میں اسلام کی حقانیت کا یقین راسخ ہو چکا تھا۔ وہ اس قسم کی اشتعال انگیز باتوں میں نہ آئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ ”یہ سب باتیں جاہلیت کی نشانی ہیں۔ میں ایسی

عمیت کا قائل نہیں۔ جس وقت مجھ پر حق ظاہر ہو گیا میں نے سلام قبول کر لیا*۔“

اب ہم خالد کی آن فتوحات اور کارہائے نمایاں کا تذکرہ شروع کرتے ہیں جو اسلام کی ترقی میں بہت مدد و معاون ہوئیں۔

غزوة مؤتہ †

رسول کریم صلعم نے ایک لشکر اپنے صحابی حارث بن عمیر کو بغام پر بنا کر حاکم بصری † کے پاس بھیجا تھا۔ آن لوگوں نے حارث کو شہید کر دیا۔ اس پر جہادی الاول ۵۸ھ میں حضور نے ایک لشکر حارث کا انتقام لینے کے لئے شام بھیجا اور فرمایا اس لشکر کی قیادت زید بن حارثہ کریں گے۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب قیادت سنبھال لیں۔ اور اگر وہ ہی کام آجائیں تو قیادت عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کردی جائے*۔“

مسلمانوں کا لشکر جب بقاء کی سرحد پر پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ مشارف کے مقام پر ہرقل، شہنشاہ روم کا ایک عظیم الشان لشکر ڈیرے ڈالے پڑا ہے۔ یہ معلوم کر کے انہوں نے

* مغازی الواقدی صفحہ ۳۰۰ و ۳۰۱۔

† مؤتہ، شام کے علاقہ بقاء کی سرحد پر ایک بستی ہے۔
‡ بصری، دمشق کے قریب ایک قصبہ ہے جسے کورہ
یوران بھی کہتے ہیں۔

* سیرت ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۵۶۔ معمول کے برخلاف
یہ موقع پر تین امیر مقرر فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ
نے رسول کریم صلعم کو پہلے ہی سے ان کی شہادت کی خبر دے
لی تھی۔

مؤتہ کا رخ کیا - وہاں رومیوں اور ان کے درمیان جنگ شروع ہوئی -

زید بن حارثہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے - ان کے بعد جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا لیا اور لڑنا شروع کیا - جعفر لڑائی نے زور پکڑا تو وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور درمیان دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور شہید ہو گئے - ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے قیادت سنبھالی اور شہادت پائی -

اب مسلمانوں کے لشکر میں کوئی سردار نہ تھا جو ان میں نظام قائم رکھتا اور وہ مقصد بجا لاتا جس کے لئے اس لشکر کو بھیجا گیا تھا - مسلمان اس صورت حال سے بہت پریشان ہوئے دشمن کے مقابلے میں ان کی حیثیت آٹے میں نمک کی سی تھی - اور دشمن انہیں بڑی آسانی سے پیس کر رکھ سکتا تھا - اس نازک موقع پر مسلمانوں کی نظریں حضرت خالد بن ولید پر پڑیں اور انہیں اپنا قائد منتخب کر لیا -

خالد ایک ایسے کمزور اور بے حقیقت لشکر کے قائد منتخب ہوئے تھے جس کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہ تھی - اس کے مقابلے میں دشمن * ڈیڑھ لاکھ تربیت یافتہ جرار لشکر لئے میدان میں موجود تھا جسے اپنی قوت و طاقت پر کامل بھروسہ تھا یہی روسی لشکر کچھ عرصہ قبل ایرانیوں پر فتح پا چکا تھا اور قاتل و کامرانی کے نشے میں چور اب مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے درپے تھا - اس موقع پر خالد کی حربی صلاحیتیں ظاہر ہوئی اور انہوں نے لشکر کو تباہی سے بچانے اور اسے دشمن کے ترغیب

* یہ کم سے کم تعداد ہے جو مؤرخین عرب نے روسیوں کے لشکر کی لکھی ہے -

سے نکال لانے کے لئے حیرت انگیز طور پر کامیابی حاصل کی۔ پہلے روز وہ جی کھول کر دشمن سے لڑے۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکر کی ترتیب بالکل بدل ڈالی۔ مقدمہ کو ساقہ کی جگہ کر دیا اور ساقہ کو مقدمہ کی جگہ۔ اسی طرح میمنہ اور میسرہ کو بھی تبدیل کر دیا*۔ دشمن کو اس نقل و حرکت سے احساس ہوا کہ مسلمانوں کی مدد کے لئے کوئی اور تازہ دم فوج میدان میں آگئی ہے۔ چنانچہ دوسرے روز اس کے جوش و خروش کی وہ حالت نہ تھی جو ایک روز پہلے تھی۔

اس طرح حضرت خالد نے وقتی طور پر لشکر اسلام کو تباہی سے بچا لیا اور پھر اس طرح دشمن کو مرعوب کر کے انہوں نے بڑے قرینے سے اپنے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ اور کچھ دیر بعد اسے دشمنوں کے نرغے سے سلامتی کے ساتھ نکال لائے۔ اب دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور مسلمان اس تباہی و بربادی سے بچ گئے جو انہیں کچھ عرصہ قبل اٹل نظر آرہی تھی۔

خالد رضہ نے اس موقع پر جو تدابیر اختیار کیں وہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں جسے ہر قائد بجا لا سکتا بلکہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے جو جنگی سہارت، عقل مندی، وسعت نظر اور اللہ پر کامل بھروسے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اس وقت خالد سے ذرا بھی کوتاہی ہو جاتی تو پورے کا پورا اسلامی لشکر فنا کے گھاٹ اتر جاتا۔ اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو جس سختی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا خالد کا یہ قول اس کی دھندلی سی تصویر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ "موتہ کی

جنگ میں میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹیں اور اگر کوئی تلوار تیرے صحیح سلامت میرے ہاتھ میں رہی تو وہ یمنی تلوار تھی*۔“
اندازہ کیجئے کہ جس لشکر کے سردار کو خود لڑنا پڑے اور اس کے ہاتھ سے نو تلواریں یکے بعد دیگرے ٹوٹ جائیں اس پر کیسے جرار لشکر نے حملہ کیا ہوگا اور وہ سردار کتنا شجاع، دلیر اور جنگی حربوں سے کس درجہ واقف ہوگا۔

جس وقت یہ معرکہ ہو رہا تھا اور مسلمانوں کے سردار یکے بعد دیگرے شہید ہو رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ مدینہ میں رسول کریم صلعم کو یہ تمام ماجرا دکھا رہا تھا اور آپ صحابہ سے ان سرداروں کی شہادت کا حال بیان کر رہے تھے۔ جب خالد نے جھنڈا ہاتھ میں لیا تو آپ نے فرمایا ”ان کے بعد خالد بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ وہ مقرر کردہ قائدین میں سے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے خود اپنے کو قائد بنایا ہے۔“ اس کے بعد آپ نے فرمایا ”اے اللہ! وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اب تو ہی اس کی مدد فرما۔“ اس دن سے حضرت خالد کا لقب ’سیف اللہ‘ پڑ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلعم کے دئے ہوئے اس لقب کے پورے پورے مستحق تھے، کیونکہ انہوں نے انتہائی نازک موقع پر مسلمانوں کے لشکر کو تباہی سے بچا لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کے دئے ہوئے اس لقب میں جو جامعیت ہے وہ کسی عام انسان کی بیان کردہ تعریف میں کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔

* طبقات ابن سعد جلد ۳ صفحہ ۲ - السیرة الحلبيہ جلد ۱ صفحہ ۹۶ - انساب القرشيين جلد ۳ صفحہ ۳۳۹ - الاستيعاب جلد اول صفحہ ۱۵۷ - اسد الغابہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۱ -
† الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۰۹ - السیرة الحلبيہ جلد ۳ صفحہ ۹۷

اس موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی اس قدر قابل رحم حالت تھی تو ان کے پیچھے ہٹنے پر رومیوں نے آگے بڑھ کر انہیں روکا کیوں نہیں اور ان کا تعاقب کرنے میں انہیں کیا رکاوٹ پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھاری لشکروں کے لئے جنگوں میں گھس کر لڑائی کرنا بہت مشکل ہے۔ رومی لشکر بھاری تعداد پر مشتمل تھا اور اس کے پاس سامان جنگ بھی بہت تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور ان کے پاس سامان بھی بہت کم تھا، اس لئے انہیں رومیوں کے مقابلے میں نقل و حرکت کے زیادہ مواقع میسر تھے اور وہ بڑی آسانی سے جنگوں اور پہاڑوں میں گھس کر اپنی راہ بنا سکتے اور اپنی حفاظت کر سکتے تھے۔ اس صورت میں رومیوں کے لئے ان کا پیچھا کرنا کسی فائدے کا موجب نہ ہو سکتا تھا۔ یہ امر بھی بعید از قیاس نہیں کہ رومیوں کا یہ خیال ہو کہ مسلمانوں نے جنگوں اور پہاڑوں میں کمین گاہیں بنا رکھی ہیں اور ان کا پیچھے ہٹنا محض ایک جنگی چال ہے تاکہ جب ہم ان کا تعاقب کرتے ہوئے گھنے جنگوں میں پہنچیں تو وہ اپنی کمین گاہوں سے نکل کر ہم پر حملہ کر سکیں۔

بعض مؤرخین یہ لکھتے ہیں کہ لشکر کی قیادت حضرت خالد کے ہاتھ میں آنے کے بعد میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا اور مسلمانوں نے پے در پے زور دار حملے کر کے رومیوں کو شکست فاش دے دی۔ چنانچہ ابن سعد 'طبقات' میں ایک ایسی ہی روایت نقل کرتے ہیں۔ اس روایت میں مرقوم ہے کہ حضرت خالد نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے ہی بڑے زور شور سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بے دھڑک تلوار کے جوہر دکھانے شروع کئے اور رومیوں کو ایسی زبردست شکست دی

جس کی مثال نہیں مل سکتی*۔

لیکن یہ روایت ہر لحاظ سے ناقابل قبول ہے۔ مشہور اور مستند کتب تاریخ اس روایت کی تائید نہیں کرتیں۔ بڑے بڑے مؤرخین جن میں ابن سعد خود بھی شامل ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت خالد نے کان اپنے ہاتھ میں لے کر دشمن کے حملے کو روکا اور آہستہ آہستہ اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا کر اسے دشمنوں کے نرغے سے نکال لائے۔

اس کے علاوہ عقل کے لئے بھی یہ بات قابل قبول نہیں کہ تین ہزار کا مختصر لشکر ڈیڑھ لاکھ سپاہیوں کے عظیم الشان لشکر پر فتح یاب ہو جائے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے ہزار رومی قتل کئے اور کس قدر مال غنیمت اکٹھا کیا؟ مسلمان مؤرخین ہر جنگ کا ذکر کرتے وقت اس کے مقتولین کی تعداد اور مال غنیمت کا مقدار کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر وہ بالکل خاموش ہیں۔ آخر کیوں؟

ابن ہشام اور ابن برہان الدین† نے بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں نے خالد کو سپہ سالار بنایا اور خدا تعالیٰ نے انہیں میدان جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مؤرخین نے مسلمانوں کی نجات کو مجازاً فتح سے تعبیر کیا۔ کیونکہ تین ہزار مسلمانوں کو، جنہیں موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، موت کے منہ سے بچا لانا فتح کے مترادف بھی سمجھا جاسکتا۔

* طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۹۳۔

† سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۶۰۔ السیرۃ الحلیبہ جلد

صفحہ ۹۶۔

ہے۔ اگر حضرت خالد اپنے بے نظیر تدبیر اور اعلیٰ جنگی مہارت سے کام نہ لیتے تو مسلمانوں کی تباہی میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ تھا۔ گویا حضرت خالد نے لشکر کو موت کے منہ سے نکال کر مسلمانوں کی تعداد میں تین ہزار کا اضافہ کر دیا۔

تقریباً تمام مؤرخین نے اس امر کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو رسول اللہ دیگر مسلمانوں کے ہمراہ اس کے استقبال کے لئے نکلے۔ جب لشکر سامنے آیا تو لوگوں نے لشکر کے سپاہیوں پر مٹی پھینکنی شروع کی اور کہنا شروع کیا ”اے بھگوڑو! تم لوگ اللہ کے راستے سے بھاگ کر آئے ہو“ لیکن نبی کریم صلعم نے انہیں اس حرکت سے منع فرمایا اور کہا ”یہ بھگوڑے نہیں ہیں۔ انشاء اللہ یہ دوبارہ جہاد کو جائیں گے۔“

اس روایت سے جہاں بعض مؤرخین کی اس روایت کی تردید ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے لڑائی میں فرار اختیار کیا تھا (کیونکہ نبی کریم صلعم صحابہ کو لے کر ایک بھگوڑے لشکر کے استقبال کے لئے کبھی نہ نکل سکتے تھے) وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس جنگ سے فتح یاب ہو کر نہیں لوٹے تھے۔ کیونکہ فتح یابی کی صورت میں آن کے سروں پر خاک ڈالنے کے کوئی معنی نہیں۔

تاہم اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تین ہزار کے مختصر سے لشکر کو ڈیڑھ لاکھ کے عظیم الشان لشکر کے نرغے میں سے نکال لانا اور وہ بھی اس صورت میں کہ مسلمانوں کے صرف بارہ آدمی شہید ہوئے، حضرت خالد کا ایک ایسا شاندار کارنامہ ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔

ہماری رائے کی تائید بعض اشعار سے بھی ہوتی ہے جو اس موقع پر کہے گئے تھے۔ چنانچہ قیس بن محسرا الیعمری کہتے ہیں

فوالله لا تنفک نفسی تلومنی
 علی موقفی والخیل قابعة قبل
 محلی انی آسیت نفسی بخالد
 الا خالد فی القوم لیس له مثل
 وجاشت الی النفس من نحو جعفر
 بمؤتہ اذ لاینفع النابل النبل
 وضم الینا حجزتہم کلہا
 مهاجرة لامشر کون ولا عدل

(خدا کی قسم میرا نفس مجھے اب تک جنگ مؤتہ کے واقعات پر ملامت کرتا ہے۔ افسوس میں اس روز کچھ نہ کر سکا میں نے اپنے آپ کو خالد کے سپرد کر دیا تھا جن کی مثل قوم میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے جعفر کی شہادت کا وہ وقت نہیں بھولتا جس ہمارے تیر اندازوں کی طرف سے تیر چلانے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور جب رومیوں کی فوجیں دو اطراف سے ہمیں پس ڈالنے کے لیے ہم پر پل پڑی تھیں)۔

ابن برہان الدین بھی اپنی کتاب میں ہماری رائے ہی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”جنگ مؤتہ میں مسلمانوں کو اس لحاظ سے فتح حاصل ہوئی تھی کہ اس موقع پر تین ہزار مسلمانوں کے مقابلے میں دو لاکھ رومی سپاہ میدان جنگ میں موجود تھی۔ اس عظیم الشان لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کے زندہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی اور بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ تین ہزار سپاہیوں میں سے ایک

شخص بھی اپنی جان بچا کر نہیں لے جا سکے گا۔ لیکن خالد بن ولید نے بے نظیر جرأت اور شجاعت دکھا کر مسلمانوں کو ہلاکت سے بچا لیا*۔

فتح مکہ

جب اللہ نے چاہا کہ مکہ اس کے حقیقی وارثوں کے ہاتھوں میں دیا جائے تو اس نے اس کے لئے مختلف اسباب پیدا کرنے شروع کئے۔ رسول کریم صلعم اس سہم کے لئے دس ہزار سپاہیوں کے ساتھ ۱۰۔ رمضان ۸ کو بدھ کے روز بعد نماز عصر مدینہ سے روانہ ہوئے †۔ مہاجرین اور انصار کے تمام بالغ افراد آپ کے ساتھ تھے ‡ ان کے علاوہ عرب قبائل سے بھی ہزاروں اشخاص نے اس سہم میں شرکت کی تھی۔ جس وقت نبی کریم صلعم مکہ کے قریب ذی طوی کے مقام پر پہنچے تو آپ نے لشکر کو ترتیب دیا*۔ حضور نے حضرت خالد بن ولید کو سیمنہ کا امیر مقرر فرمایا جس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ وغیرہ عرب قبائل

* السیرة الحلبيہ جلد ۲ صفحہ ۹۷۔

† سیرة ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۶۱۔ طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۹۹۔

‡ اس موقع پر مہاجرین کی تعداد سات سو تھی اور ان کے پاس تین سو گھوڑے تھے۔ انصار چار ہزار کی تعداد میں تھے اور ان کے ساتھ پانچ سو گھوڑے تھے۔ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۶۷۔ الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۱۳۔ السیرة الحلبيہ جلد ۳ صفحہ ۱۰۹۔

* معجم البلدان جلد ۶ صفحہ ۶۴۔

شامل تھے* - یہ پہلا موقعہ تھا جب رسول کریم صلعم کی جانب سے حضرت خالد کو قیادت اور امارت کا شرف حاصل ہوا۔

مکہ پہنچ کر رسول کریم صلعم نے سعد بن عبادہ کو 'کداء' زبیر کو 'گدی' اور خالد کو 'لیط' کے مقام سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلعم 'اذاخر' کے مقام سے داخل ہوئے اور مکہ کی بلندی پر پہنچ کر سواری سے اتر پڑے۔ وہیں آپ کے لئے ایک خیمہ استادہ کیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کا لشکر مکہ میں چار اطراف سے داخل ہوا †۔

رسول اللہ کی شدید خواہش تھی کہ حرم مقدس میں خون نہ بہے۔ اسی لئے آپ نے اپنے سرداروں کو حکم دے دیا تھا کہ صرف اسی وقت تلواریں میان سے نکالی جائیں جب کفار ان کے آگے بڑھنے میں مزاحم ہوں اور بغیر جنگ کئے ہمارے آگے بڑھنے کو کوئی صورت نہ ہو۔ لیکن بعض عمائد قریش نے حرم مقدس میں بھی خون بہانے سے دریغ نہ کیا۔ صفوان بن امیہ، عکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو نے قبیلہ بنی بکر اور احابیش ‡ کے بعض لوگوں کو زبیرین مکہ میں خندمہ ✨ کے مقام پر جمع

* سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۷۱ - الطبری جلد صفحہ ۱۱۸ -

† طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۹۸ -

‡ بنوالمہون بن خزیمہ - بنوالمحرث بن عبدمناف بن کنانہ اور بنوالمصطلق بن خزیمہ کو احابیش کہا جاتا تھا۔

✨ خندمہ مکہ میں شعب ابی طالب کے نزدیک ایک مقام نام ہے (بلاذری صفحہ ۵۵) یا قوت حموی کہتا ہے کہ یہ مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے (معجم البلدان جلد ۳ صفحہ ۴۷۰)۔

اور مسلمانوں سے لڑنے اور انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا مضمم ارادہ کیا۔ اللہ نے حضرت خالد کے لئے (جنہیں رسول اللہ نے سب سے پہلے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا)* یہ مقرر کر رکھا تھا کہ وہ آس دن اپنی تلوار کے جوہر دکھائیں اور انہی لوگوں سے لڑیں جن کے ساتھ ہو کر وہ کچھ عرصہ قبل مسلمانوں سے جنگ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ خالد اور مندرجہ بالا گروہ کی مڈھ بھیڑ ہوئی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنی شروع ہوئیں۔ تیرہ مشرک کھیت رہے اور تین مسلمان شہید ہوئے †۔ اس جگہ کے سوا اور کہیں مشرکین نے مقابلہ نہ کیا اور مسلمان مسجد حرام میں بغیر کسی مزاحمت کے داخل ہو گئے۔ اس طرح رسول اللہ کا وہ رؤیا کامل طور پر پورا ہو گیا جس کا ذکر قرآن

* بلاذری صفحہ ۴۶ -

† مسلمان شہداء کے نام یہ ہیں : (۱) کرز بن جابر جو بنو محارب میں سے تھے۔ (۲) خنیس بن خالد بن ربیعہ بن اصرم جو بنو منقذ کے حلیف تھے۔ (۳) سلمہ بن میلاء جو قبیلہ جمہینہ میں سے تھے۔ اول الذکر دو شخص حضرت خالد کے لشکر میں شامل تھے لیکن یہ لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اور راستے پر جا رہے تھے۔ قریش نے تنہا پا کر انہیں شہید کر ڈالا۔ سلمہ بن میلاء لشکر میں ہی شامل رہے اور مشرکین سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ (سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۷۱ - الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۱۸)۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ کفار کے مقتولین کی کل تعداد اٹھائیس تھی، چوبیس قریش میں سے تھے اور چار قبیلہ ہذیل میں سے (طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۹۸ - ابوالفداء بھی اپنی تاریخ میں یہی لکھتے ہیں۔ تاریخ ابوالفداء جلد ۱ صفحہ ۱۴۴)۔

میں اس طرح کیا گیا ہے :

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام
 انشاء الله آمنين مخلصين رؤسكم و مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا
 فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً (بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے
 رسول کو واقعی سچا ہی خواب دکھایا تھا کہ انشاء اللہ
 مسجد حرام میں بے خوف و خطر داخل ہو گے۔ وہاں جا کر
 میں سے کچھ تو اپنے سر منڈوائیں گے اور کچھ فقط بال ہی
 کتروائیں گے۔ غرض جس بات کی تم کو خبر نہ تھی اللہ کو و
 پہلے سے ہی معلوم تھی پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ
 فتح مکہ سے پہلے ایک فتح کرا دی)۔

مسلمان مکہ میں ۲۰ - رمضان ۸ ہ بروز جمعہ داخل ہوئے
 بکر، حارث اور احابیش کو جمع کر کے کفار نے یہ سوچا
 تھا کہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیں گے
 لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ فاتح لشکر کے سیمنہ کا سردار خالد
 ہے، وہی خالد جو کل تک ان کے ساتھ ہو کر مسلمانوں کو سخت
 نقصان پہنچاتا رہا تھا، آج انہی مشرکین اور کفار کے لئے پیغمبر
 موت بن کر آیا ہے۔

اس یوم موعود کا انتظار رسول اللہ انتہائی صبر اور استقلال
 کے ساتھ کر رہے تھے کیونکہ اہل مکہ کو تمام عرب پر کئی
 لحاظ سے فوقیت حاصل تھی اور تمام اہل عرب ان کی سردار
 کو قبول کرتے تھے۔ اگر اہل مکہ رسول اللہ کے مطیع اور
 فرمانبردار بن جاتے اور مکہ سے بت پرستی اور شرک منٹ جا
 تو اس کے نتیجے میں تمام عرب مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیتا

* طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۹۹ - الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۵

* الطبری ۳ صفحہ ۱۱۷

رسول اللہ کی شدید خواہش تھی کہ کعبہ کو اس حال میں دیکھیں کہ وہاں خدائے واحد کی پرستش کی جاتی ہو اور تین سو ساٹھ بتوں میں سے کسی بت کا نشان باقی نہ ہو۔

رسول اللہ قریش کی نفسیات کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ قریش کی اسلام سے نفرت کرنے کی جوہات کیا کیا ہیں۔ مکہ والے کبھی اس بات کو برداشت نہ کر سکتے تھے کہ رسول اللہ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوں۔ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ مکہ میں داخل ہو گئے تو ان کی ماری حکومت، عزت اور عظمت، جو اہل عرب پر انہیں حاصل ہے، جاتی رہے گی اور ان کے معبودوں کا نشان تک باقی نہ رہے گا۔ رسول اللہ ان سب باتوں کو جانتے تھے اسی لئے آپ نے لشکر کی قیادت اور امارت کے لئے ایسے لوگوں کو چنا جن کا جنگی تجربہ بے پناہ تھا اور جو لشکر کی قیادت کے لئے موزوں ترین شخصیات تھے۔ اس سلسلے میں جن چار لوگوں پر رسول اللہ کی نگہ انتخاب پڑی ان میں حضرت خالد بھی تھے۔ حضرت خالد کا انتخاب اس لئے عمل میں آیا کہ آپ فی الواقع ایک ممتاز قائد تھے اور ان کی عیاں و نہاں صلاحیتوں سے رسول اللہ کی دوربین آنکھ خوب اچھی طرح واقف تھی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کہان میں وہ لشکر تھے* جو سراسر بدوی زندگی میں رنگے ہوئے

* حضرت خالد کی کہان میں مندرجہ ذیل قبائل تھے (۱) بنو سلیم جن کی تعداد سات سو سے ایک ہزار تک تھی۔ (۲) اسلم جو چار سو کی تعداد میں تھے۔ (۳) مزینہ جن کی تعداد ایک ہزار تھی۔ (۴) بنو غفار جو چار سو کی تعداد میں تھے۔ (۵) جمہینہ جن کی تعداد آٹھ سو اور بعض روایات کے مطابق ایک ہزار چار (باقی صفحہ ۱۰۲ پر)

تھے، نہ تہذیب و تمدن سے واقف تھے نہ کسی نظام میں رہ کر
زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ
حضرت خالد کو اس مخلوط لشکر کی کمان دینے میں کیا بہید تھا؟
یہ امر یقینی ہے کہ ایسی طبائع رکھنے والے لشکر کی قیادت
صرف خالد ہی کر سکتے تھے، ان کی قیادت اور کسی کے بس
کی چیز نہ تھی۔

مکہ میں داخل ہوتے وقت حضرت خالد نے جو کار نمایاں
سرا انجام دیا اور راہ میں حائل ہونے والے لشکر کا جس طرح
مقابلہ کیا اس کا اعتراف بہت سے مسلمان اور مشرکین شعرا
نے کیا ہے۔ ذیل میں حماس بن قیس بکری کے چند اشعار درج
کئے جاتے ہیں۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے
حضرت خالد کا مقابلہ کیا تھا۔ جب ان لوگوں نے شکست
کھائی تو یہ بھاگ کر اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہہ
کہ دروازہ بند کر دے۔ بیوی نے اس کی نامردی پر اس کو
لعنت ملامت کی تو اس نے یہ اشعار کہے*۔

انک لوشہدت یوم الخندسہ
اذ فرصفوان و فر عکرمہ
و ابویزید قائم کالمؤتمہ
و استقبلتہم بالسیوف المسلمہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۱)

سو تھی۔ سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۷۱ و ۲۷۹۔ الطبری

جلد ۳ صفحہ ۱۱۸ و ۱۱۲۔ السیرۃ الجلیبہ جلد ۳ صفحہ ۱۰۹۔

* سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۷۲۔ الطبری جلد

صفحہ ۱۱۹۔

يقطعن كل ما عد و جمجمه
ضربا فلا يسمع الا غمغمه
لهم نهيت خلفنا و همهمه
لم تنطقي في اللوم ادنى كلمه

(اے میری بیوی کاش تو خندمہ کی جنگ میں موجود ہوتی جب کہ صفوان اور عکرمہ دونوں بھاگ گئے تھے اور ابو یزید بھی حیران و پریشان کھڑا تھا، اس وقت جب کہ میں ایسی تیز تلواروں کے ساتھ ان کے آگے بڑھا جو کلائی اور کھوپڑی کو کاٹ کاٹ دیتی تھیں اور اس شدت کی لڑائی تھی کہ بجز تلواروں کی جھنکار کے اور کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی اور ہمارے پیچھے دشمنوں کا شور و غوغا تھا۔ پس اگر تو اس موقع کو دیکھتی تو ایک لفظ بھی ملامت کا میرے متعلق نہ کہتی)۔

فتح مکہ کے بعد اسی دن کعبہ کو بتوں سے صاف کر دیا گیا اور بجائے بتوں کی عبادت کے خدائے واحد کی پرستش کا آغاز ہوا۔ تاہم ابھی ایک مرحلہ اور باقی تھا اور وہ تھا ان معبدوں کا انہدام جو مکہ کے ارد گرد بتوں کی پرستش کے لئے قائم کئے گئے تھے۔ فتح مکہ کے معاً بعد رسول اللہ صلعم نے ان کی جانب بھی توجہ فرمائی۔

عزیٰ بت کا انہدام

فتح مکہ کو ابھی پانچ روز بھی نہیں گزرے تھے کہ رسول اللہ صلعم نے حضرت خالد کو تیس سواروں کے ہمراہ عزیٰ بت کو منہدم کرنے کے لئے نخلہ روانہ فرمایا۔ حضرت خالد ۲۵۔ رمضان کو وہاں پہنچے اور اسے منہدم کر دیا۔ عزیٰ قریش کا سب سے بڑا بت تھا اور قریش، کنانہ اور مضر وغیرہ

قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اس معبد کا انتظام، جس میں عزلی رکھا ہوا تھا، بنو ہاشم کے حلیف بنو سلیم کی شاخ، بنی شیبان کے سپرد تھا*۔

عزلی کا انہدام گو بظاہر معمولی واقعہ نظر آتا ہے لیکن یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ یہ قریش کا سب سے بڑا بت تھا اور تمام قبائل کنانہ اور مضر اس کی حد درجہ تعظیم کرتے تھے۔ اس کا انہدام کوئی معمولی بات نہ تھی۔ رسول اللہ صلعم نے سب سے پہلے اس بت کو اس لئے منتخب فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ اگر اسے منہدم کر دیا گیا اور اس کی پرستش کرنے والوں نے اطاعت قبول کر لی تو دوسرے بتوں کو توڑنا اور ان کی تعظیم کرنے والے قبائل کو مطیع کرنا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔

رسول اللہ صلعم اس نفسیاتی حقیقت سے واقف تھے کہ کعبہ کی فتح سے کفار کو سخت صدمہ پہنچا ہے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے سخت کینہ اور بغض بھر گیا ہے۔ لیکن وہ بے بس ہونے کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر اس وقت اس بڑے بت کو توڑا نہ گیا اور کفار کو کچھ سہلت مل گئی تو بعد میں اس کا انہدام سخت مشکل ہو جائے گا اور اس وقت دشمن جان لڑا دے گا مگر اس بت پر آج نہیں آنے دے گا۔ چنانچہ ابھی فتح مکہ کو پانچ روز بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ نے اس کے انہدام کا ارادہ کر لیا۔

اس مہم کو سر کرنے کے لئے ایسے سپہ سالار کا بھیجا جانا

* مغازی الواقدی صفحہ ۷۰ - طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۹۹

الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۲۳ -

ضروری تھا جو ہر ممکن خطرے کی پروا کئے بغیر اپنے فرض منصبی کو سر انجام دے سکے۔ یہ خوبی حضرت خالد میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلعم کی نظر انتخاب آپ پر ہی پڑی۔ حضرت خالد کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلعم کو آپ پر پورا بھروسہ تھا، جنگی نقطہ نگاہ سے ہی نہیں بلکہ دینی نقطہ نظر سے بھی۔

خالد، بنو جذیمہ* میں

رسول اللہ فتح مکہ کے بعد خاموش ہو کر نہیں بیٹھ رہے بلکہ آپ نے عرب قبائل کو ہدایت کا راستہ دکھانے اور انہیں لمحات سے نکال کر نور کی طرف راہنمائی کرنے کی عظیم الشان مہم نئے سرے سے شروع کر دی۔ اب اس مہم میں زیادہ شہسواری بھی نہیں رہی تھی کیونکہ قریش، جنہیں عرب کی سرداری کا دعویٰ تھا اور جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اب محمد رسول اللہ کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ اس سے قبل تمام عرب قبائل کی آنکھیں قریش کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں اور وہ بے تابانہ منتظر تھے کہ آیا وہ نئے دین کے مقابلے میں جمعے رہتے ہیں یا بالآخر اس کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو جاتے ہیں؟ جب قریش نے بھی اسلام کے آگے ہتھیار ڈالنے تو دیگر قبائل عرب کا اسلام لانا کوئی دشوار امر نہ رہا۔

* بنو جذیمہ قبیلہ کنانہ کی ایک شاخ تھے اور زبیر بن عبد المطلب کی ایک رات کی مسافت پر یلمام کے قریب آباد تھے (طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۱۰۶)۔ یہ لوگ جذیمہ بن عامر بن عبد مناة بن کنانہ کی طرف منسوب ہیں (سیرۃ ابن ہشام جلد ۳ صفحہ ۲۸۳)۔

رسول اللہ نے فتح مکہ کے اس نتیجے سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور اسلام کی تبلیغ کے لئے ان قبائل عرب میں جو مکہ کے قریب آباد تھے، مختلف اشخاص کو بھیجنا شروع کیا۔

انہی لوگوں میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ عزی کے انہدام کے بعد * رسول اللہ نے، جبکہ آپ مکہ میں ہی قیام فرماتے تھے، حضرت خالد کو ساڑھے تین سو سہاجرین و انصار اور بنو سلیم وغیرہ کے ساتھ † دعوت اسلام کی غرض سے بنو جذیمہ کی جانب روانہ فرمایا لیکن انہیں قتل و قتال کا حکم نہیں دیا۔

حضرت خالد، رسول اللہ کے حکم کے مطابق شوال ۸ھ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ بنو جذیمہ کے چشمہ غمیصاء ‡ پر پہنچ کر آپ نے اس قبیلے کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ ”ہتھیار رکھ دو کیونکہ قریش مکہ نے اسلام

* تمام اہل مغازی اور مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت خالد کو بنو جذیمہ کی طرف فتح مکہ کے بعد اور غزوہ حنین سے قبل شوال ۸ھ میں بھیجا گیا تھا (فتح الباری، شرح بخاری جلد ۱ صفحہ ۳۲ - شرح عینی بخاری جلد ۱ صفحہ ۳۱۳)۔

† واقدی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضرت خالد کے ساتھ بنو سلیم کے سات سو سوار تھے، انصار میں سے سوائے حضرت ابو قتادہ بن انس کے اور کوئی نہ تھا۔ یہ ابو قتادہ وہی ہیں جو مالک بن نویرہ کے قتل کے بعد حضرت خالد کی فوج سے علیحدہ ہو کر مدینہ آگئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کی شکایت کی۔

‡ غمیصاء بنو جذیمہ کا ایک چشمہ تھا (الطبری جلد ۱ صفحہ ۱۲۳)۔

قبول کر لیا ہے“ انہوں نے ہتھیار رکھ دئے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے ان کی مشکیں کسنے کا حکم دیا اور ان میں سے بعض کو قتل کرا دیا۔

جب رسول اللہ کو اس واقع کی خبر ملی تو آپ نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا ”اے اللہ! میں خالد بن ولید کے فعل سے بری الذمہ ہوں“۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ تم جا کر اس قبیلے کے مقدمے کا فیصلہ کرو۔ حضرت علی رسول اللہ کے پاس سے بہت سا مال لے کر بنو جذیمہ کے پاس آئے اور جس قدر لوگ حضرت خالد کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے ان کا خون بہا ادا کیا حتیٰ کہ کتوں کا معاوضہ بھی دیا اور جو مال حضرت خالد نے چھینا تھا وہ سب بنو جذیمہ کو واپس کیا اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ خون بہا کی تمام رقم ادا کر چکنے کے بعد بھی حضرت علی کے پاس کچھ مال باقی رہ گیا۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارا کوئی اور خون بہا یا مال باقی ہو تو اس کے بدلے میں یہ مال لے لو۔ لوگوں نے کہا اب ہمارا کچھ باقی نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تاہم یہ مال بھی میں تمہیں ہی دے دیتا ہوں، شاید تمہارا کوئی خون بہا یا مال رہ گیا ہو جس کی نہ تم کو خبر ہو نہ ہم کو۔ پس یہ مال تم اس کے معاوضے میں سمجھو۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضرت علی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا عرض کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ”تم نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا“۔

چونکہ اس واقعہ سے حضرت خالد کا خاص تعلق ہے اور ظاہر اس سے آپ کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمام واقعات کا جائزہ لیں اور معلوم کریں

کہ کیا حضرت خالد واقعی قصور وار تھے؟ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں:

(۱) حضرت خالد نے بنو جذیمہ کے جن لوگوں کو قتل کیا کیا وہ کافر تھے یا وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے؟

(۲) کیا حضرت خالد انہیں قتل کرنے میں غلطی پر تھے؟

(۳) اگر غلطی پر تھے تو کیا آپ کا یہ فعل پرانے کینوں اور جاہلیت کے جھگڑوں کا انتقام لینے کی غرض سے تھا یا یہ محض ایک اتفاقی غلطی تھی؟

(۴) کیا حضرت خالد کے پاس ان کے قتل کرنے کے لئے کوئی جواز تھا اور اگر جواز تھا تو کیا تھا؟

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر بنو جذیمہ کافر ہوتے تو ان کے قتل پر وہ شور برپا نہ ہوتا جو اُس وقت ہوا۔ اس صورت میں اس تکرار کے بھی کوئی معنی نہیں تھے جو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبدالرحمان بن عوف کے درمیان ہوئی اور جس میں حضرت عبدالرحمان بن عوف نے حضرت خالد پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بنو جذیمہ کو اپنے چچا فاکہ بن مغیرہ کا انتقام لینے کی خاطر قتل کیا ہے *۔ قتل و قتال کے اس سلسلے

* اس واقعہ کی تفصیل سیرۃ ابن ہشام اور طبری میں اس طرح لکھی ہے کہ بنو جذیمہ کے قتل کے متعلق حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبدالرحمان بن عوف میں بڑی بحث ہوئی۔ حضرت عبدالرحمان نے حضرت خالد سے کہا ”تم نے یہ جاہلیت کی کاروائی کی ہے“۔ حضرت خالد نے کہا ”میں نے ان سے تمہارے والد کا انتقام لینے کی خاطر قتل کیا ہے“۔ (باقی صفحہ ۱۰۹ پر)

کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی کو مقتولین کا خون بہا ادا کرنے کے لئے روانہ فرمایا اور انہوں نے جا کر نہ صرف ہر مقتول کا خون بہا ادا کیا بلکہ انہیں زائد مال بھی بطور تالیف قلوب مرحمت فرمایا۔ اگر بنو جذیمہ در حقیقت کافر ہوتے تو ان کا خون بہا ادا کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔

اکثر قابل اعتماد مؤرخین بصراحت بیان کرتے ہیں کہ بنو جذیمہ اسلام لے آئے تھے۔ ان مؤرخین میں سے ہم واقدی، یعقوبی اور ابن سعد کی روایتیں پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ قدیم مؤرخین ہیں۔ واقدی اپنی کتاب 'المغازی' میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں*:

”اس کے بعد حضرت خالد 'ابرق' کے مقام پر بنو کنازہ کی ایک شاخ بنو جذیمہ کے پاس گئے۔ جس وقت آپ ان کے پاس پہنچے تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے..... حضرت خالد

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۸)

قصاص لیا ہے۔“ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے کہا ”یہ بات نہیں ہے۔ میں تو اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر چکا ہوں۔ تم نے تو اپنے چچا فاکہ بن مغیرہ کا قصاص لیا ہے۔“ دونوں کی یہ تکرار یہاں تک بڑھی کہ اس کی خبر رسول اللہ تک پہنچی۔ رسول اللہ نے فرمایا ”اے خالد! تم میرے صحابہ کے ساتھ نہ الجھو۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے تب بھی تم ان میں سے کسی کے ایک دن یا ایک رات کے عمل کے برابر ثواب نہ پاؤ گے۔“ (سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۸۷ - الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۲۳)۔

* کتاب المغازی للواقدی صفحہ ۳۱۵۔

نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان سے پوچھا ”تم کس دین کے پیرو
 ہو؟“ انہوں نے کہا ”ہم مسلمان ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ
 اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لاشریک ہے اور
 محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔“ حضرت خالد نے پوچھا
 ”اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ تم کب اسلام لائے؟“ انہوں
 نے جواب دیا ”اس رات جس رات ہم نے یہ سنا کہ رسول اللہ
 نے ان لوگوں کی جان بخشی کر دی ہے جنہوں نے اپنے ہتھیار
 رکھ دئے اور کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ چنانچہ ہم بھی اسلام لے
 آئے اور نماز ادا کرنے لگے۔“

ابن سعد، طبقات* میں لکھتے ہیں:

جب حضرت خالد ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا
 ”ہم مسلمان ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کی رسالت
 کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کے صحنوں میں
 مسجدیں بنا رکھی ہیں اور ہم ان میں اذانیں بھی دیتے ہیں۔“

یعقوبی لکھتے ہیں:

حضرت خالد نے ان سے کہا ”ہتھیار رکھ دو“ انہوں نے
 جواب دیا ”ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہتھیار نہیں
 اٹھاتے، ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ نے آپ کو جس کام کے لئے
 بھیجا ہے، اسے سرانجام دیں۔ اگر انہوں نے آپ کو زکوٰۃ اکٹھی
 کرنے کے لئے بھیجا ہے تو ہمارے اونٹ اور بکریاں حاضر ہیں
 آپ انہیں رسول اللہ کی خدمت میں لے جائیں۔“

* طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۱۰۶۔

† الیعقوبی جلد ۲ صفحہ ۶۳۔

ان روایات سے بصراحت ثابت ہوتا ہے کہ بنو جذیمہ مسلمان ہو چکے تھے۔

دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا حضرت خالد انہیں قتل کرنے میں غلطی پر تھے؟ ابن سعد لکھتے ہیں * کہ سہاجرین اور انصار نے اپنے قیدی چھوڑ دئے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے ان قیدیوں کے قتل کو جائز نہیں سمجھا۔ اگر ان قیدیوں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو وہ حضرت خالد کے حکم کی اطاعت ضرور کرتے اور اس طرح اپنے اسیر کی مخالفت مول نہ لیتے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سہاجرین اور انصار میں حضرت ابن عمر اور حضرت عبدالرحمان بن عوف جیسے کئی جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔

ان سب باتوں سے قطع نظر رسول اللہ نے یہ فرما کر کہ ”اے اللہ! میں خالد بن ولید کے فعل سے بری الذمہ ہوں“ یہ فیصلہ فرما دیا کہ حضرت خالد غلطی پر تھے۔ رسول اللہ کے فیصلے کے بعد کسی چوں و چرا کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ کا یہ فقرہ صاف بتاتا ہے کہ آپ کو حضرت خالد کا یہ فعل پسند نہیں آیا ورنہ آپ اس سے بریت کا اظہار نہ فرماتے۔ دوسرے الفاظ میں رسول اللہ حضرت خالد کو غلطی پر سمجھتے تھے۔ چنانچہ مؤلف الاستیعاب نے کھلے الفاظ میں اس کی تصریح بھی کر دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”..... حضرت خالد نے بعض لوگوں کو قتل کیا

* ابن سعد کی عبارت یہ ہے ”بنو سلیم نے اپنے پکڑے ہوئے قیدیوں کو قتل کر دیا لیکن سہاجرین اور انصار نے اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا (طبقات، جلد ۲ صفحہ ۷۰۱)۔“

حالانکہ ان کا قتل کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہ تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان کا خون بہا ادا فرمایا * ”۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت خالد نے بنو جذیمہ کو پرانے کینوں اور جاہلیت کے جھگڑوں کا انتقام لینے کی غرض سے قتل نہیں کیا تھا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ حضرت خالد سے ضرور قصاص لیتے اور انہیں قرار واقعی سزا دیتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے فعل سے اپنی بریت کے اظہار پر ہی اکتفا کی۔ صرف یہی نہیں کہ آپ نے حضرت خالد سے قصاص نہیں لیا بلکہ انہیں بدستور امیر رہنے دیا اور جنگ حنین اور بعد کی جنگوں میں مقدمۃ الجیش کا سردار بھی مقرر فرمایا۔ رسول اللہ کے حضرت علی کو خون بہا ادا کرنے کے لئے بھیجنے اور حضرت خالد سے باز پرس نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت خالد کے فعل کو اتفاقی غلطی خیال کرتے تھے اور ایسا جرم نہیں سمجھتے تھے جو حضرت خالد نے جان بوجھ کر کیا ہو۔

بعض لوگ جو خالد کو قصور وار سمجھتے ہیں وہ اپنے دعوے کی دلیل میں یہ امر پیش کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے حضرت علی کو بنو جذیمہ کی جانب روانہ فرمایا تو ان سے کہا کہ ”جاہلیت کی باتوں کو اپنے قدموں تلے مسل دینا †“۔

* الاستیعاب جلد اول صفحہ ۱۵۷۔

† سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۲۸۳۔ الطبری جلد ۱ صفحہ ۱۲۳۔ یہ امر قابل غور ہے کہ ان دونوں مؤرخین نے اس قول کو صرف ایک راوی ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ اصول حدیث کی رو سے خبر واحد زیادہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔

یہ روایت پیش کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے سے حضرت خالد اور بنو جذیمہ کے درمیان بعض جھگڑے چلے آتے تھے اور حضرت خالد نے انہی کا انتقام لیا تھا۔

اصولِ درایت کے لحاظ سے یہ روایت غلط ٹھہرتی ہے کیونکہ پیش آمدہ واقعات جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں اس کی تائید نہیں کرتے۔ مزید برآں حضرت امام بخاری اور دیگر محدثین، جنہوں نے رسول اللہ کی احادیث جمع کرنے میں احتیاط اور صحت کا کوئی پہلو بھی نہیں چھوڑا، رسول اللہ کی جانب ایسا کوئی قول منسوب نہیں کرتے، نہ ہی قابلِ اعتماد مؤرخین نے اس قول کا ذکر کیا ہے۔ ان امور کی موجودگی میں اس قول کی صحت پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔

بنو جذیمہ کے قتل کا اصل سبب

مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں جو نتائج نکلتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو جذیمہ مسلمان تھے اور حضرت خالد انہیں قتل کرنے میں غلطی پر تھے۔ لیکن ان سے یہ غلطی پرانے کینوں اور جھگڑوں کا انتقام لینے کی غرض سے سرزد نہیں ہوئی تھی بلکہ کسی نہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی۔

اب صرف چوتھے سوال کا جواب باقی رہ جاتا ہے کہ حضرت خالد کے پاس ان کے قتل کے لئے کونسی وجہ جواز تھی اور انہیں کیا غلط فہمی لاحق ہوئی؟

بعض مؤرخین نے جن میں ابن ہشام اور طبری شامل ہیں

ابن اسحاق سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت خالد نے فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی سے بنو جذیمہ سے جنگ نہیں کی بلکہ عبداللہ بن حذافہ السہمی کے زور دینے اور ان کے یہ کہنے پر کہ رسول اللہ صلعم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان سے جنگ کرو کیوں کہ یہ ابھی تک اسلام نہیں لائے لیکن یہ روایت بھی نا قابل اعتقاد ہے کیوں کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو حضرت خالد پر طعن و تشنیع کی کوئی وجہ نہ تھی بلکہ اس صورت میں سارا الزام عبداللہ بن حذافہ پر عائد ہوتا اور وہ رسول اللہ صلعم کی جانب غلط بات منسوب کرے اور مسلمانوں کو قتل کرانے کی وجہ سے کسی صورت میں بھی رسول اللہ کی ناراضی سے نہ بچ سکتے۔ ہم حضرت ابن حذافہ یا کسی اور صحابی کے متعلق یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ رسول اللہ صلعم کی جانب غلط بات منسوب کر سکتے ہیں پھر یہ بات بھی محل نظر ہے کہ مندرجہ بالا روایت کی رو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنو جذیمہ اس وقت تک کافر تھے اور اسلام سے برگشتہ۔ حالانکہ ہم دلائل عقلیہ و نقلیہ کی رو سے ان مسلمان ہونا ثابت کر چکے ہیں۔

اس ضمن میں سب سے زیادہ صریح اور قابل اعتقاد روایت وہ ہے جو حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عمر کی زیاد سے بیان کی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے خالد بن ولید کو بنو جذیمہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے بجاٹے اسلام (ہم اسلام لائے) کہنے کے صبأنا، صبأنا (ہم صابی ہو گئے) (ہم صابی ہو گئے) کہنا شروع کر دیا*۔ یہ سن کر خالد

* یہی روایت ابن ہشام نے بھی ابو عمرو المدنی سے نقل کی ہے (ابن ہشام جلد ۳ صفحہ ۲۸۴)۔

انہیں قتل کرنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ قید کئے گئے انہیں مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا۔ اگلے روز خالد نے حکم دیا کہ ہر شخص اپنے اپنے قیدی کو قتل کر ڈالے۔ میں نے کہا ”خدا کی قسم! میں تو اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا۔ اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا“ یہ جھگڑا بڑھا۔ جب ہم رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعات حضور سے عرض کئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دو مرتبہ فرمایا ”اے اللہ! میں خالد کے فعل سے بری الذمہ ہوں*“۔

شارحین حدیث نے اس واقعہ کی جو تشریح کی ہے اس سے حضرت خالد کے عذر کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ علامہ بدر عینی† شارح بخاری فرماتے ہیں ”صبأنا“ صبا سے ہے جس کے لفظی معنی ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو جانے کے ہیں۔ قریش ہر اس شخص کو جو مسلمان ہو جاتا تھا، صابی کہا کرتے تھے۔ جب بنو جذیمہ نے صبأنا کہا تو حضرت ابن عمر نے سمجھ لیا کہ اس طرح وہ اپنے مسلمان ہو جانے کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت خالد نے ان الفاظ کو کافی نہ جانا۔ وہ ان کے سنہ سے اسلام کا لفظ صراحتمآ سننا چاہتے تھے“۔

خطابی کہتے ہیں ”اس بات کا احتمال ہے کہ حضرت خالد کو اس بات پر غصہ آیا ہو کہ بنو جذیمہ نے اسلام کا لفظ چھوڑ کر صبا کا لفظ اختیار کیا۔ ممکن ہے ان کو یہ خیال ہو کہ یہ لوگ یہ لفظ اسلام سے نفرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور

* عینی، شرح بخاری جلد ۱، صفحہ ۳۱۳۔

† فتح الباری (جلد ۸ صفحہ ۴۲) میں بھی یہی مرقوم ہے۔

در حقیقت اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی لئے انہوں نے انہیں تلوار کے گھاٹ آتار دیا۔ رسول اللہ، حضرت خالد پر اس لئے ناراض ہوئے کہ انہوں نے جلدی کیوں کی اور معاملہ فہمی سے کام کیوں نہ لیا۔“

امام ابن تیمیہؒ اپنی کتاب منہاج السنۃ* میں حضرت خالد کے اس فعل کا وہی سبب بیان کرتے ہیں جو علامہ عینی اور ابن حجر وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”بنو جذیمہ نے اسلمنا کا لفظ چھوڑ کر ”صبأنا صبأنا“ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ اسلام قبول کرنے نہیں چاہتے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا..... حضرت خالد نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلعم کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ دل و جان سے آپ کے مطیع تھے۔ لیکن چونکہ آپ کو تفقہ فی الدین میں کمال حاصل نہیں تھا اس لئے آپ کی نظروں سے رسول اللہ کا حکم مخفی رہا اور آپ اسے پورے طور پر سمجھ نہ سکے۔ حضرت خالد نے رسول اللہ کے احکام کی مخالفت نہیں کی اور نہ ان لوگوں کو قتل کیا جو ان کے نزدیک مسلمان تھے۔ آپ سے اتفاقہ ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ اسی قسم کی غلطی اسامہ بن زید سے اس آدمی کے قتل کرنے میں ہو گئی تھی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ تک اپنی زبان سے ادا کر دیا تھا۔“

علامہ عینی، امام ابن تیمیہ اور دیگر مقتدر شارحین حدیث نے اس حادثے کے بارے میں جو رائے ظاہر کی ہے اور حضرت

* منہاج السنۃ جلد ۲ صفحہ ۲۲۹ -

† اس واقعہ کے تفصیلی ذکر کے لئے دیکھیں طبری جلد

صفحہ ۹۹ -

خالد کے جس عذر پر روشنی ڈالی ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت خالد نے جو کچھ کیا وہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے کیا اور بنو جذیمہ کو قتل کر کے اپنے کسی پرانے جھگڑے کا انتقام ہرگز نہیں لیا۔

خواہ حضرت خالد کو اس بات پر غصہ آیا ہو کہ بنو جذیمہ نے صباانا کہہ کر اسلام کے لفظ سے انحراف کیا یا ان کا غصہ اس خیال سے ہو کہ انہوں نے اسلام سے نفرت کی وجہ سے صباانا کہا ہے، دونوں حالتوں میں حضرت خالد کے لئے جائے عذر وجود ہے کیونکہ حضرت خالد جیسے شخص سے، جن کی تمام عمر فوجی آداب و قواعد کی بجا آوری میں گذر گئی تھی، نرم مزاجی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ ان کی رگ و پے میں سختی اور خشونت سرایت کرچکی تھی۔ ان کے خیال میں اسلام قبول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ اعلان تھا اور وہ یہ کہ انسان اسلام کا اقرار کرتے ہوئے زبان سے صاف صاف اسلام کا لفظ ادا کرے۔ چونکہ بنو جذیمہ نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے حضرت خالد کے پہنچنے پر ہتھیار بھی اٹھائے تھے اس لئے آپ کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی خیال کے ماتحت آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا۔

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خالد نے جان بوجھ کر رسول اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ جو کچھ کیا وہ فہم و دراک کی غلطی کی وجہ سے کیا۔ ہمارے اس عوی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد بھی حضرت خالد رضہ کو رسول اللہ کا اعتماد حاصل رہا اور آپ برابر رسول اللہ کی خوشنودی سے بہرہ ور ہوتے رہے۔ اس واقعہ کے

بعد جب ہوازن کا معرکہ پیش آیا تو آپ اسلامی فوج کے
مقدمۃ الجیش کے سالار مقرر ہوئے۔

* غزوہ ہوازن *

رسول اللہ صلعم مکہ سے ۶ - شوال ۸ھ کو ہفتہ کے روز قبیلہ
ہوازن کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ دس ہزار
کے اس لشکر کے علاوہ جو مدینہ سے آپ کے ہمراہ آیا تھا
دو ہزار کے قریب اہل مکہ بھی تھے، جو غنیمت کے لالچ یا قومی
عصبیت کی وجہ سے آپ کے ہمراہ نکل کھڑے ہوئے تھے
حضرت خالد بن ولید، بنو سلیم کے سو سواروں کے ہمراہ
مقدمۃ الجیش پر متعین تھے †۔ (رسول اللہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے
بنو سلیم کو آگے روانہ کر دیا تھا اور ان کی کہان حضرت خالد
کے سپرد کر دی تھی۔ آپ جعرانہ ‡ تک مقدمۃ الجیش پر ہی
متعین رہے) ۱۰ - شوال کو منگل کے روز شام کے وقت
رسول اللہ حنین کے مقام پر پہنچ گئے۔

فتح و کامرانی اور قوت و طاقت کے نشہ میں چور جب اسلامی

* ہوازن ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی کئی شاخیں تھیں۔
یہ قبیلہ، ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس عیلان
بن الیاس بن مضر کی جانب منسوب تھا۔ (عینی، شرح بخاری
جلد ۱۷ صفحہ ۴۹۶)۔

† السیرۃ الحلبیہ جلد ۳ صفحہ ۱۶۳ و ۱۶۵۔

‡ جعرانہ، طائف اور مکہ کے درمیان لیکن مکہ سے نسبتاً
قریب ایک چشمہ ہے (معجم البلدان جلد ۳ صفحہ ۱۰۹)۔

شکروادی حنین میں آٹرا * تو ہوازن نے تیروں اور تلواروں سے ان کا استقبال کیا اور اپنی کمین گاہوں سے مسلمانوں پر اس مدت سے حملہ کیا کہ ان کے اوسان بجا نہ رہے اور انہیں پیچھے نلتے ہی بن پڑی۔ ان کی اس وقت کی حالت کا نقشہ قرآن مجید میں یوں کھینچا گیا ہے :

و یوم حنین اذ أعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئاً وضاعت لیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین (اے مسلمانو! یاد کرو حنین کے دن کو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لیکن کوئی چیز بھی تو تمہارے کام نہ آسکی۔ زمین اپنی فراخی کے وجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ دکھا کر بھاگ نکلیے۔

سب سے پہلے بنو سلیم کے گھوڑوں کے قدم اکھڑے اور ہوں نے سرپٹ واپس بھاگنا شروع کیا۔ اہل مکہ بھی انہی کے ساتھ پلٹے۔ اس غیر متوقع صورت حال کے باعث دیگر مسلمانوں کے اونٹ بھی ان کے قابو میں نہ رہے اور ایسے بد کے کسی کے روکے نہ رک سکے اور تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ رسول اللہ کے ساتھ چند سہاجرین و انصار اور آپ کے اہل بیت کے وا اور کوئی نہ رہا۔ لیکن یہ حالت زیادہ عرصے تک قائم نہ ہی۔ اللہ نے رسول کریم صلعم اور مومنوں کو طہانیت و سکون شا (نانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ و علی المومنین) مسلمان جلد ہی لے اور اس زور شور سے حملہ کیا کہ ہوازن کو شکست فاش

* وادی حنین، مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ اس کے درمیان تین رات کی مسافت ہے (عینی، شرح بخاری جلد ۱، صفحہ ۲۹۳)۔

† طبقات ابن سعد، جلد ۲، صفحہ ۱۰۹۔

اٹھانی پڑی -

اس واقعہ کے مختصر سے تذکرے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا حضرت خالد بھی پیٹھ پھیر کر بھاگنے والوں کے ساتھ تھے یا آپ ان چند لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ بدستور میدان جنگ میں رہے؟ اگر آپ بھاگنے والوں میں تھے تو کیا جلد واپس لوٹ آئے تھے اور دشمنوں کو مغلوب کرنے میں حصہ لیا تھا یا اس وقت واپس لوٹے تھے جب ہوازن کے قیدی مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے تھے؟

تاریخ کی کسی کتاب سے ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت خالد بھی ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ کے ساتھ میدان جنگ میں موجود رہے۔ آپ کو بنو سلیم کے سواروں کے امیر مقرر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے بنو سلیم ہی نے منہ موڑا تھا اور انہی کے گھوڑے سرپٹ واپس بھاگے تھے۔ ایسے موقعوں پر پیچھے ہٹتے ہی بن پڑتی ہے۔ لیکن جوان مرد اور بہادر وقتی ہزیمت سے حوصلہ نہیں ہار دیتے بلکہ جونہی انہیں موقع ملتا ہے وہ دوبارہ آگے بڑھتے ہیں اور ہمت سے کام لے کر اپنی شکست کو فتح میں بدل لیتے ہیں۔ حضرت خالد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ بھی ان جلیل القدر صحابہ میں شامل تھے کہ جب انہوں نے حضرت عباس کی آواز سنی* اور وہ باگیں نہ سو

* اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ لوگ کسی طرح بھی نہیں رکتے تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ وہ لوگوں کو بلائیں۔ حضرت عباس نے، جو بہت بلند آواز تھے، پکارنا شروع کیا ”اے انصار! خدا کا رسول تمہارے

(باقی صفحہ ۱۲۱ پر)

سگے تو تلواروں سے انہوں نے اونٹوں کی گردنیں کاٹ ڈالیں اور گلیک یا رسول اللہ کہتے ہوتے پیدل ہی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔

حضرت خالد رسول اللہ کی خدمت میں نہ صرف جلد حاضر ہو گئے بلکہ بھاگنے کی تلافی بھی کی اور اس جوان مردی سے تلوار چلائی کہ دشمنوں کی صفوں کی صفیں کاٹ کر رکھ دیں ۔ ان کی تلوار سے عورتیں بھی نہ بچیں، حالانکہ رسول اللہ نے عورتوں کے قتل سے منع فرمایا تھا ۔ یہ دیکھ کر حضور نے انہیں کہہ لیا بھیجا کہ وہ عورتوں اور بچوں کے قتل سے باز رہیں ۔ اس جنگ میں انہیں کئی زخم بھی آئے ۔ رسول اللہ کو حضرت خالد سے جو تعلق تھا وہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور خود آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ کے ساتھیوں کو آپ کی تیار داری کے لئے مختلف ہدایات دیں * ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۰)

بلاتا ہے ۔ اے مہاجرین ! خدا کا رسول تمہیں بلاتا ہے ۔ جب مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو انہوں نے واپسی کے لئے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی باگیں اور نکیلیں کھینچیں لیکن چونکہ جانور گوبراھٹ میں بھاگے جا رہے تھے اس لئے وہ روکے نہ رکے ۔ آخر صحابہ نے اپنی تلواروں سے گھوڑوں اور اونٹوں کی گردنیں کاٹ دیں اور پیدل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے (الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۲۸)۔

* السیرة الحلبيہ جلد ۳ صفحہ ۱۶۱ ۔

غزوہ طائف*

ہوازن کی شکست خوردہ فوج طائف جا کر پناہ گزین ہوئی اور جنگ بھی تیاریاں کرنے لگی۔ رسول اللہ نے وہاں پہنچ کر ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت خالد زخمی ہونے کے باوجود جنگ میں شامل تھے اور بدستور بنو سلیم کے انیس سو سواروں کے افسر تھے جو مکہ سے مقدمۃ الجیش کے طور پر لشکر کے ساتھ تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد بارہ ہزار تھی۔ اس نے طائف پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دور میں حضرت خالد کفار کو بار بار ’ہل من مبارز‘ کا نعرہ لگا کر مقابلے کا چیلنج دیتے تھے، لیکن کوئی شخص بھی جواب نہ دیتا تھا۔ بار بار کے چیلنج کے بعد قبیلہ ثقیف کے سردار عبدیالیل جواب دیا ”ہم میں سے کوئی شخص تمہارے مقابلے کے نہیں اترے گا۔ ہم بدستور قلعے میں مقیم رہیں گے کیوں ہمارے پاس اتنا سامان خورد و نوش موجود ہے جو ہمیں دو

* طائف، مکہ سے چھتیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جہاں نہایت سرسبز و شاداب ہے۔ انگوروں اور کھجوروں کے باغات یہاں بکثرت ہیں۔ خوب صورت وادیوں، جاری چشموں عمدہ آب و ہوا کے لئے یہ تمام عرب میں مشہور ہے۔ مکہ کے سردار اور صاحب توفیق لوگ گرمیاں گزارنے کے لئے یہیں کرتے تھے (یاقوت جلد اول صفحہ ۱۱)۔ علامہ عینی اپنی شرح بخاری میں لکھتے ہیں ”طائف ایک بڑا شہر ہے اور انگوروں اور کھجوروں کے باغات کے لئے مشہور ہے۔ یہ مکہ کے مشرق میں دو یا تین منزلوں پر واقع ہے۔“

کے لئے کافی ہے * ” ۔

بعض لوگوں کے صلاح دینے پر کہ اب طائف والوں سے کوئی
 خطرہ نہیں ہے رسول اللہ نے محاصرہ اٹھا لیا اور جعرانہ تشریف
 لے آئے جہاں ہوازن کے قیدی اور ان کا سال غنیمت جمع تھا ۔
 غنیمت کی تقسیم کے دوران میں ایک منافق † نے کہہ دیا کہ
 یہ تقسیم خدائی تقسیم نہیں ہے ۔ ” یہ فقرہ سن کر حضرت عمر
 نے رسول اللہ سے کہا ” حضور! کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں ؟ ”
 حضرت خالد نے بھی آگے بڑھ کر عرض کیا کہ ” حضور! اجازت
 لیں ، میں اس کی گردن آڑا دوں ” ۔ رسول اللہ نے فرمایا ” نہیں
 سے کچھ نہ کہو ۔ شاید یہ نماز پڑھتا ہو ” ۔

بظاہر ایک معمولی واقعہ پر اس منافق کی گردن مارنے کے
 حضرت خالد کے اجازت طلب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
 ان کے دل میں رسول اللہ کی کس قدر محبت اور کس درجہ احترام
 تھا ۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دین کا کس
 در پاس تھا اور وہ کوئی ایسی بات برداشت نہ کر سکتے تھے
 جس میں دین سے ذرا بھی انحراف پایا جاتا ہو ۔ رسول اللہ کی
 عین کرنے والے یا آپ کے عدل و انصاف میں شک کرنے والے
 سزا ان کے نزدیک کم سے کم یہ تھی کہ اس کی گردن آڑا

* السیرة الحلبيہ جلد ۳ صفحہ ۱۶۵ ۔

† بعض نے کہا ہے کہ اس منافق کا نام معتب تھا اور
 بعض کہتے ہیں کہ وہ ذوالخویصرہ تمیمی تھا (السیرة الحلبيہ
 جلد ۳ صفحہ ۱۷۱) ۔

دی جائے * -

بنو مصطلق †

رسول اللہ نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو ۹ ہ کے اور
میں بنو مصطلق کے پاس زکوٰۃ لینے کے لئے بھیجا جو دو
قبل اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب بنو مصطلق کو ولید
آنے کی خبر ملی تو وہ استقبال کے لئے بستی سے باہر نکلے۔
نے غلطی سے یہ جانا کہ وہ لڑنے کے لئے نکلے ہیں، کیوں
جاہلیت کے زمانے میں ولید اور بنو مصطلق کے درمیان چشم
رہتی تھی۔ ولید، رسول اللہ کے پاس واپس پہنچے اور حضوں
بتایا کہ بنو مصطلق مرتد ہو گئے ہیں اور لڑنے کے لئے
بیٹھے ہیں۔

یہ سن کر رسول اللہ نے حضرت خالد کو روانہ فرمایا
انہیں حکم دیا کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ اچھی
معلوم کر لیں کہ آیا وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اگر

* صحیح بخاری میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی
ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے یمن سے کچھ مال رسول
کی خدمت میں بھیجا جو حضور نے تقسیم فرما دیا۔ اس
پر بھی ایک شخص نے وہی اعتراض کیا جو اس موقع پر
کیا تھا۔ حضرت خالد یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور رسول
سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی (عینی، شرح بخاری جلد
صفحہ ۷)۔

† بنو مصطلق، قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھے (السیرۃ النبویہ
جلد ۲ صفحہ ۳۶۳)۔

کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تب ان سے تعرض کی کوئی ضرورت ہے۔ لیکن اگر انہوں نے نماز چھوڑ دی ہو تب جو مناسب چھین کریں۔ جب حضرت خالد اپنی جمعیت کے ساتھ مصطلق کی بستی کے قریب پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ نے ان کا حال معلوم کرنے کے لئے اپنے جاسوس روانہ کئے۔ ان نے واپس آکر خبر دی کہ تمام قبیلہ اسلام پر قائم ہے، یہ گ اذانیں دیتے اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ صبح کے وقت حضرت ولد بستی میں پہنچے۔ لوگوں نے ان کی بڑی خاطر و مدارت کی۔ تمام واقعہ جو ولید کے ساتھ پیش آیا تھا بتایا۔ حضرت خالد واپس آکر رسول اللہ کو تمام حالات سے اطلاع دی* جس پر آیات نازل ہوئیں۔

یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا ما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین (اے وہ لوگو ایمان لے آئے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر کر آئے تو اچھی طرح اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں یا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں نقصان پہنچا دو اور بعد میں اپنے کئے پر نادم ہو)۔

اس واقعہ کے بعد رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چھان بین بنا لے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف ہے۔†

اس واقعہ سے متعلق بعض امور کی وضاحت کر دینی
وری ہے :

* الاغانی جلد ۵ صفحہ ۱۳۱ ، مطبوعہ دارالکتب۔

† تفسیر الطبری جلد ۲۶ صفحہ ۲۹۔

(۱) مؤرخین اور مفسرین میں آیت ، یا ایہا الذین آمنوا اور
 جاءکم فاسق بنبأ کی شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض
 کہتے ہیں کہ جب ولید بن عقبہ رسول اللہ کے پاس واپس آئے
 اور اس نے بتایا کہ بنو مصطلق مرتد ہو چکے ہیں اور اللہ
 کے لئے تیار بیٹھے ہیں تو رسول اللہ نے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا
 اور مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ عنقریب بنو مصطلق
 سے جنگ کرنے کے لئے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا
 ابھی کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا کہ بنو مصطلق
 وفد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ
 بستی سے باہر ولید کا استقبال کرنے کے لئے نکلے تھے ، نہ
 لڑنے کے ارادہ سے۔ رسول اللہ نے ان کی بات پر یقین کر
 اور یہ آیت نازل ہوئی *۔

اس کے برعکس بعض مؤرخین اور مفسرین کہتے ہیں
 رسول اللہ نے ولید کے واپس آنے کے بعد حضرت خالد کو
 مصطلق سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا۔

ہمارے نزدیک دوسرا واقعہ زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ
 (الف) مذکورہ آیت کریمہ، یا ایہا الذین آمنوا دوسرے واقعہ
 ہی منطبق ہوتی ہے جس میں حضرت خالد کو بھیجنے اور انہیں
 تحقیق و تفتیش سے کام لے کر پھر کوئی کارروائی کرنے کا ذکر ہے
 پہلے واقعہ کے متعلق جس میں رسول اللہ کا بنو مصطلق سے جنگ
 کرنے کا ارادہ کرنے اور مسلمانوں میں اس غزوے کا چرچا ہو
 ذکر ہے، اس آیت میں کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا۔ یہ امر یقینی

* السیرة الحلبیہ جلد ۲ صفحہ ۳۷۱۔ تفسیر ابن کثیر جلد
 صفحہ ۱۱ و ۱۲ مطبوعہ المنار۔ تفسیر بغوی جلد ۸ صفحہ ۱۰۔

کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
 بن برہان الدین لکھتے ہیں ”ابن عبدالبر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ
 اہل علم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آیت کریمہ ،
 ن جاء کم فاسق بنیاء ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں
 اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ نے اسے بنو مصطلق کے پاس زکوٰۃ
 لینے کے لئے بھیجا اور اس نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ وہ
 و لڑائی کے لئے تیار بیٹھے ہیں *“۔

(ب) اکثر قابل اعتماد مؤرخین اور رواۃ ادب مثلاً مؤلف
 کتاب الاغانی † نے پہلے واقعہ کا ذکر تک بھی نہیں کیا بلکہ
 صرف دوسرے واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں حضرت خالد کو
 روانہ کرنے اور انہیں اچھی طرح تحقیق کر لینے کی ہدایت کا
 بیان ہے۔

(۲) حضرت خالد کو ان لوگوں کے پاس بھیجنا اور انہیں
 صبر و احتیاط سے کام لینے کی تلقین کرنا حکمت سے خالی نہیں
 تھا کیوں کہ رسول اللہ ان لوگوں کی بغاوت کا حال سن کر
 ان کے پاس کسی ایسے شخص کو بھیجنا چاہتے تھے جو عقل مند ،
 وسیع النظر اور معاملہ بین ہو، جو اس قوم کے حالات اچھی طرح معلوم
 کر سکے اور جو ان خصوصیات کے علاوہ باہر سپہ سالار بھی ہو
 نا کہ وقت پڑنے پر وہ جنگ بھی کر سکے۔ رسول اللہ نے حضرت
 خالد کو صبر و احتیاط سے کام لینے اور تحقیق و تفتیش کرنے کا

* الاغانی جلد ۵ صفحہ ۱۳۱۔ السیرۃ الحلبیہ جلد ۲ صفحہ ۳۷۱۔
 تفسیر ابن کثیر جلد ۸ صفحہ ۱۱ - ۱۲ تفسیر بغوی جلد ۸
 صفحہ ۱۰۔

† الاغانی جلد ۵ صفحہ ۱۳۱۔

جو حکم دیا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ حضرت خالدؓ کہیں جوش و شجاعت میں تحمل سے کام لینا نہ بھول جائیں۔ کیوں کہ ہوسکتا ہے رسول اللہ کو ڈر ہو کہ جس طرح حضرت خالد نے بنو جذیمہ کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے کر انہیں قتل کرا دیا تھا کہیں بنو مصطلق کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک نہ کریں۔

دومة الجندل*

رسول اللہ نے رجب ۵۹ میں رومیوں کے خلاف لشکر کشی کی۔ رومیوں کے علاقے میں پہنچ کر ابھی آپ تبوک کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ نے حضرت خالد کو چار سو بیس سواروں † کے ساتھ حاکم دومة الجندل، اکیدر بن عبدالمک کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ اکیدر عیسائی تھا اور قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا۔ رسول اللہ نے حضرت خالد کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اکیدر تمہیں گائے کا شکر کرتا ہوا ملے گا ‡۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت خالد قلعے کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ وہ دکھائی دینے لگا تو یوں ہوا کہ

* دومة الجندل دمشق اور مدینہ کے درمیان جبل طے کے قریب ایک قلعہ تھا اور دمشق سے سات منزلوں کے فاصلے پر تھا (معجم البلدان جلد ۳ صفحہ ۱۰۷)۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ دومة الجندل، مدینہ سے پندرہ راتوں کی مسافت پر واقع ہے (جلد ۲ صفحہ ۱۱۹)۔

† طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۱۱۹۔ السیرة الحلبيہ جلد ۳ صفحہ ۲۸۶۔

‡ الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۳۶۔ السیرة الحلبيہ جلد ۳ صفحہ ۲۸۶۔

کہ اُکیدر کے قلعے کے دروازے پر ایک جنگلی گائے نے آ کر
 کریں ماری شروع کریں۔ اُکیدر کی بیوی نے اپنے خاوند سے
 کہا ”کیا تم نے کبھی ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ کسی جنگلی
 گائے نے ہمارے محل پر آ کر یوں ٹکریں ماری ہوں۔“ اُکیدر نے
 کہا ”نہیں۔ لیکن میں اسے چھوڑتا کب ہوں۔“ چاندنی رات
 بھی۔ اُکیدر اپنے ایک بھائی، حسان اور چند اور لوگوں کے
 ہمراہ گائے کا شکار کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ یہ لوگ شکار کے
 موقع میں بے دھڑک جنگل میں چلے جا رہے تھے کہ سامنے سے
 حضرت خالد کا لشکر نمودار ہوا۔ لڑائی ہوئی۔ حسان مارا گیا۔
 اُکیدر قید ہوا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ حضرت خالد نے
 اُکیدر کی اس وعدے پر جان بخشی کی کہ وہ رسول اللہ کی
 خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی اطاعت قبول کرے گا اور جزیہ
 کے طور پر دو ہزار اونٹ، آٹھ سو گھوڑے، چار سو زرہیں
 اور چار سو نیزے دے گا۔ اُکیدر نے یہ شرائط قبول کر لیں۔
 حضرت خالد نے مال غنیمت کی تقسیم کی اور اُکیدر، اس کے بھائی
 مصاد (جو قلعہ میں موجود تھا) اور مذکورہ بالا چیزوں کو
 لے کر تبوک روانہ ہوئے جہاں رسول اللہ ابھی تک قیام پذیر
 تھے۔ تبوک پہنچ کر حضرت خالد نے اُکیدر کو حضور کی خدمت
 میں پیش کیا۔ اُکیدر نے آپ کی اطاعت قبول کی اور ہدیہ پیش
 کیا۔ رسول اللہ نے اُکیدر سے جزیہ قبول کر کے اس سے صلح
 کر لی اور اس کی اور اس کے بھائی کی جان بخشی کر دی۔
 ساتھ ہی آپ نے اسے ایک تحریر بھی اپنی سہر لگا کر دی جس میں
 اسے اسان دی گئی تھی اور صلح کی شرائط لکھی گئی تھیں*۔

* طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۱۱۹، ۱۲۱۔ السیرة الجلیہ

جلد ۳ صفحہ ۲۸۶ و ۲۸۷۔

نجران

رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو ربیع الاول اور بعض روایتوں کے مطابق جادی الثانی ۱۰ھ* میں چار سو مسلمانوں کے ساتھ بنو الحارث بن کعب کے پاس نجران بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرنے سے پہلے انہیں تین بار دعوت اسلام دینا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان میں رہ کر انہیں کتاب اللہ، سنت نبوی اور احکام اسلام کی تعلیم دینا، ورنہ ان سے جنگ کرنا۔ چنانچہ حضرت خالد وہاں گئے اور دعوت اسلام دینے کے لئے اپنے لوگوں کو تمام قبیلے میں پھیلا دیا۔ وہ جا بجا کہتے پھرتے تھے ”اے لوگو! اسلام لے آؤ، تم محفوظ رہو گے۔“ چنانچہ تمام قبیلہ اسلام لے آیا۔ حضرت خالد رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق انہیں دین کی تعلیم دینے کے لئے وہیں ٹھہر گئے اور رسول اللہ کو ایک خط کے ذریعے قبیلے کے قبول اسلام کی اطلاع دے دی۔ رسول اللہ نے حضرت خالد کو لکھا کہ وہ بنو الحارث کا ایک وفد اپنے ہمراہ لے کر مدینہ آئیں۔ چنانچہ حضرت خالد ایک وفد اپنے ہمراہ لے کر مدینہ پہنچ گئے اور اسے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ رسول اللہ نے وفد

* ابن اثیر نے ربیع الاول لکھا ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

† سیرت ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۳۴۷ - الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۵۶ -

‡ دونوں خطوط کی اصل عبارت بڑی بڑی کتب تواریخ میں موجود ہے دیکھیں، سیرت ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۳۴۷ - الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۵۶ -

سے دریافت فرمایا ” جاہلیت میں جو شخص تم سے لڑتا تھا وہ کبھی بھی فتح یاب نہ ہوتا تھا - فتح یاب تم ہی ہوتے تھے - اس کی کیا وجہ ہے ؟ “ وفد نے جواب دیا ” حضور ہم اکٹھے ہو کر لڑتے تھے - ہم میں کبھی تفرقہ پیدا نہ ہوتا تھا - دوسری بات ہم میں یہ تھی کہ ہم کبھی ظلم کی ابتداء نہیں کرتے تھے * “

طبری کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ نے حضرت خالد کو اسلام کی تبلیغ کے لئے یمن بھیجا - وہ وہاں چھ ماہ تک رہے لیکن کسی شخص نے بھی ان کی باتوں پر کان نہ دھرا - اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی کو وہاں روانہ فرمایا - ان کے پہنچنے کی دیر تھی کہ لوگوں نے جوق در جوق اسلام لانا شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں یمن کے اکثر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے † -

اس روایت کے متعلق چند امور قابل غور ہیں -

(۱) طبری نے اس واقعہ کا ذکر ۵۱ کے واقعات میں کیا ہے - اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ جب حضرت خالد کی تبلیغ کا اہل یمن پر کوئی اثر نہ ہوا تو چھ ماہ بعد رمضان ۵۱ میں حضرت علی کو بھیجا گیا - اس طرح حضرت خالد کی یمن کو روانگی ربیع الاول یا ربیع الثانی میں ماننی پڑے گی - لیکن ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ انہی ایام میں حضرت خالد کو بنو حارث کے پاس نجران بھیجا گیا تھا اور ان کی اس سہم کا ذکر تمام مؤرخین متفقہ طور پر کرتے ہیں - اگر یہ فرض کر لیا

* سیرة ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۳۴۷ - الطبری جلد ۳

صفحہ ۱۵۹ -

† الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۵۹ -

جائے کہ طبری نے دراصل نجران کی سہم کا ذکر کیا ہے ، تب بھی اس روایت کی کمزوری ظاہر ہے کیوں کہ یہ امر مسلم الثبوت ہے کہ اہل نجران حضرت خالد کے ہاتھ پر اسلام لے آئے تھے اور ان کا ایک وفد آپ کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت خالد کو نجران کے علاوہ یمن بھی بھیجا گیا تھا تب بھی اس روایت کی کمزوری میں کوئی شبہ نہیں کیوں کہ عقل یہ بات قبول کرنے سے قطعاً قاصر ہے کہ ایک شخص کو ایک ہی وقت میں دو جگہ بھیجا جائے ، ایک جگہ کے لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں اور ان کا ایک وفد اسی کے ساتھ مدینہ آئے اور اسی وقت میں وہ شخص دوسری جگہ بھی موجود ہو اور چھ ماہ تک کوئی شخص اس کی باتوں پر کان نہ دھرے۔

(۲) تاریخ کی کسی کتاب میں ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے اس روایت کا صحیح ہونا ثابت ہو۔ اس کے برعکس بعض روایتیں ایسی موجود ہیں جن سے بصراحت اس روایت کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن ہشام لکھتے ہیں :

”رسول اللہ نے حضرت علی کو یمن روانہ فرمایا۔ حضور نے خالد بن ولید کو بھی لشکر دے کر روانہ کیا اور فرمایا : اگر تمہاری علی سے ملاقات ہو جائے تو علی تمہارے امیر ہوں گے*“۔ مؤلف ”السیرة الحلبیہ“ بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ

* سیرة ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۳۶۵ - طبری میں بھی یہ روایت موجود ہے ، جلد ۳ صفحہ ۱۶۷ -

رسول اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ یا تھوڑے دنوں کے وقفے سے روانہ فرمایا تھا۔ یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت خالد چھ ماہ تک یمن میں مقیم رہے لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی اور آخر ان کی جگہ حضرت علی کو بھیجا گیا جنہیں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی۔

غرضکہ طبری کی روایت عقل اور تاریخ دونوں لحاظ سے قابل قبول نہیں۔

رسول اللہ کے زمانے میں حضرت خالد نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دئے ان سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ رسول اللہ کو آپ پر کس درجہ اعتقاد تھا۔ رسول اللہ نے نہ صرف حضرت خالد کو ان کے آبائی اعزاز پر قائم رکھا بلکہ بیشتر مواقع پر مقدمۃ الجیش کا سالار بھی مقرر فرمایا۔ خدمت کے کسی موقع پر بھی رسول اللہ نے حضرت خالد کو فراموش نہ کیا۔ چنانچہ حضرت خالد خود فرماتے ہیں ”جب سے میں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ نے کبھی مجھے اپنے صحابہ سے الگ نہ رکھا۔ دوسرے صحابہ کو خدمت کے جو مواقع دئے گئے، مجھے بھی دئے گئے۔“ رسول اللہ کی زندگی میں حضرت خالد برابر جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ اسلام کے عظیم الشان فرائض کی بجا آوری میں مصروف رہے اور کسی موقع پر بھی بزدلی اور کمزوری سے کام نہ لیا۔ رسول اللہ کے ہر سفر اور ہر غزوہ میں آپ ان کے ساتھ رہے اور آپ کی خوشنودی کے طالب رہے۔

لیکن ان کی بے نظیر خدمات کا سلسلہ رسول اللہ کی وفات پر منقطع نہیں ہو گیا بلکہ بعد میں بھی برابر جاری رہا۔ دین خدا

کی نصرت و حمایت اور اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر آپ نے جو
 شاندار کارنامے سرانجام دئے وہ تاریخ کا ایک دائمی ورق بن
 چکے ہیں اور انہیں کسی صورت بھی فراموش نہیں
 جا سکتا۔

۵

www.marfat.com

تیسرا حصہ

خالد رضہ عہد صدیق میں

تم۔۔۔۔۔

قبل اس کے کہ آن جنگوں کا ذکر کیا جائے جو مرتدین کے خلاف حضرت خالد نے لڑیں ، اس حالت کا اجالی تذکرہ کر دینا مناسب ہے جو رسول اللہ کی وفات کے وقت عربوں کی تھی۔

جزیرہ عرب کے اکثر باشندے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ کسی قانون اور نظام کے تحت رہنے کے عادی نہ تھے۔ تہذیب و تمدن ، شہریت اور معاشرتی زندگی کے مبادیات تک سے وہ ناواقف تھے۔ گو انہیں اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا تھا لیکن وہ طبعی طور پر اپنے قدیمی طرز زندگی اور رسوم و رواج پر ہی عمل پیرا رہنا چاہتے تھے۔ اسلام نے ان پر بعض پابندیاں لگادی تھیں جو انہیں بہت شاق گزرتی تھیں۔ جو قوانین اسلام نے پیش کئے تھے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی طبائع کے مطابق نہیں تھے۔ مثلاً بطور خود قصاص یا انتقام لینے کی ممانعت۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت کی کمی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے اکثر کو رسول اللہ

کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی اور اگر ہوئی بھی تھی تو بہت
 تھوڑی مدت کے لئے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں پاکیزگی اور طہارت
 میں تبدیلی پیدا نہ ہو سکی۔ اسلام کو پوری طرح نہ سمجھنے
 اور اس پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے مشرکوں کا نہ عقائد
 سے انہیں کلی طور پر نجات حاصل نہ ہو سکی۔ ان کے
 اسلام کی محبت سے خالی تھے۔ وہ بہ امر مجبوری، اپنے سرداروں
 کے زور دینے پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دین سے بے خبر
 کے باعث انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ زکوٰۃ ایک طرف
 کا تاوان ہے جو ان پر عاید کیا گیا ہے۔ انہیں یہ پتا
 نہ تھا کہ زکوٰۃ تاوان نہیں بلکہ صدقہ ہے جو امیروں سے
 لئے کر انہی کے حاجت مند بھائیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے
 تاکہ دونوں طبقوں کے درمیان تعاون کی راہ ہموار ہو سکے
 اور معاشرے میں توازن برقرار رہے۔

جب انہوں نے رسول اللہ کی وفات کی خبر سنی تو انہوں نے اس
 وقت کو اسلام سے پھٹکا رہا پانے اور ان "تکالیف" سے نجات حاصل
 کرنے کے لئے، جو انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پیش آرہی
 تھیں اپنے لئے نہایت سوزوں خیال کیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض
 نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور بعض نے سرے سے اسلام کو
 چھوڑ کر اس امید میں جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کی پیروی
 اختیار کر لی کہ اس طرح وہ بھی قریش کے مقابلے میں اپنے
 نبی کو پیش کر سکیں گے۔ وہ خلافت کو بغاوت کی کھلی کھلی
 دھمکیاں دینے لگے اور خلیفہ کے احکام کو ماننے سے قطعی انحراف
 کر دیا۔ اس طرح جزیرہ عرب میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا
 نفاق کا ستارہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ یہود و نصاریٰ کی خوشی
 کوئی انتہا نہ رہی۔ نبی کریم صلعم کی وفات، قلت تعداد اور کثرت

اعداء کے باعث مسلمانوں کی حالت حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ میں بکریوں کے اس ریوڑ کی سی تھی جو بے حد و کنار صحرا میں سرما کی سرد رات کو بغیر چرواہے کے رہ جائے۔ اس وقت ارتداد و ایحاد کی کثرت، دین خدا اور صراط مستقیم سے کھلے بندوں انحراف اور شدید ہیجان و اضطراب کی وجہ سے جزیرہ عرب ایک آتش فشاں پہاڑ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس فتنے سے سوائے مکہ، مدینہ اور طائف کے باشندوں اور چند بدوی قبائل کے، عرب کا اور کوئی قبیلہ محفوظ نہ تھا۔ سارے کے سارے قبائل اس طوفان میں بہہ گئے تھے۔

اس نازک صورت حال پر قابو پانے کے لئے، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد پیدا ہو گئی تھی، ایک صاحب عزیمت، نڈر اور کامل الایمان شخص کی ضرورت تھی، جسے خدا تعالیٰ کی مدد ہر پورا پورا بھروسہ ہو اور جو اپنے بے نظیر عزم و ہمت اور لاثانی تدبیر و فراست کی بدولت مرتدین کا قلع قمع کر سکے۔

یہ سب صفات حضرت ابوبکر صدیق میں پائی جاتی تھیں۔ رسول اللہ کی وفات پر، جب صحابہ سارے غم کے دیوانے ہو چکے تھے اور حضرت عمر جیسے شخص تلوار کھینچے یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑادوں گا*، یہ حضرت صدیق ہی کی شخصیت تھی جس نے مسلمانوں کو سنبھالا دیا۔ اور جب کہ سارا عرب ارتداد کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جل رہا تھا آپ نے مرتدین کے مقابلے میں جو مدبرانہ کارروائی کی اور جس بے نظیر لیاقت کے ساتھ ملک کو اس تباہ کن فتنے سے نجات دلائی

اس نے روز روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ اس وقت صرف آپ ہی کی ذات والا صفات خلافت کے بارگراں کو اٹھانے اور اسے سنبھالنے کے قابل تھی۔ نہ تو رسول اللہ کی وفات کا المناک حادثہ اور نہ ہی قبائل عرب کی روز افزوں بغاوت کی پریشان کن خبریں حضرت صدیق کے مضبوط عزم و ارادے اور ایمان کو متزلزل کر سکیں۔ فتنوں اور تشویش ناک واقعات کے دوران میں آپ نے اسامہ کے لشکر کو، جسے رسول اللہ نے اپنے مرض الموت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلے کے لئے بھیجا تھا اور جو حضور کی بیماری کی وجہ سے ابھی مدینہ ہی میں رکا ہوا تھا روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس موقع پر بعض بڑے بڑے صحابہ نے درخواست کی کہ موجود الوقت خطرناک حالات کی موجودگی میں اس لشکر کو فی الحال روک لیا جائے اور اگر لشکر رک نہیں سکتا تو اسامہ کی جگہ کسی بڑے آدمی کو سپہ سالار مقرر کر دیا جائے۔ لیکن حضرت صدیق نے اس قسم کی ہر درخواست کو ٹھکرا دیا اور تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے لشکر کو اسامہ کی قیادت میں شام کی جانب بھیجا دیا۔

اس لشکر کی روانگی مسلمانوں کے لئے بے حد مفید ثابت ہوئی۔ باغیوں اور مرتدین نے یہ خیال کیا کہ اس نازک صورت حال کی موجودگی کے باوجود لشکر اسلام کو شام کی طرف روانہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس زبردست عسکری قوت موجود ہے، ورنہ کبھی بھی ان کا لشکر مدینہ سے باہر نہ نکل سکتا۔ اس خیال کا اثر یہ ہوا کہ باغیوں اور مرتدین کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ یہ سوچنے لگے آیا اس موقع پر مدینہ پر حملہ کرنا اپنی شکست مول لینا نہ ہوگا۔

کچھ عرصے بعد عبس اور ذیبان کے قبائل نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت صدیق نے قلت تعداد کے باوجود شہر کے دفاع کا انتظام اتنا مستحکم کر رکھا تھا کہ حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہیں بری طرح شکست کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی دوران میں امامہ کا لشکر بھی فتح یاب ہو کر شام سے واپس مدینہ پہنچ گیا۔ حضرت صدیق نے اسے کچھ آرام کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد آپ نے متعدد علم تیار کئے اور باغیوں اور مرتدین کو مطیع کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لئے چاروں طرف لشکروں کی روانگی شروع کر دی۔

لشکروں کی روانگی سے پہلے آپ نے باغیوں اور مرتدین کے لئے ایک فرمان لکھا* اور اس کی متعدد نقلیں کرا کے قاصدوں کے ذریعے ہر مرتد قبیلے کی طرف بھیجیں اور قاصدوں کو ہدایت کر دی کہ قبیلے میں جا کر لوگوں کے مجمع میں یہ فرمان سب کو سنا دیا جائے، تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے اور قبل سے کہ لشکر اسلام پہنچ کر انہیں تباہ و برباد کر دے ان کو اپنی اصلاح کرنے اور راہ راست پر آنے کا موقع مل جائے۔

گیارہ علم تیار کئے گئے تھے اور ہر علم ایک ایک سردار کے سپرد کیا گیا تھا۔ ہر ایک سردار کے ساتھ فوج کا ایک ایک دستہ تھا۔ ان سرداروں کو روانگی کے وقت ایک ایک فرمان ایک ہی مضمون کا لکھ کر دیا گیا اور تمام سردار ذی القصد† سے اپنی اپنی

* اس فرمان کا مضمون مبسوط کتب تاریخ میں موجود ہے۔
یکھیں، طبری جلد ۳ صفحہ ۲۲۶ و ۲۲۷۔

† یہ مقام نجد کی جانب مدینہ سے ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ طبری جلد ۳ صفحہ ۲۲۵ و ۲۲۸۔

فوج کو لے کر اپنی اپنی منزل مقصود کو روانہ ہو گئے ۔

ذیل میں ہر سردار اور اس کی منزل مقصود کی تفصیل درج کی جاتی ہے :

(۱) خالد بن ولید : آپ کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے بزاخہ جا کر طلیحہ بن خویلد اسدی سے جنگ کریں اور جب وہاں سے فارغ ہو جائیں تو بطاح جا کر مالک بن نویرہ کی سرکوبی کریں ۔

(۲) عکرمہ بن ابو جہل : انہیں سیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا گیا ۔

(۳) شرجیل بن حسنہ : انہیں عکرمہ کے پیچھے ان کی مدد کے لئے روانہ کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جب سیلمہ کذاب سے فراغت حاصل ہو جائے تو وہ حضور موت جا کر بنو کنندہ پر حملہ کریں ۔

(۴) مہاجر بن ابی امیہ : انہیں اسود عنسی کی سرکوبی کے لئے صنعاء روانہ کیا ۔

(۵) حذیفہ بن محسن : انہیں عمان جا کر دبا کو مغلوب کرنے کے لئے روانہ کیا گیا ۔

(۶) عرفجہ بن ہرثمہ : انہیں اہل مہرہ کی سرکوبی کے لئے بھیجا گیا ۔ حذیفہ اور عرفجہ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ دونوں اپنے اپنے ساتھ ساتھ رہیں ، جب عمان میں رہیں تو حذیفہ امیر ہوں اور عرفجہ ان کے ماتحت اور جب مہرہ میں ہوں تو عرفجہ امیر ہوں گے اور حذیفہ ماتحت ۔

(۷) سوید بن مقرن : انہیں یمن جا کر اہل تہامہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا گیا ۔

کرنے کا حکم دیا گیا۔

(۸) علاء بن حضرمی : انہیں بحرین بھیجا گیا۔

(۹) طریفہ بن حاجز : انہیں بنو سلیم اور ان کے شریک حال ہوازن سے جنگ کرنے لئے روانہ کیا گیا۔

(۱۰) عمرو بن العاص : انہیں قضاعہ کی سرکوبی کے لئے بھیجا گیا۔

(۱۱) خالد بن سعید : انہیں ملک شام کی سرحد پر قبائل کو مطیع کرنے کے لئے بھیجا گیا۔

سرداروں کی اس فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت صدیق نے ان میں سے کسی کو بھی ایک سے زیادہ قبائل کی سرکوبی کا کام سپرد نہیں کیا۔ اس کے برعکس بعض قبائل کی طرف دو دو سردار بھیجے گئے۔ صرف حضرت خالد ایسے شخص ہیں جنہیں دو قبائل کی سرکوبی کا حکم دیا گیا۔ انہیں پہلے بزاخہ جا کر طلیحہ بن خویلد سے لڑنے کا اور وہاں سے فراغت پانے کے بعد بطاح جا کر مالک بن نویرہ کی سرکوبی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ جب آپ دونوں قبائل کی سرکوبی سے فارغ ہو چکے تو آپ کو سہیلہ کذاب کے مقابلے کے لئے بھی روانہ کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق کو حضرت خالد پر کتنا بھروسہ اور کتنا اعتماد تھا۔ مرتدین کے مقابلے میں خالد نے جو کامیابیاں حاصل کیں، ان سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ آپ واقعی ”سیف اللہ“ کے خطاب کے مستحق تھے۔

ہم اس جگہ دوسرے سرداران عسا کر کے کارنامے بیان نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس وقت صرف حضرت خالد کے کارناموں کے

متعلق کچھ کہنا ہے۔ سب سے پہلے ہم طلیحہ کے ساتھ جنگ کا حال بیان کرتے ہیں :-

طلیحہ

اس کا نام طلیحہ بن خویلد اسدی تھا۔ وہ بنو اسد بن خزیمہ میں سے تھا۔ حجۃ الوداع کے بعد رسول اللہ کے مرض کی خبر سن کر اس نے آپ کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کی غرض یہ تھی کہ اسے بھی وہ شان حاصل ہو سکے جو رسول اللہ کو حاصل تھی۔

رسول اللہ نے حضرت ضرار بن ازور کو طلیحہ کی سرکوبی کے لئے بنو اسد کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے جا کر اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اسے بہت حد تک دبا دیا۔ اسی دوران میں انہوں نے موقع پا کر طلیحہ پر تلوار کا وار کیا لیکن وہ نشانے پر نہ لگا اور طلیحہ بچ گیا اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ طلیحہ کے جسم پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ اس خبر سے طلیحہ کا زور پھر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران میں رسول اللہ کی وفات کی خبر پہنچ گئی اور حضرت ضرار مہم کے ناتمام چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ ان کے واپس آنے کے بعد طلیحہ کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جبریل اس کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ اس نے اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں اور سجدہ نہ کیا کریں عربی عصبیت نے اس کے اس کاروبار کو زبردست ترقی دی اور اسد، غطفان، طی، عیس، ذیبان کے قبائل اس کے ساتھ آ گئے۔ ان قبائل میں سے بعض آپس میں حلیف تھے اور بعض

ایک دوسرے سے رشتہ داریاں تھیں*۔ اسی لئے انہوں نے متفق ہو کر ظلیحہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی۔

حضرت صدیق نے حضرت خالد کو حکم دیا تھا کہ وہ سب سے پہلے اکناف † جا کر قبیلہ طے کی سرکوبی کریں۔ اس کے بعد بزاخہ ‡ جائیں اور وہاں سے بطاح - اور ایک جگہ سے فارغ ہو کر دوسری جگہ کا قصد کرنے سے پہلے انہیں تمام واقعات سے مطلع کر دیں۔

حضرت خالد کی روانگی سے پہلے حضرت صدیق نے قبیلہ طے کے ایک معزز شخص عدی بن حاتم کو، جو بدستور اسلام پر قائم تھے، ان کے قبیلے میں بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ ”اپنے قبیلے میں جا کر انہیں اسلام کی تلقین کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالد انہیں نیست و نابود کر دیں“ چنانچہ وہ تیزی سے قبیلہ طے کی جانب روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ اپنے قبیلہ عوث کے پاس پہنچے جو طے کی ایک شاخ تھا اور لوگوں کو پیش آمدہ خطرات

* بنو اسد، غطفان اور طے کے درمیان جاہلیت کے زمانہ سے ہی دوستی تھی۔ الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۳۰۔

† اکناف قبیلہ طے کے دو پہاڑوں سلمی اور اجا کو کہتے ہیں۔ معجم البلدان جلد ۱ صفحہ ۳۱۸۔

‡ بزاخہ بنو اسد کا ایک چشمہ ہے۔ یاقوت جلد ۳ صفحہ ۱۶۱۔ الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۲۸۔

✖ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صدیق کو حضرت خالد کی سختی کا علم تھا اور آپ نے عدی کو اسی لئے ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں خالد کی سختی سے محفوظ رکھیں۔

سے خبردار کرنا شروع کیا۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور انہوں نے عدی سے کہا کہ خالد کے یہاں پہنچنے پر تین دن کے لئے انہیں روک رکھیں، تا کہ ہم اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو جو بزاخہ میں طلیحہ کے لشکر میں شامل ہیں، اس کے لشکر سے علیحدہ کر لیں۔ کیوں کہ اگر ایسا نہ ہوا اور ہم نے پہلے ہی سے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تو طلیحہ ہمارے آدسیوں کو یا مروا ڈالے گا یا قید کر لے گا*۔ چنانچہ عدی نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت خالد مقام سخ† پر پہنچے تو عدی ان کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ”آپ تین دن تک انتظار کریں۔ اس عرصے میں آپ کے پاس پانچ سو ہتھیار بند آدمی جمع ہو جائیں گے، جن کے ساتھ آپ دشمن پر بھر پور حملہ کر سکیں گے۔ تین دن کا یہ انتظار اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دیں اور پھر ان کا تماشا دیکھیں‡“۔ حضرت خالد نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ اس عرصے میں قبیلہ عوث کے جو آدمی طلیحہ کے لشکر میں تھے وہ واپس آ گئے اور اسلام قبول کر کے حضرت خالد کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح آپ کی جمعیت میں معتدبہ اضافہ ہو گیا۔ اب حضرت خالد نے قبیلہ طے کی دوسری شاخ ’جدیلہ‘ کی طرف جانے کا قصد کیا جو ”انسر“ مقام پر آباد تھی۔ عدی نے آپ سے کہا ”قبیلہ طے ایک پرندے کی مانند ہے اور جدیلہ، طے کا ایک پر ہے۔ آپ مجھے چند روز کی سہلت دیں تا کہ میں جدیلہ کو لے آؤں“۔

* الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۲۸ -

† طے کے پہاڑوں کے نزدیک نجد کا ایک قصبہ۔ معجم البلدان

جلد ۵ صفحہ ۱۴۹ -

‡ الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۲۸ -

یا کر سمجھاؤں۔ شاید ایسا ہو کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے
وٹ کو ہدایت دے دی، وہ جدیلہ کو بھی دے دے۔“
حضرت خالد نے یہ درخواست بھی خوشی سے منظور کر لی۔ عدی،
جدیلہ کے پاس آئے اور اپنی کوششوں سے اس قبیلے کے
لوگوں کو بھی دوبارہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس
رح حضرت خالد کی فوج میں ایک ہزار نفوس کا مزید اضافہ
ہو گیا۔

قبیلہ طے کے اسلام لانے کے بعد حضرت خالد اپنی فوج کو
بے کر بزاخہ کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب پہنچ کر آپ نے
عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اقرم انصاری کو دریافت حال کے لئے
شکر کے آگے آگے روانہ کیا۔ انہوں نے موقع پا کر طلیحہ کے
بھائی حبال کو قتل کر دیا۔ جب طلیحہ کو اپنے بھائی کے قتل
کا حال معلوم ہوا تو وہ اپنے ایک بھائی سلمہ کو ساتھ لے کر نکلا
اور عکاشہ اور ثابت، دونوں کو شہید کر دیا۔ جب حضرت خالد
اپنے لشکر کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں ان دونوں کی لاشیں پڑی
ہوئی تھیں تو مسلمانوں نے بے خیالی میں گھوڑوں کے سموں سے
ثابت بن اقرم کی لاش کو روند ڈالا۔ لیکن بعض لوگوں کی نگاہ
عکاشہ بن محسن کی لاش پر پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو
روکا اور اتر کر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ان کے
اپنے آدمیوں کی لاشیں تھیں۔ انہیں سخت رنج ہوا اور انہوں نے
کہا ”افسوس! مسلمانوں کے دو سرداروں کی لاشیں اس طرح
خاک و خون میں لتھڑی ہوئی، بے گور و کفن میدان میں پڑی
ہیں۔“ حضرت خالد نے اس وقت یہی مصلحت سمجھی کہ وہ آگے
پڑھنے کے بجائے قبیلہ طے کی طرف واپس ہو جائیں* اور وہاں قیام

کر کے فوج کو اور زیادہ منظم کریں ، تا کہ شکست کا امکان خطرہ باقی نہ رہے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بنی طے سے مزید مدد مانگی۔ انہوں نے کہا ”بنی قیس کے مقابلے میں تو ہم آپ کو زیادہ امداد دے سکتے ہیں لیکن بنی اسد سے لڑنے سے آپ ہمیں معذور جانیں کیوں کہ وہ ہمارے حلیف ہیں“۔ یہ سن کر حضرت خالد نے کہا ”تم جس قبیلے سے چاہو لڑو اور جس سے چاہو نہ لڑو۔ یہ تمہارا اختیار ہے لیکن ہمارا ساتھ دو۔ ہم تمہیں کسی قبیلے سے لڑنے پر مجبور نہیں کریں گے“۔

عدی بن حاتم نے کہا ”خدا کی قسم! حلیف ہونے کا باوجود، مجھے کوئی چیز بنو اسد سے لڑنے سے باز نہ رکھ سکی گی۔ جب انہوں نے دشمنان اسلام کا ساتھ دیا تو وہ ہمارے حلیف بھی نہ رہے“۔

حضرت خالد نے فرمایا ”تم اپنے قبیلے کے لوگوں کی رائے کی مخالفت نہ کرو بلکہ وہی کرو جس میں تمہارے قبیلے والوں کی خوشی ہو اور اسی قبیلے سے لڑائی کرو جس سے تمہارے قبیلے والے لڑنا چاہیں“۔

حضرت خالد کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی نفسیات سے کس درجہ واقف تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اگر کسی قبیلے کو کسی قوم کے خلاف زبردستی لڑنے پر مجبور کیا جائے تو وہ خوشی اور اطمینان قلب کے ساتھ جنگ نہ کر سکیں گی اور اس کا نتیجہ شکست ہی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔

بنو طے میں اپنے لشکر کو خوب منظم کر کے حضرت خالد نے طلیحہ سے جنگ کرنے کے لئے بزاخہ روانہ ہوئے۔ طلیحہ لشکر میں عیینہ بن حصن فزاری بھی اپنے قبیلہ بنو فزارہ

مات سو آدمیوں کے ساتھ شریک تھا - فریقین کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی - طلیحہ ایک طرف چادر اوڑھے ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا - جب مرتدین کے لشکر میں ضعف کے آثار نمودار ہوئے تو عیینہ ، طلیحہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا ”آپ کے پاس جبریل کوئی وحی لائے؟“ طلیحہ نے کہا ”ابھی نہیں“ - عیینہ یہ سن کر واپس چلا گیا اور لڑنا شروع کر دیا - جب لڑائی نے مزید شدت اختیار کی اور مسلمانوں کا دباؤ مرتدین پر برابر بڑھتا چلا گیا تو عیینہ دوبارہ طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا ”اب بھی جبریل کوئی خبر لائے یا نہیں؟“ طلیحہ نے وہی جواب دیا ”ابھی تک نہیں“ - عیینہ پھر واپس جا کر لڑنے لگا - لیکن مسلمانوں کا زور اب اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مرتدین کو اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی - عیینہ تیسری بار دوڑا دوڑا طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا ”اب بھی کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں؟“ - طلیحہ نے کہا ”ہاں ، نازل ہوئی ہے“ - عیینہ نے پوچھا ”کیا؟“ - طلیحہ نے جواب دیا ”یہ وحی نازل ہوئی ہے : ان لک رحا کر حاہ وحدیثاً لاتنساہ“ (تیرے پاس بھی ویسی ہی چکی ہے جیسی کہ مسلمانوں کے پاس ہے اور تیرا ذکر بھی ایسا ہے جسے تو کبھی نہ بھولے گا*) - عیینہ کو یہ سن کر بڑا طیش آیا اور اس نے طلیحہ سے کہا ”قد علم الله انه سيكون حدیثاً لاتنساہ (بے شک خدا کو معلوم ہے کہ عنقریب ایسے واقعات پیش آنے والے ہیں جنہیں تو کبھی فراموش نہیں کر سکتے گا) - یہ کہہ

* عرب چکی کو جنگ سے تعبیر کرتے تھے - مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی ویسی ہی جنگ در پیش ہے جیسی تمہارے دشمنوں کو اور اس جنگ کے واقعات تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے - (مترجم) -

کر وہ میدان جنگ میں آیا اور چلا کر کہا ” اے بنی فزار خدا کی قسم طلیحہ نبی نہیں بلکہ کذاب ہے۔ لڑائی بند کر دو اور بھاگ چلو“۔ چنانچہ تمام بنو فزارہ یہ آواز سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ باقی لشکر طلیحہ کے گرد جمع ہو گیا اور پوچھا ”اب ہم کیا کریں؟“ طلیحہ نے اپنے اور اپنی بیوی نوار کے لئے بھاگنے کا انتظام پہلے ہی سے کیا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ صورت حال دیکھی تو وہ اپنی بیوی کو اپنے گھوڑے پر ہمراہ سوار کر کے یہ کہتا ہوا فرار ہو گیا کہ جو شخص میری طرح اپنے اہل و عیال کو لے کر فرار ہو سکے، وہ ہو جائے طلیحہ وہاں سے بھاگ کر شام پہنچا اور وہاں جمعیت اکٹھی کرنے لگا لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر وہ مسلمان* ہو گیا حضرت عمر کے عہد میں ایران سے جنگوں کے دوران میں وہ بڑی بہادری سے لڑا اور میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتا لڑتا مارا گیا۔ عیینہ کا تعاقب کیا گیا اور اسے اس کے تیس ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ بزاخہ میں حضرت خالد کو بنو اسد کا کوئی سراغ نہ مل سکا کیوں کہ انہوں نے اپنے کنبوں اور خاندانوں کو پہلے ہی سے محفوظ مقامات پر بھیج دیا تھا۔

بنو عامر بن صعصعہ بھی طلیحہ کے طرف داروں میں تھے اور بزاخہ سے کچھ ہی فاصلے پر آباد تھے۔ لیکن وہ طلیحہ کی طرف سے لڑنے کے لئے میدان جنگ میں نہ آئے بلکہ اپنی جگہ پر ہی اس انتظار میں رہے کہ کس فریق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے جب انہیں معلوم ہوا کہ طلیحہ کو شکست فاش نصیب ہوئی

* الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۲۹ - ۲۳۲ -

بنو انہوں نے باہم طے کیا کہ ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خالد کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ بیعت کے لفاظ یہ تھے ”ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول پر ایمان لائیں گے۔ نماز برابر پڑھیں گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کی طرف سے بھی بیعت کرتے ہیں۔“

بنو اسد، بنو غطفان اور اُن کے حامی قبائل کی جان بخشی حضرت خالد نے اس شرط پر کی کہ وہ ان لوگوں کو حوالے کر دیں جنہوں نے ارتداد کے دنوں میں ان مسلمانوں کو، جو ن کے جنگل میں پھنس گئے تھے، قتل کیا اور جلایا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کے سامنے حاضر کئے گئے۔ آپ نے قرہ بن ہبیرہ کے سوا باقی تمام لوگوں کو، جن کے ہاتھوں سے یہ شدید مظالم وقوع پذیر ہوئے تھے، قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو آگ میں جلا دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد عیینہ بن حصن اور قرہ بن ہبیرہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر حضرت صدیق کی خدمت میں روانہ کر دیا اور ساتھ ہی ایک خط بھی بھیجا جس کا مضمون یہ تھا :

”بنی عامر ارتداد کے بعد اسلام لے آئے، لیکن میں نے ان کی جان بخشی اس وقت تک نہیں کی جب تک انہوں نے اُن لوگوں کو میرے حوالے نہیں کر دیا جنہوں نے غریب و بے کس مسلمانوں پر سخت ظلم ڈھائے تھے۔ میں نے ایسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس خط کے ہمراہ میں قرہ بن ہبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو روانہ کر رہا ہوں۔“

جب عیینہ بن حصن اور قرہ بن ہبیرہ، حضرت صدیق کی خدمت میں پیش کئے گئے تو آپ نے ان کی جان بخشی کر دی اور انہیں معاف فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد کو یہ خط لکھا :-

”خدا تعالیٰ اپنے انعامات سے تمہیں بہرہ ور کرتا رہے۔ میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ تم اپنے معاملات میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور ہمیشہ تقویٰ کی راہ پر چلو کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے اور اس کے بندوں پر احسان کرتے ہیں۔“

”اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب بڑھ چڑھ کر کام کرتے رہو اور کبھی سستی نہ آرتو۔ ہر اس شخص کو، جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہو، قابو پانے کے بعد قتل کر دو۔ دوسرے لوگوں کے متعلق بھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی اور سرکشی اختیار کر کے اس کے احکام کی خلاف ورزی کی، اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ان کا قتل کر دینا مناسب ہے تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے۔“

حضرت خالد نے چشمہ بزاخہ پر ایک ماہ قیام فرمایا۔ یہ عرصہ آپ نے اس علاقے میں امن و امان قائم کرنے اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے میں گزارا۔ اسی دوران میں آپ کو خبر ملی کہ طلیحہ کے ہزیمت خوردہ لشکر کے کچھ لوگ قبیلہ بنو فزارہ میں جا کر ام زمل سلمی بنت مالک بن حذیفہ کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ اور ام زمل اپنے گرد زبردست جمعیت اکٹھی کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ خبر سن کر

* الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۳۳ -

حضرت خالد بنو فزارہ کی جانب روانہ ہوئے۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں نکلیں اور مقابلہ شروع ہوا۔ ام زمل ایک اونٹ پر سوار تھی اور اپنے ساتھیوں کو لڑنے کے لئے جوش لا رہی تھی۔ ام زمل نے اس بہادری سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا کہ اس کا نام ضرب المثل بن چکا ہے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ اب تک اس اونٹ کو نہ گرایا جائے گا جنگ کا زور کم نہ ہوگا، چنانچہ چند جانباز مسلمان ہمت کر کے اس اونٹ تک پہنچ گئے اور اس کی کونچیں کاٹ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ ام زمل کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے اونٹ کے ارد گرد کے سوسے اونٹوں کو بھی اسی طرح مار گرایا گیا۔

حضرت خالد کو جو کامیابی نصیب ہوئی اس کے اہم اسباب مندرجہ ذیل تھے :-

(۱) حضرت خالد اور ان کا لشکر ایک خاص عقیدے کی خاطر لڑتا تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تائید پر پورا بھروسہ تھا اور ان کی زبانیں ہر وقت اس آیت کا ورد کرتی رہتی تھیں : ان تنصروا اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم (اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا)۔ ان کو یہ کامل یقین تھا کہ جو شخص لڑائی میں مارا جائے گا اسے شہادت کا رتبہ ملے گا اور جو شخص دشمنوں سے محفوظ رہے گا اسے بھی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ انہیں موت کی کوئی پروا نہیں تھی اور وہ نہایت دل جمعی اور بے خوفی سے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ان کا دشمن محض قومی عصبیت کی خاطر لڑتا تھا۔ دشمن کے حلیف بھی اسے صرف عصبیت کی خاطر مدد دیتے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کو موت کا خوف

رہتا تھا اور اسی خوف کی وجہ سے وہ اطمینان سے جنگ نہ
سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں کاسیابی اور کامرا
کے حقیقی دار مسلمان ہی تھے، ان کے دشمن اور مخالف نہیں۔

(۲) دوسرا سبب مسلمانوں کی کاسیابی کا عکاشہ اور ثابت
شہادت ہے، جنہیں حضرت خالد نے دریافت حال کے لئے ان
لشکر سے آگے آگے روانہ کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے ان دونوں
سرداروں کی لاشیں دیکھیں تو ان کے دلوں میں انتقام کے
زبردست جوش پیدا ہوا اور وہ بڑی بے جگری سے دشمنوں
لڑے۔

(۳) قبیلہ طے کے لوگوں کا حضرت خالد کے ساتھ مل جانا
بھی مسلمانوں کے لئے بڑی تقویت کا باعث ہوا۔ اس طرح
صرف مسلمانوں کی جمعیت میں اضافہ ہوا بلکہ مرتدین کی جمعیت
میں معتدبہ کمی ہو گئی کیوں کہ ان کی فوج کا ایک
حصہ ان سے کٹ کر مسلمانوں سے جا ملا۔

(۴) عبیدہ بن حصن کا عین اس وقت جب کہ لڑائی پورے
زور شور سے جاری تھی، اپنے قبیلہ بنو فزارہ کو ساتھ لے
میدان جنگ سے بھاگ جانا بھی مسلمانوں کی فتح کا باعث بنا۔
اس کے بھاگ جانے سے باقی لشکر میں بھی بددلی پھیل گئی اور
اسی بددلی کے باعث جلد ہی اسے شکست اٹھانی پڑی۔

(۵) خود طلیحہ اسدی، جو لشکر کی روح رواں تھا، اپنے
فتح سے نا امید ہو گیا اور جس لشکر کا سردار ہی میدان جنگ
سے بھاگنے کی نیت رکھتا ہو اس کی شکست میں کسے
ہوسکتا ہے۔

مالک بن نویرہ

رسول اللہ کی زندگی میں بنو تمیم کے ایک وفد نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ نے پہلے کی مختلف شاخوں کے لئے مختلف امیر مقرر فرمائے۔ ان امراء میں زبرقان بن بدر، صفوان بن صفوان، قیس بن عاصم اور مالک بن نویرہ شامل تھے۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ کی وفات کی خبر سنی تو ان میں بعض بدستور اسلام پر قائم رہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں زکوٰۃ بھیجتے رہے۔ بعض نے تردد کیا لیکن آخر کار دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ بعض نے زکوٰۃ روک دی اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔ مؤخر الذکر لوگوں میں مالک بن نویرہ* بھی شامل تھا۔

جب حضرت خالد، طلیحہ کی سرکوبی سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے بطاح† پہنچ کر مالک بن نویرہ سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مالک بھی حضرت خالد کے ارادہ سے باخبر تھا۔ اسی لئے اس نے پہلے ہی سے اپنی قوم کو منتشر ہونے کا حکم دے دیا۔

جب حضرت خالد بطاح پہنچے تو قبیلے کا کوئی فرد وہاں

* اس کا شجرہ نسب یہ ہے۔ مالک بن نویرہ بن جمرہ بن شداد بن عبید بن ثعلبہ بن یربوع (طبقات الشعراء از ابن سلام الجمعی صفحہ ۳۸ - خزائن الادب از بغدادی جلد ۲ صفحہ ۱۹ - اصابہ جلد ۶ صفحہ ۳۶)۔

† بطاح، بنو تمیم کی شاخ بنو ثعلبہ بن یربوع کا مسکن تھا۔ مالک بن نویرہ بھی اسی شاخ سے تعلق رکھتا تھا (معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۲۱۳)۔

موجود نہ تھا۔ آپ نے نواحی علاقوں میں فوجی دستے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ وہ جس شخص سے بھی ملیں اسے دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ دعوت قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیں۔ یہ حکم آپ نے حضرت صدیق کی ہدایت کے مطابق دیا تھا جو یہ تھا ”جب تم کسی بستی کے قریب پہنچو تو اذان دو۔ اگر بستی والے بھی جواب میں اذان دینے لگیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔ لیکن اگر وہ اذان نہ دیں تو انہیں قتل کر دو اور ان کا مال و اسباب چھین لو۔ جو قبیلہ اسلام لے آئے اس سے زکوٰۃ طلب کرو۔ اگر دے دے تو ٹھیک، ورنہ اسے بھی قتل کر ڈالو*“۔

ان دستوں میں سے، جو حضرت خالد نے روانہ کئے تھے، ایک دستے کو مالک بن نویرہ اپنے چند ہم قبیلہ (بنو ثعلبہ بن یربوع) سمیت مل گیا۔ چنانچہ وہ اسے اس کے ہمراہیوں کے ساتھ حضرت خالد کے پاس لے آئے۔ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے والوں میں اختلاف تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ گرفتاری سے قبل ان لوگوں نے اذان نہیں دی تھی اور بعض لوگوں کا، جن میں پیش پیش رسول اللہ کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابوقتادہ تھے، یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کی بستی سے اذان کی آواز سنی ہے۔ جب دونوں گروہوں کے درمیان تصفیہ نہ ہوا تو حضرت خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید کرنے کا حکم دیا۔ رات بڑی سرد تھی۔ بعض روایات کے بموجب حضرت خالد نے ایک شخص کے ذریعے لشکر میں یہ منادی کرا دی:

فتواً اسراکم (اپنے قیدیوں کو گرسی پہنچاؤ)۔ کنازہ کی زبان
 ”مدافاة“ کا لفظ قتل کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا
 ہے۔ انہوں نے اس غلط فہمی میں اپنے قیدیوں کو، جن میں
 مالک بن نویرہ بھی شامل تھا، قتل کر دیا۔ جب حضرت
 خالد نے شور و غوغا سنا تو وہ اپنے خیمے سے باہر آئے، لیکن
 وقت تک تمام قیدیوں کا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا
 جب خدا تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر
 رہتا ہے۔“ جس شخص نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا وہ
 ربن ازدر تھے۔

حضرت ابو قتادہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور وہ
 کر سے نکل کر سیدھے حضرت صدیق کی خدمت میں مدینہ
 گئے اور مالک اور اس کے ساتھیوں کے قتل کا سارا واقعہ
 کے گوش گزار کر دیا۔ حضرت صدیق لشکر چھوڑ آنے
 وجہ سے ان پر بہت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ وہ
 الفور واپس جا کر اپنے مقرر کردہ امیر کے ماتحت کام کریں
 ان کے احکام کی پوری اطاعت کریں۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ
 سے گئے اور حضرت خالد کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے۔
 حضرت خالد مدینہ تشریف لائے تو وہ بھی انہی کے
 ساتھ آئے۔

ادھر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا
 خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے بہت برا کام کیا ہے،
 ان سے مالک کا قصاص لیجئے اور انہیں معزول کر دیجئے۔
 تو حضرت صدیق چپکے رہے لیکن جب حضرت عمر نے
 بات پر اصرار کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا ”عمر ا
 سے محض ایک اجتہادی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس لئے

اب تم ان کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکالو۔ اللہ کی تلوار کو جسے اس نے کافروں پر مسلط کیا ہوا ہے، میں میان میں ڈالنے والا کون ہوتا ہوں*؟“۔ آپ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھی ایک خط لکھ کر مدینہ طلب فرمایا۔ چنانچہ حضرت خالد تشریف لائے۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت عمر نے انہیں کافی سخت سست کہا۔ حضرت خالد اندیشے کے تحت کچھ نہ بولے کہ شاید حضرت صدیق کی رائے بھی ان کے متعلق وہی ہو جو حضرت عمر کی ہے۔ جب حضرت صدیق کے پاس پہنچے تو انہوں نے تمام واقعہ عرض کیا اور مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے متعلق اپنا عذر پیش کیا، جسے حضرت صدیق نے قبول فرمایا اور بیت المال سے مالک کا خون بہا ادا کر دیا۔ تاہم حضرت صدیق نے حضرت خالد کے مالک کی بیوہ سے شادی کر لینے ناراضی کا اظہار فرمایا اور انہیں اسے طلاق دے دینے کا حکم دیا۔

مالک بن نویرہ کے قتل کی اصل حقیقت

مالک بن نویرہ کے واقعہ قتل کے بیان کے بعد اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ آیا مالک حضرت خالد کی آمد کے وقت مسلم ہو چکا تھا یا بدستور ارتداد پر قائم تھا۔ اور اگر وہ اسلام قبول کر چکا تھا تو کیا حضرت خالد نے اسے جان بوجھ

* الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۴۲۔ ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۴۲

حضرت صدیق کی سیاست یہ تھی کہ اس زمانے میں جبکہ دشمنوں کے ساتھ جنگیں جاری تھیں، عہد اور امراء کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سرزنش کرنی مناسب نہیں ہے۔

قتل کیا تھا یا اس کا قتل حضرت خالد کی ایک اجتہادی غلطی تھی؟

حقیقت یہ ہے کہ مالک کے قتل کے مقدمے کا صحیح فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں کہ اس معاملہ میں اس قدر التباسات، بہت اور اختلافات آراء ہیں کہ صحیح فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے۔ چنانچہ ابن سلام بھی ہماری طرح یہی رائے رکھتے ہیں*۔ تاہم اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ لکھنا ضروری ہے۔

جیسا کہ ہم نے لکھا ہے، مالک کے مسلمان ہونے کے معاملے میں بہت اشتباہ پایا جاتا ہے۔ بعض واقعات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے اسلام سے سخت دشمنی تھی اور وہ حضرت خالد کے پہنچنے تک ارتداد پر قائم تھا۔ لیکن ان واقعات سے قطع نظر بعض دیگر واقعات پر غور کیا جائے تو انسان اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ شاید اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

جہاں تک اسلام دشمنی والے واقعات کا تعلق ہے ان میں سے نہایت مشہور واقعہ یہ ہے کہ مالک نے رحرحان† کے چشمے کے قریب زکوٰۃ کے اونٹوں پر اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ حملہ کیا اور انہیں لوٹ لیا۔ حملے کے وقت وہ پکار پکار کر اپنے ہمراہیوں سے کہہ رہا تھا کہ ”یہ اونٹ تمہارا مال ہیں، تم انہیں لوٹ لو۔ یہ پروا نہ کرو کہ کل کیا وقوع میں آئے گا۔“

* طبقات الشعراء، ابن سلام الجعفی، صفحہ ۴۸۔
† رحرحان، قبیلہ دوین کا چشمہ تھا جو کھجوروں کی ایک وادی میں واقع تھا (خزانہ الادب جلد ۲ صفحہ ۲۰)۔

اقرع بن حابس اور قعقاع بن معبد داری نے مالک کو اس حرکت سے منع کیا اور کہا کہ تمہیں بالآخر اس لوٹ کھسوٹ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس لئے تم اس سے باز رہو۔ لیکن مالک نے اپنے قول کے مطابق مطلق پروا نہ کی کہ کل کیا آئے گا۔ اس موقع پر اس نے یہ اشعار کہے :

أُرَانِي اللَّهُ بِالنَّعْمِ الْمُنْدَى
بِبِرْقَةٍ رَحْرَحَانَ وَقَدَّارَانِي
أَنْ قَرَّتْ عَيُونَ قَاسْتَفِيثَتْ
غَنَائِمَ قَدِيدِجُودِ بَهَابِنَانِي
حَوِيَتْ جَمِيعَهَا بِالسَّيْفِ صِلْتَا
وَلَمْ تَرَعْدِيدَايَ وَلَا جَنَانِي
تَمْشِي يَا ابْنَ عَوْذَةَ فِي تَمِيمٍ
وَصَاحِبِكَ الْاَقْرِعِ تَلْحِيَانِي

(اللہ نے مجھے رحرحان کی زمین پر اپنی خاص نعمت سے نوازا اس نعمت کو میں نے ننگی تلوار سے اکٹھا کیا اور ایسا کر کے میں نہ سیرے ہاتھ کانپے اور نہ میرا دل دھڑکا۔ اے ابن عوذہ کہ تو بنو تمیم میں دیکھ لے، تمام قبیلے میں میرے اس کارنامے کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے لیکن تو اور تیرا ساتھی، اقرع مجھ کے اس پر لعنت ملامت کرتا ہے)۔

ان واقعات کی روشنی میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مالک قطعاً اسلام نہیں لایا تھا۔ اس ضمن میں یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ اگر وہ واقعی اسلام لے آیا تھا تو جب امیر نے حضرت خالد کے آنے کی خبر سنی تو آخر اس نے اپنی قوم کو منتشر ہونے کا کیوں حکم دیا اور کیوں حضرت خالد

سامنے زکوٰۃ پیش نہ کی، حالانکہ بنو تمیم کے دوسرے سردار و کعب بن مالک وغیرہ ایسا کر چکے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو قتل ہونے سے بچا لیتا۔

جس واقعے سے اس کے اسلام لانے پر استدلال کیا جاتا ہے وہ رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو قتادہ اور چند اور مسلمانوں کی یہ شہادت ہے کہ انہوں نے گرفتاری سے قبل مالک بن نویرہ کے ساتھیوں کی جانب سے اذان کی آواز سنی تھی۔ حضرت ابو قتادہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شہادت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ خصوصاً اس حالت میں جبکہ انہیں اپنی شہادت کے سچا ہونے کا اس درجہ یقین تھا کہ انہوں نے اس وجہ سے اپنے امیر کی مخالفت بھی گوارا کر لی اور عین دوران جہاد میں لشکر کو چھوڑ کر خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کے لئے مدینہ روانہ ہو گئے۔ پھر یہ امر بھی بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق نے محض ایک ظنی اور غیر یقینی امر کی تفتیش کے لئے سپہ سالار کو میدان جنگ سے طلب فرمایا۔ حضرت عمر کا اصرار بھی، کہ خالد سے قصاص لیا جائے اور انہیں سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا جائے، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انہیں مالک کے اسلام لانے کا یقین تھا۔ حضرت صدیق کے بیت المال سے مالک کا خون بہا ادا کرنے اور قیدیوں کے چھوڑ دینے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مالک کو حالت اسلام میں قتل کیا گیا اور حضرت خالد کا اسے قتل کرنا اور اس کے دیگر ساتھیوں کو قید کر دینا جائز نہ تھا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق نے خالد کو اس خطرے کے پیش نظر طلب فرمایا ہو کہ کہیں فوج کے وہ لوگ جو حضرت ابو قتادہ کے ساتھ متفق ہیں، خالد کے خلاف ہو کر

مرتدین سے لڑنا چھوڑ دیں۔ خصوصاً اس صورت میں جبکہ فوج میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ حضرت ابو قتادہ، خالد کی شکایت لے کر مدینہ گئے ہیں اور ان کی شکایت پر حضرت عمر نے خالد کو معزول کر دینے پر اصرار کیا ہے، حضرت صدیق نے یہی مناسب سمجھا کہ خالد کو طلب فرما کر اس واقعے کی تحقیقات کی جائے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت صدیق نے خالد کے عذرات سننے کے بعد ان سے باز پرس نہیں کی۔ اگر خالد غلطی پر ہوتے تو حضرت صدیق انہیں قرار واقعی سزا ضرور دیتے۔ حضرت صدیق کی وفات کے بعد جب خلافت حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی تو حضرت عمر نے خالد کو مالک کے قصاص کے سلسلے میں کوئی سزا نہ دی، حالانکہ حضرت عمر جیسے شخص کو، جسے حق کے معاملے میں کسی شخص کی بھی پروا نہ تھی، کوئی طاقت خالد کو سزا دینے سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت صدیق نے صرف مالک بن نویرہ کا خون بہا ادا فرمایا اور دیگر مقتولین* کا، جو بلاشبہ حضرت خالد کے حکم کے بموجب قتل کئے گئے تھے، خون بہا نہیں دیا۔ اگر حضرت صدیق یہ سمجھتے کہ یہ لوگ حالت اسلام میں قتل کئے گئے ہیں تو خواہ آپ ان کے قاتلین سے قصاص نہ بھی لیتے تو کم از کم ان سب کا خون بہا ضرور ادا فرماتے۔ اس واقعے سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت صدیق کا مالک کا خون بہا ادا کرنا اور دیگر قیدیوں کو رہا کر دینا اس غرض سے تھا کہ مالک کے بھائی متمم بن نویرہ اور اس کی قوم کو ڈھارس دی جائے اور اپنے سردار کے قتل کی

* مالک کے ساتھ بنو بہان قبیلہ کے پینتالیس آدمی اور قتل کئے گئے تھے (خزانة الادب جلد ۲ صفحہ ۲۱)۔

وجہ سے وہ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے اس کا مداوا کیا جائے۔

ان واقعات اور احتمالات کی موجودگی میں ہمارے لئے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا مالک کا قتل حالت اسلام میں ہوا یا حالت ارتداد میں۔ ہم اس سلسلے میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ مالک کا اسلام لانا ثابت نہیں ہوتا لیکن اگر حضرت خالد اسے قتل نہ کرتے تو یہ امر یقینی ہے کہ وہ بالآخر اسلام لے آتا۔

اس معاملے کے ایک اور پہلو پر بھی کچھ روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ مالک بن نویرہ کے بارے میں مختلف روایات بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت جو اوپر بھی بیان ہو چکی ہے، یہ ہے کہ خالد نے قیدیوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں سردی سے بچایا جائے۔ آپ نے اس موقع پر جو الفاظ استعمال کئے وہ یہ تھے ”دافئوا أسراکم“ لیکن ان الفاظ سے مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی اور انہوں نے سمجھا کہ خالد قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کر دیا۔

اسی ضمن میں منجملہ اور روایات کے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے خالد کو یہ نصیحت کی تھی کہ اگر وہ مالک بن نویرہ کو دیکھ پائیں تو اس وقت تک اس کا پیچھا نہ چھوڑیں جب تک اسے قتل نہ کر دیں*۔

جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے، اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو حضرت خالد پر مالک اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے

* طبقات الشعراء لابن سلام، صفحہ ۵۰، مطبوعہ لندن۔

بارے میں کسی قسم کا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ حضرت خالد کا حکم قیدیوں کے متعلق یہ تھا کہ انہیں سرد سے بچایا جائے۔ اگر لوگوں کو آپ کا حکم سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی تو اس میں حضرت خالد کا کیا قصور؟ لیکن بظاہر روایت قابل اعتقاد نہیں ہے کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو خالد بڑی آسانی سے یہ بات اپنی صفائی میں پیش کر سکتے تھے۔ صورت میں دربار خلافت میں حضرت ابو قتادہ کے حاضر ہونے اور اس واقعے کے متعلق مسلمانوں میں ہیجان برپا ہونے کے بھی کوئی سبب نہیں تھا۔

رہا دوسری روایت کا سوال، تو اگر اسے صحیح سمجھا جائے تو اس بنا پر خالد کا مالک بن نویرہ کو قتل کرنا جائز نہ تھا کیوں کہ خالد، حضرت عمرو بن العاص سے احکام حاصل نہیں کرتے تھے۔ اس روایت میں یہ اشارہ بھی نہیں پایا جاتا کہ حضرت عمرو بن العاص نے خالد کو جو نصیحت کی وہ حضرت صدیق کے ارشاد یا ان کی رائے کے مطابق کی۔

ہمارے خیال میں مالک بن نویرہ کے قتل کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔

(۱) اس کے وہ اشعار، جن میں اس نے کھلے بندوں اسلام سے انحراف کا اظہار کیا ہے اور اپنے لٹیروں ساتھیوں کو مسلمانوں کی پروا نہ کرنے کی تلقین کی ہے*۔

(۲) حضرت صدیق کی وہ ہدایت، جس میں صاف طور پر ان لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جو زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوں، مالک نے زکوٰۃ دینے سے پس و پیش کیا تھا اس لئے اس

* طبقات الشعراء لابن سلام صفحہ ۵۰۔

قتل در حقیقت خلیفہ کے احکام کی بجا آوری میں شامل تھا*۔

(۳) طلیحہ اسدی کی سرکوی سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد کے نام حضرت صدیق کا خط، جس میں آپ نے لکھا تھا..... اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد جو کام کیا ہے اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ بجا لاؤ اور اس میں مطلق سستی نہ کرو۔ اگر تم کسی ایسے شخص پر قابو پاؤ جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہو تو اسے بلا پس و پیش قتل کر دو، تاکہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں۔ ان کے علاوہ ان لوگوں میں سے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی اختیار کی اور تمہاری مخالفت پر کمر بستہ ہوئے، اگر کسی شخص کے متعلق تمہارا یہ خیال ہو کہ اس کے قتل کرنے میں مسلمانوں کی بہتری ہے تو اسے بھی قتل کر دو۔

(۴) مالک بن نویرہ کی گرفتاری کے بعد جب حضرت خالد نے اس سے گفتگو کی تو اس نے نماز پڑھنے کا تو اقرار کر لیا لیکن زکوٰۃ دینے میں پس و پیش کی۔ حضرت خالد نے اس سے کہا ”کیا تجھے معلوم نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ اکٹھی قبول ہوتی ہیں۔ جب تک دوسرا رکن ادا نہ کیا جائے، پہلا رکن بھی قبول نہیں ہوتا“۔ مالک کہنے لگا ”تمہارے صاحب (رسول اللہ) تو وہی کہتے تھے جو میں کہتا ہوں“۔ حضرت خالد نے فرمایا ”کیا وہ تیرے صاحب نہیں؟ خدا کی قسم، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب تیری گردن ضرور اڑاؤں گا“۔ اس کے بعد دونوں میں تیز گفتگو ہونے لگی۔ حضرت خالد نے فرمایا ”میں تجھے قتل کروں گا“۔ مالک نے پھر کہا ”کیا

تمہارے صاحب نے تمہیں یہی حکم دیا ہے ؟ گفتگو کے اس انداز سے حضرت خالد نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ بدستور اسلام اور رسول اللہ کی رسالت سے انکاری ہے۔ مستند کتب تاریخ میں مالک بن نویرہ کے قتل کی یہی آخری وجہ بیان ہوئی ہے اور تمام مؤرخین اس گفتگو پر، جو اوپر ذکر ہوئی ہے، متفق ہیں*۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ وجوہات شک و شبہ سے خالی نہیں اور شبہ کی بنا پر شریعت اسلامی نے کسی شخص کا قتل روا نہیں رکھا۔ یہ وجوہات اگرچہ شک و شبہ سے خالی تو نہیں لیکن یہ شبہات معمولی نہیں، بلکہ اتنے قوی ہیں کہ حضرت خالد کے لئے مالک کے قتل کا پورا جواز پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ضروری بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگر ان سب وجوہات کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی ایک وجہ قتل کا جواز نہیں ٹھیرتی۔ لیکن جب ان تمام کو بیک وقت ملحوظ خاطر رکھا جائے تو حضرت خالد کا فعل بالکل حق بجانب ٹھیرتا ہے۔

حضرت صدیق نے خالد کے بارے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل درست تھا۔ جب حضرت عمر نے خالد سے باز پرس کرنے پر اصرار کرنا شروع کیا تو حضرت صدیق نے فرمایا ”عمر! خالد سے اجتہادی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس لئے تم ان کے متعلق کچھ نہ کہو“ حضرت صدیق سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ آپ کسی کی رعایت کرتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ صادر فرما دیتے

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۲۲۳ - طبقات الشعراء لابن سلا
صفحہ ۴۹ - الاصابہ جلد ۶ صفحہ ۳۶ - المختصر لابن الفداء جلد
اول صفحہ ۱۵۸ -

جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق ، خالد سے نہ صرف خوش رہے بلکہ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کی اہم سہم بھی انہی کے سپرد کردی، تو ہمارے لئے یہ باور کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ خالد کے عذرات کو بارگاہ خلافت میں شرف قبولیت حاصل ہو گیا تھا۔ اور یہ کہ انہوں نے مالک کو صرف اس لئے قتل کیا کہ ان کے خیال میں وہ بدستور ارتداد پر قائم تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا خیال درحقیقت صحیح تھا یا غلط۔ اگر حضرت صدیق کے نزدیک خالد کا عذر قابل قبول نہ ہوتا تو آپ خواہ ان سے قصاص نہ بھی لیتے تو کم از کم انہیں اسارت سے ضرور معزول کر دیتے۔

ابھی ایک اور مسئلہ باقی رہتا ہے جس کا تعلق بھی مالک کے قتل سے ہے اور وہ ہے مالک کے قتل کے بعد حضرت خالد کا اس کی بیوی سے شادی کر لینے کا واقعہ۔ حضرت خالد کے خلاف شور و شغب کی ایک بڑی وجہ یہ شادی بھی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اس واقعے کی اہمیت اس وجہ سے تھی کہ یہ فعل حضرت خالد جیسے جلیل القدر انسان سے سرزد ہوا۔ اگر یہی فعل کسی چھوٹے اور غیر معروف انسان سے سرزد ہوتا تو اس کی پروا بھی نہ کی جاتی اور کسی کو اس واقعہ کا علم بھی نہ ہوتا، لیکن چونکہ اس کا ارتکاب ایک بڑے انسان سے ہوا اس لئے اسے اس طرح ظاہر کیا گیا گویا کسی اجلے اور سفید کپڑے پر ایک بدنما سیاہ داغ پڑ گیا ہے۔

یہ واقعہ بھی شکوک و شبہات اور التباس سے خالی نہیں۔ تاریخ کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ بعض مؤرخین لکھتے ہیں

کہ خالد نے مالک کی بیوی کو خریدا اور فوراً ہی اس سے شادی کر لی۔ لیکن بعض کا کہنا ہے کہ شادی عدت کی میعاد گزرنے کے بعد ہوئی*۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ مالک حالت کفر میں قتل کیا گیا اور اس کے قتل کے بعد خالد نے اس کی بیوی کو، جسے لونڈی بنا لیا گیا تھا، خرید کر اس سے شادی کر لی، تو اس میں بظاہر کوئی قابل اعتراض بات معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مالک حالت اسلام میں قتل کیا گیا تھا، تب بلاشبہ خالد کا یہ فعل قابل اعتراض ہے۔ تاہم لڑائی کے زمانے میں خالد کا اس سے شادی کرنا بہر حال نا مناسب تھا، کیوں کہ عرب اس چیز کو برا سمجھتے تھے۔ اسی لئے حضرت صدیق نے بھی خالد کو اس معاملے میں سرزنش کی اور انہیں اسے طلاق دینے کا حکم دیا۔ ہمیں قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خالد نے اسے طلاق کب دی۔ بہر حال یہ امر یقینی ہے کہ آپ نے اسے طلاق جنگ یمامہ کے بعد دی کیوں کہ اس جنگ میں مسیلمہ کے لشکر کے بعض لوگ خالد کے خیمے میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس وقت آپ کے خیمے میں ام تمیم (مالک کی بیوی) موجود تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس جنگ کے بعد طلاق دی گئی۔

بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مالک کی بیوی ہی مالک کے قتل کا سبب بنی کیوں کہ وہ بے حد خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی نے خالد کے دل کو موہ لیا تھا۔ یہ مؤرخین اپنے دعوے کا ثبوت یہ پیش کرتے ہیں کہ قتل کے

* المختصر لابى الفداء جلد اول صفحه ۱۵۷ - طبقات الشعراء

لا بن سلام صفحه ۵۰ - الطبری جلد ۳ صفحه ۲۳۳ -

ت مالک نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ”مجھے اور کسی نہیں بلکہ تو نے قتل کیا ہے“۔ کوئی مسلمان بھی، جس کے میں اپنے اسلاف کی کچھ بھی قدر و منزلت ہو، خالد جیسے بل القدر صحابی یا کسی اور صحابی کے متعلق یہ باور نہیں رکھتا کہ انہوں نے شہوات نفسانیہ کی خاطر کسی شخص کو قتل کیا۔ حضرت خالد نے بھی جب مالک کی یہ بات سنی آپ نے فرمایا ”مجھے تیری بیوی نے نہیں، بلکہ تیرے ارتداد سبب اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے“۔

شاید حضرت خالد کا مالک کی بیوی سے شادی کرنے کا سبب ہو کہ خالد اس مصیبت اور تکلیف کا مداوا کرنا چاہتے ہوں مالک کی بیوی کو اپنے خاوند کے قتل سے پہنچی تھی اور کی ترکیب آپ کی سمجھ میں یہی آئی کہ آپ خود اس سے مدد کر لیں تاکہ اس کی خاطر خواہ دلدہی ہو سکے اور اسے بہادر شاعر مزاج خاوند کے بدلے ایک ایسا شوہر مل سکے جو درمی اور شجاعت میں اپنی مثال آپ ہو اور قیادت میں اس کا بیٹی ثانی نہ ہو۔

مسئلہ کذاب

دیگر قبائل کی طرح بنو حنیفہ کا بھی ایک وفد رسول اللہ خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وفد میں مسیلمہ کذاب بھی۔ مدینہ پہنچ کر باقی لوگ تو رسول اللہ کی مجلس میں چلے

* المختصر لابی الفداء جلد اول صفحہ ۱۵۷ - الاصابہ جلد ۲

گئے، لیکن مسیلمہ ان کے سامان کی رکھوالی کے لئے ڈیرے پر ہی ٹھہرا رہا۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وفد نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے انہیں کچھ مال مرحمت فرمایا۔ انہوں نے مسیلمہ کا بھی ذکر کیا۔ اس پر حضور نے اس کا حصہ بھی اس کے ساتھیوں تکو دیا اور فرمایا ”وہ ایسا شخص نہیں ہے جو ساتھیوں کے سامان کی رکھوالی کرنے کے لئے پیچھے چھوڑ دیا جائے“۔ جب بنو حنیفہ اپنے قبیلے میں واپس پہنچے تو مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وفد سے کہا ”کیا تم سے رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہ وہ ایسا شخص نہیں ہے جو ساتھیوں کے سامان کی رکھوالی کرنے کے لئے پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ وہ میرا مرتبہ پہچانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میں ان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں“۔ اس نے بعض مسجع مققع عبارتیں بنا کر اپنے قبیلے کے سامنے بطور وحی پیش کیں اور شراب اور زنا وغیرہ مفسد کو ان کے لئے حلال قرار دیا۔ بنو حنیفہ نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور اسے قسم کی مدد دینے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ کو ایک خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا :

”من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ سلام علیک فانی اشراکت فی الامر معک وان لنا نصف الارض ولقریش نصف الارض ولکن قریشا قوم یعتدون“۔

(یہ خط مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے لئے ہے۔ آپ پر سلامتی ہو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ مجھ کو نبوت میں آپ کا شریک کیا گیا ہے۔ نصف زمین میری ہے اور نصف زمین قریش کی۔ لیکن قریش بہت زیادتی کرنے والی ہے) نبی کریم صلعم نے اس کا یہ جواب دیا :

”بسم الله الرحمن الرحيم - بن محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب -
 لام علي من اتبع الهدى أما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء
 ن عباده والعاقبة للمتقين*“ -

(بسم الله الرحمن الرحيم - یہ خط محمد رسول الله کی طرف سے
 مسيلمہ کذاب کے نام ہے - سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت
 پیروی کی - اس کے بعد واضح ہو کہ زمین خدا تعالیٰ کی
 ملکیت ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا
 ارث بناتا ہے - انجام انہی کا بہتر ہوگا جو خدا سے ڈرتے ہیں)۔
 رسول اللہ کی وفات کے بعد مسيلمہ کا فتنہ اور زور پکڑ گیا -
 اس فتنے کو بھڑکانے میں زیادہ حصہ الرجال بن عنفوه کا تھا † -
 وہ شخص ہجرت کر کے مدینہ میں مقیم ہو گیا تھا - اس نے
 رسول اللہ کی صحبت میں رہ کر قرآن کریم اور دین کا علم حاصل
 کیا - جب اہل یمامہ مدینہ آئے تو رسول اللہ نے اسے قبیلہ مذکور
 کی تعلیم و تربیت اور دین سکھانے کے لئے ان کے ساتھ روانہ
 کر دیا - وہاں پہنچ کر بجائے اس کے کہ وہ اپنا مفوضہ کام
 انجام دیتا، اس نے مسيلمہ کی مدد کرنی شروع کی اور قبیلے
 کے سامنے اس بات کی شہادت دی کہ محمد صلعم نے یہ فرمایا
 تھا کہ مسيلمہ کو آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے -
 اہل یمامہ کے لئے مسيلمہ کے حق میں اس سے بڑا ثبوت اور
 کیا ہو سکتا تھا - وہ جوق در جوق مسيلمہ کی اطاعت قبول
 کرنے لگے اور اس طرح ایک زبردست فتنہ اٹھ کھڑا ہوا -

جب حضرت صدیق نے مختلف امراء کو مرتدین سے لڑنے کے لئے

* الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۶۷ -

† الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۴۴ - ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۴۴ -

جھنڈے مرحمت فرمائے تھے تو عکرمہ بن ابو جہل
 مسیلمہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔ عکرمہ کی
 کے لئے آپ نے شرحبیل بن حسنہ کو کچھ فوج دے کر ان
 پیچھے پیچھے روانہ فرمایا۔ عکرمہ نے اس خیال سے کہ مسیلمہ
 کی سرکوبی کا فخر تھا انہی کے حصہ میں آئے، شرحبیل کی آمد
 انتظار نہ کیا اور بنو حنیفہ پر دھاوا بول دیا۔ بنو حنیفہ
 کچھ کم تیار نہ تھے۔ انہوں نے زبردست حملہ کر کے عکرمہ
 کی فوج کو پیچھے ہٹا دیا۔ جب حضرت صدیق کو عکرمہ
 کی ہزیمت کی خبر پہنچی تو آپ نے شرحبیل بن حسنہ کو لے
 کہ وہ اپنی پیش قدمی کو موقوف کر کے اس کمک کا انتہا
 کریں جو خالد کی سرکردگی میں بھیجی جا رہی ہے۔ شرحبیل
 چاہئے تھا کہ وہ عکرمہ کی شکست سے نصیحت حاصل کر
 لیکن ان سے بھی وہی غلطی سرزد ہوئی جو عکرمہ سے ہو
 تھی۔ انہوں نے بھی حضرت خالد کی آمد کا انتظار کئے بغیر مسیلمہ
 کی فوج پر حملہ کر دیا۔ مسیلمہ کی فتح یاب فوج کے
 میں شرحبیل کی فوج بھی نہ ٹھہر سکی اور اسے بھی شکست
 کر پیچھے ہٹنا پڑا۔

خالد کو حضرت صدیق نے مالک بن نویرہ کے قتل
 جواب دہی کے لئے مدینہ طلب فرمایا تھا۔ حضرت خالد
 عذرات کو قبول کرنے کے بعد آپ نے انہیں مسیلمہ سے
 کے لئے یمامہ جانے کا حکم دیا اور سہاجرین و انصار کی
 جمعیت آپ کے ساتھ کر دی۔ انصار پر ثابت بن قیس بن
 امیر تھے اور سہاجرین پر ابوحنیفہ اور زید بن خطاب۔ سہاجرین
 اور انصار کے علاوہ جو دوسرے قبائل اس فوج میں شامل
 ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک امیر مقرر تھا۔ حضرت

مدینہ سے کوچ کر کے بطاح پہنچے تو وہاں لشکر کی تنظیم کی -
 اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور مسیلمہ کے علاقے میں پہنچ گئے -
 حضرت صدیق نے خالد کے روانہ ہونے کے بعد سلیط کو مسلمانوں
 کی ایک جمعیت کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ
 عقب میں رہ کر اس کی حفاظت کریں تا کہ دشمن مسلمانوں کی
 فوج پر بے خبری میں پیچھے سے حملہ نہ کر سکے -

جب خالد، شرجیل کے پاس پہنچے اور انہیں ان کی شکست کا
 حال معلوم ہوا تو وہ شرجیل پر بہت ناراض ہوئے کہ انہوں نے
 خلیفہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسیلمہ کی فوج پر
 ہتھیار حملہ کیوں کر دیا اور ان کے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟

جب مسیلمہ کو حضرت خالد کی آمد کا حال معلوم ہوا تو
 وہ چالیس ہزار کی عظیم الشان جمعیت لے کر نکلا اور ”عقرباء“
 میں پڑاؤ ڈال دیا - خالد بھی اپنی فوج کے ہمراہ وہیں پہنچ گئے -
 دونوں فوجیں میدان میں نکلیں - حضرت خالد نے میمنہ اور میسرہ
 پر زید بن خطاب اور ابوحنیفہ کو مقرر کیا تھا - خود مقدمہ
 رہے - شرجیل بھی مقدمہ میں تھے - ادھر مسیلمہ کے میمنہ

* الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۴۴ -

† عقرباء، یمامہ کی ایک بستی جو نباج کے راستے میں
 بڑتی ہے، ”العرض“ کے ضلع میں ”قرقری“ کے قریب واقع
 ہے - یہ جگہ یمامہ کی سرحد پر ہے اور یمامہ کا زرخیز علاقہ
 اس کے ورے ہے - مسیلمہ نے یہاں اس لئے پڑاؤ ڈالا تھا تا کہ
 مسلمان یمامہ کی سر زمین کو روند نہ سکیں اور وہ تاخت و تاراج
 ہونے سے بچ سکے (یاقوت جلد ۶ صفحہ ۱۹۴) -

اور میسرہ پر محکم الیامہ* اور الرجال بن عنفوه مقرر تھے۔
الرجال بن عنفوه ہی سب سے پہلے میدان جنگ میں مسلمانوں
مقابلے کے لئے نکلا۔ اسے عبدالرحمان بن ابوبکر نے تیر مار کر
ہلاک کر دیا۔

جنگ شروع ہوئی، رفتہ رفتہ لڑائی میں شدت پیدا ہوتی گئی
دونوں فریقوں میں سے کوئی فریق بھی پیچھے ہٹنے کے لئے تیار
نہ تھا۔ دونوں طرف سے سر دھڑ کی بازی لگی ہوئی تھی۔

حضرت خالد تمام صورت حال پر کڑی نظر رکھ رہے تھے
کچھ دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اگر لڑائی اسی شدت
سے جاری رہی اور بنوحنیفہ اسی طرح بے جگری سے مقابلہ کر
رہے تو سہاجرین اور انصار کو چھوڑ کر دیگر قبائل عرب
جو فوج میں شامل ہیں ہمت ہار بیٹھیں گے جس کا نتیجہ
ہو گا کہ وہ سہاجرین اور انصار کی طاقت کو بھی کم
دیں گے اور اس طرح لشکر کے نظم و ضبط میں سخت خرابی
واقع ہو جائے گا اور شکست یقینی ہو جائے گی۔ اس موقع
انہوں نے اپنی جنگی تدابیر سے کام لیا اور لشکر کو یہ حکم
دیا کہ ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے اور علیحدہ علیحدہ
کر ہی دشمن کا مقابلہ کرے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ
نے کیا کارہائے نمایاں سرانجام دئے۔ اس تدبیر کا خاطر خراب
اثر ہوا۔ ہر قبیلے نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس نے اس
پر بزدلی دکھائی اور فرار اختیار کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے

* الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۳۸ - اسے زید بن خطاب نے

کیا تھا۔ ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۳۵ - فتوح البلدان بلاذری

من کی عزت جاتی رہے گی - چنانچہ مسلمانوں نے دگنی بہادری سے لڑنا شروع کر دیا -

مسلمان بڑی بہادری سے جنگ کر رہے تھے مگر بنو حنیفہ کی جانب سے پیچھے ہٹنے کے آثار مطلق دکھائی نہ دیتے تھے اور وہ بدستور میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے مسلمانوں پر زور دار حملے کر رہے تھے - حضرت خالد نے سوچا کہ جب تک مسیلمہ تل نہ ہو گا بنو حنیفہ کا زور کم نہیں ہو گا - چنانچہ آپ نے سے دعوت مبارزت دی جو اس نے قبول کر لی - آپ آگے بڑھے اور اس کے سامنے بعض ایسی شرائط صلح پیش کرنی شروع کیں جو واسر اس کے حق میں جاتی تھیں - ہر شرط پر مسیلمہ اپنا منہ اس طرح پھیر لیتا تھا گویا وہ خدا سے مشورہ کر رہا ہے - ایک دفعہ جیسے ہی مسیلمہ نے منہ موڑا حضرت خالد اس پر ہپٹ پڑے - مسیلمہ کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر بھاگا اور یب ہی ایک باغ میں گھس گیا - اپنے سردار کو بھاگتے دیکھ کر بنو حنیفہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے بے تماشاً بھاگنا شروع کیا - یہ حالت دیکھ کر محکم الیامہ نے پکارنا شروع کیا "اے لوگو! باغ میں داخل ہو جاؤ، اے لوگو! باغ میں داخل ہو جاؤ" - چنانچہ بنو حنیفہ اسی باغ میں داخل ہونے لگے اور جب سب داخل ہو گئے تو اندر سے دروازہ بند کر دیا گیا -

لڑائی کا یہ انجام مسلمانوں کو پسند نہیں تھا - ابھی بنو حنیفہ میں لڑنے کی طاقت باقی تھی اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ نئے کا بانی مسیلمہ ابھی زندہ موجود تھا - حضرت براء نے مالک نے مسلمانوں سے کہا کہ تم مجھے اٹھا کر باغ کی دیوار کے اندر پھینک دو، میں جا کر دروازہ کھول دوں گا - مسلمان یہ

کس طرح گوارہ کر سکتے تھے کہ وہ اپنے ایک بزرگ صحابی کو
 خود اپنے ہاتھوں سوت کے منہ میں ڈال دیں۔ سب نے ایسا
 کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ
 نہیں پھینکتے تو میں خود جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک جیسے
 لگائی اور دیوار پر پہنچ گئے۔ وہاں سے وہ باغ کے اندر کودے
 اور لڑتے بھڑتے دروازے تک پہنچ گئے اور اسے کھول دیا۔
 مسلمانوں کی فوج تو منتظر کھڑی تھی، فوراً باغ میں داخل
 ہو گئی۔ باغ کے اندر شدید جنگ ہوئی جس میں سیلمہ مار
 گیا*۔ اس کے مارے جانے سے بنو حنیفہ کی ہمت ٹوٹ گئی
 اور وہ پسپا ہونے لگے۔ مسلمانوں نے انہیں ہر چار طرف سے گھیر
 کر قتل کرنا شروع کیا اور ان کی لاشوں سے سارا باغ پھیل
 گیا۔ اس دن لڑائی میں بنو حنیفہ کے اکیس ہزار آدمی مارے
 گئے۔ سات ہزار عقرباء کے میدان جنگ میں قتل ہوئے، سات
 ہزار باغ میں مارے گئے اور سات ہزار بھاگنے کی کوشش میں
 کھیت رہے۔ مسلمان شہداء کی تعداد ایک ہزار تھی جن میں
 کلام اللہ کے حافظ کثرت سے تھے۔ شہداء میں تین سو ساٹھ
 سہاجرین اور انصار بھی تھے †۔

لڑائی شروع ہونے سے پہلے سیلمہ نے قبیلے کے ایک سردار
 بجاعہ بن مرارہ کو ساٹھ آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بنو عامر

* سیلمہ کو وحشی (جبیر بن مطعم کا غلام اور حضور
 حمزہ کا قاتل) اور ایک انصاری نے مل کر قتل کیا تھا (الطبری
 جلد ۳ صفحہ ۲۴۸ - ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۴۷ - فتوح البلدان
 بلاذری صفحہ ۹۵ و ۹۶)۔

† الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۵۲۔

شب خون مارنے کے لئے بھیجا تھا*۔ مجاعہ کا مقابلہ اسلامی لشکر کے مقدمۃ الجیش سے ہو گیا جس میں اس کے تمام ساتھی ل ہو گئے۔ مجاعہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس خیال سے سے امان دے دی گئی تھی کہ ممکن ہے آگے چل کر اس کے ریعے کوئی کام نکل سکے۔ اسے لشکر کے ساتھ بطور یرغمال کہا گیا تھا۔ جب بنو حنیفہ کا استیصال ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو مجاعہ نے موقع پا کر حضرت خالد سے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بنو حنیفہ پر فتح حاصل کر لی ہے۔ یمامہ کے شہر میں ہمارے جنگجوؤں کی ایک بھاری تعداد اسلحہ سے لیس ابھی تک موجود ہے۔ وہ لوگ ہر قیمت پر آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اگر آپ لڑائی سے بچنا چاہتے ہیں تو مجھے کچھ دیر کے لئے شہر میں جانے کی اجازت دے دیجئے کہ میں انہیں صلح لئے ہموار کر سکوں۔ حضرت خالد نے اسے جانے کی اجازت تو مرحمت فرما دی لیکن یہ کہہ دیا کہ صلح میں تمہارے آدمیوں کی جان بخشی کی شرط شامل نہیں ہو گی۔ ان کے متعلق جو فیصلہ ہم مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ جب مجاعہ شہر میں گیا تو اس نے وہاں سوائے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے کسی کو نہ پایا۔ اس نے انہیں زرہ بکتر بنائے اور انہیں سکھا دیا کہ وہ قلعے کی فصیل پر جمع ہو جائیں کہ مسلمان انہیں دیکھ کر دھوکا کھا جائیں اور ہماری طرف سے پیش کردہ شرائط پر صلح کر لیں۔ چنانچہ سب نے ایسا کیا کہ ہتھیار لے کر اور زرہ بکتر پہن کر فصیل پر پہنچ گئے۔ پھر مجاعہ حضرت خالد کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: میری قوم آپ کی شرائط پر صلح کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے

آپ سے جو کچھ عہد و پیمان کیا تھا وہ اسے قبول کرنے کے لئے قطعاً تیار نہیں۔“

حضرت خالد نے جب فصیل کی طرف نظر دوڑائی تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فصیل پر سپاہی ہی سپاہی نظر آتے ہیں جو عسرتاپا لوہے میں غرق ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے چمک رہے ہیں۔ مسلمان جنگ سے اکتا چکے تھے اور ان کی عین خواہش تھی کہ جو فتح انہوں نے بنو حنیفہ پر حاصل کی تھی اسی پر اکتفا کریں اور مزید جنگ و جدل سے پرہیز کریں۔ حضرت خالد نے سوچا کہ اگر دوبارہ جنگ چھڑ گئی تو نہ معلوم کیا انجام ہو اس لئے آپ نے امر بات پر رضامندی ظاہر کر دی کہ نصف مال و اسباب، نصف مزروعہ باغات اور نصف قیدیوں کو بنو حنیفہ کے لئے چھو دیں گے۔ مجاعہ پھر شہر میں گیا اور واپس آ کر حضرت خالد سے کہا کہ وہ لوگ ان شرائط پر بھی صلح کرنے پر رضا مند نہیں ہیں، آپ چوتھائی مال و اسباب لینے پر راضی ہو جائیں۔ حضرت خالد نے یہی منظور کر لیا اور صلح نامہ لکھا گیا۔ صلح کے بعد جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں عورتیں، بچے اور بوڑھے تو ہیں لیکن کسی جوان مرد کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آپ نے مجاعہ سے اس فریب دہی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا ”میری قوم تباہ ہو جاتی، میرا فرض تھا کہ اس کی جان بچاؤں۔“ حضرت خالد نے یہ عذر قبول کر لیا اور صلح کے نامے کو برقرار رکھا۔

کچھ عرصے کے بعد حضرت صدیق کا خط خالد کے پاس پہنچا جس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس قبیلے کے ہر بالغ شخص کو قتل کر دیں۔ لیکن خالد صلح کر چکے تھے اور جب بنو

صلح نامے پر ان کے دستخط ثبت ہو چکے تھے ، اب آپ اسے کس طرح توڑ سکتے تھے ؟ چنانچہ آپ نے حضرت صدیق کو اپنی معذوری سے مطلع کر دیا جسے انہوں نے قبول کر لیا ۔

صلح کے بعد بنو حنیفہ نے اسلام قبول کر لیا ۔ حضرت خالد نے ان کا ایک وفد حضرت صدیق کی خدمت میں روانہ کیا ۔ جب یہ وفد آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا ”آخر کس بات پر تم مسیلمہ کذاب کے فریب میں آگئے“۔ انہوں نے عرض کیا ”اے خلیفہ رسول اللہ ! آپ کو ہمارا سبب حال معلوم ہے ۔ مسیلمہ نے جو پا کھنڈ پھیلا یا تھا اس سے نہ ہی اسے کوئی فائدہ پہنچا اور نہ اس کے خاندان اور قبیلے کو ۔ حضرت صدیق نے بعض آیات جو مسیلمہ کے بیان کے مطابق اس پر نازل ہوئی تھیں ، سننے کی خواہش کی ۔ چنانچہ وفد نے چند ”آیات“ سنائیں ۔ انہیں سن کر حضرت صدیق نے بے حد تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا ”ایسی باتیں تو ایک فاسق و فاجر شخص ہی کی زبان سے نکل سکتی ہیں ۔ آخر تمہاری عقلوں پر کیا پتھر پڑ گئے تھے کہ تم ایسے شخص پر ایمان لے آئے“۔

بنو حنیفہ کے ساتھ جنگ و پیکار کے بیان کے بعد اب ہمیں ان اسباب پر غور کرنا ہے جن کے باعث مسیلمہ کو وہ قوت و طاقت اور ثبات نصیب ہوا جو دوسرے مدعیان نبوت کے حصے میں نہ آیا ۔ ہمارے خیال میں مسیلمہ کی قوت و طاقت کے اسباب مندرجہ ذیل تھے :-

(۱) الرجال کی یہ شہادت کہ اس نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ مسیلمہ کو ان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے ۔ جب بنو یمامہ نے دیکھا کہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا معلم بھی

مسیلمہ کی تصدیق کر رہا ہے تو ان کے پاس شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہی اور وہ کثرت سے مسیلمہ کی پیروی اختیار کرنے لگے۔ بنو حنیفہ کے کئی لوگوں نے صدق دل سے مسیلمہ کی نبوت پر ایمان لاتے ہوئے مسلمانوں سے جنگ کی تھی۔

(۲) بنو حنیفہ اپنے شہروں اور عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر جنگ کرتے تھے۔ چنانچہ جب فریقین میں جنگ چھڑنے کا وقت آیا تو مسیلمہ کذاب کے بیٹے شرحیل نے بنو حنیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ”آج تمہاری غیرت کے امتحان کا دن ہے۔ اگر تم نے شکست کھائی تو تمہاری بیویاں اور بیٹیاں لونڈیاں بنیں گی۔ اپنے حسب و نسب ننگ و ناموس اور بیویوں، بیٹیوں کی حفاظت کی خاطر دشمنوں سے جنگ کرو۔“

(۳) بنو حنیفہ اپنے علاقے اور اس کے راستوں، پہاڑیوں اور گھاٹیوں سے خوب واقف تھے۔ لیکن مسلمان اس علاقے سے بالکل ناواقف تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ فریق جو کسی علاقے کے چپے سے واقف ہو، ناواقف فریق کے مقابلے میں دل جمعی کے ساتھ لڑ سکے گا۔

(۴) عکرمہ کو شکست دینے کے بعد بنو حنیفہ کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے شرحیل کے لشکر کو بھی شکست دے دی تو ان کی قوت، جرأت اور ہمت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور ان میں وہ روح سرایت کر گئی جس کا دوسرے مدعیان نبوت کے پیروکاروں میں نام و نشان تک نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت خالد نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے ان کا اس دلیری اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اگر خدا تعالیٰ کا خاص فضل شامل حال نہ ہوتا تو مسلمانوں کی شکست میں کوئی

کسر نہ رہ گئی تھی -

ان امور کی موجودگی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسیلمہ کی فتح اور کامرانی کے اس قدر اسباب مجتمع ہو گئے تھے ، مزید برآں اس کا لشکر بھی مسلمانوں سے کئی گنا بڑا تھا تو اس کی شکست کی وجوہات کیا تھیں اور وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو کامیاب و کامران ہونے میں مدد دی ؟ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے وہ عوامل مندرجہ ذیل تھے :-

(۱) حضرت خالد کا یہ حکم کہ ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ ہو کر جنگ کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس قبیلے نے زیادہ جوانمردی اور شجاعت سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور کس نے بزدلی دکھائی ۔ اس کارروائی کا فوج کے دل پر بڑا اچھا اثر ہوا اور اہل عرب جنہیں اپنی بزرگی اور شرافت ، بہادری اور شجاعت پر ناز تھا میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی جرأت نہ کر سکے ۔

(۲) لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کر حضرت خالد کا دعوت مبارزت دینا ۔ آپ ایک شیر کی مانند میدان جنگ میں کھڑے تھے ، جو شخص بھی آپ کے مقابلے میں نکلتا تھا زندہ واپس نہ جاسکتا تھا ۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کی ہمتیں بلند ہو گئیں اور ان میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا ۔

(۳) جب مسیلمہ حضرت خالد کے سامنے آیا اور حضرت خالد نے بعض شرائط اس کے سامنے پیش کیں تو مسیلمہ نے اس طرح منہ پھیرا جیسے وہ اللہ سے مشورہ کر رہا ہے ۔ حضرت خالد نے اس موقع کو غنیمت جانا ۔ آپ کو پتہ تھا کہ مسیلمہ ہی لشکر کی جان ہے ، اگر یہ سارا گیا تو لشکر کی ہمت پست

ہو جائے گی۔ اس لئے آپ نے فوراً ہی اس پر حملہ کر دیا۔ مسیلمہ بدحواس ہو کر بھاگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر اس کے سپاہیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھی بھاگنے لگے۔ مسیلمہ پر بے خبری میں حملہ کرنے سے حضرت خالد پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کیونکہ ان دونوں میں اس وقت تک ایک بھی شرط طے نہیں ہوئی تھی اور کسی نے بھی دوسرے کو امان اور جان بخشی کا یقین نہیں دلایا تھا۔

(۴) حضرت خالد کے ساتھ مخلصین کی ایک بھاری تعداد تھی جنہوں نے اپنے آپ کو ہمہ تن خدا کی اطاعت کے لئے وقف کر دیا تھا۔ ان کی نظروں میں موت ایک نہایت حقیر شے تھی۔ وہ نہ صرف خود خدا کی راہ میں جانیں دینے کے لئے بے تاب تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ حذیفہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے۔ یا اهل القرآن زینوا القرآن بالفعال (اے قرآن پر ایمان لانے والو! قرآن کو اپنے کارناموں کے ذریعے زینت دو)۔ زید بن خطاب کہہ رہے تھے "غضوا أبصارکم وعضوا علی أضراسکم ایہا الناس، واضربوا فی عدوکم وامضوا قدما" (اے لوگوں! اپنی نظریں نیچی رکھو اور پیش قدمی کرتے ہوئے دشمنوں کا کام تمام کر دو)۔ ان لوگوں کی بدولت ہی جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے تھے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔

(۵) حضرت صدیق نے سلیط کو کچھ فوج کے ساتھ مسلمانوں کے عقب کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا۔ مسیلمہ کے لشکر سے جنگ کرنے کے دوران میں مسلمانوں کو یہ اطمینان تھا کہ ان کی پشت بالکل محفوظ ہے اور پیچھے سے دشمن ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح ان کی تمام تر توجہ سامنے کی طرف مبذول رہی۔

(۶) بعض لوگوں نے مسیلمہ کی مدد صرف قومی عصبیت کی وجہ سے کی تھی حالانکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ مسیلمہ اپنے دعویٰ نبوت میں سراسر جھوٹا ہے۔ کم از کم انہیں اس بارے میں شک ضرور تھا۔ ان کو متزلزل کرنے، ان کے دلوں میں ہیجان برپا کرنے اور ان کے عزائم میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے یہ شک کافی تھا۔

ان اسباب کے باعث حضرت خالد کے لئے کاسیابی اور کامرانی کی راہ صاف ہو گئی اور مسلمانوں نے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود مسیلمہ کے عظیم الشان لشکر پر فتح حاصل کر لی اور مسیلمہ کے فتنے کو نابود کر دیا۔

بنو حنیفہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید، یمامہ کی ایک وادی میں، جسے الوبر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے مقیم ہو گئے۔ یہیں آپ کو حضرت صدیق کی طرف سے عراق جانے اور بلاد فارس کو فتح کرنے کا حکم ملا۔

عراق میں حضرت خالد رض کی فتوحات

جنگ ابلہ

۱۱ھ میں جب جزیرہ عرب میں حالات سکون پر آ گئے اور مرتدین کا فتنہ فرو ہو گیا تو مسلمانوں نے اپنی توجہ عراق کی جانب مبذول کی۔ رومی اور ایرانی سلطنتیں رسول اللہ کے وقت سے ہی اسلامی حکومت کو مٹا دینے کی فکر میں تھیں کیونکہ دنیا میں پہلی مرتبہ جزیرہ عرب میں ایک طاقتور اور متحدہ طاقت نشو و نما پا رہی تھی اور یہ امر ان دونوں ہمسایہ سلطنتوں کے لئے سخت تشویش کا باعث تھا۔ اب تک ایرانی اور رومی سلطنتوں کا عرب پر بے حد اثر اور نفوذ تھا اور عرب کی سرحدوں پر جو ایران اور روم سے ملتی تھیں، ان سلطنتوں کی باجگزار اور مطیع ریاستیں قائم تھیں۔ عربوں میں اسلام کے ظہور کے بعد جو تبدیلی رونما ہو چکی تھی اور جس جوش اور ولولے سے وہ نئے نئے عزائم لے کر اٹھے تھے، یہ دونوں سلطنتیں اپنے اپنے لئے موت کے پیغام سے کم نہ سمجھتی تھیں۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد جب ملک عرب میں ارتداد کا فتنہ پھیلا تو ان سلطنتوں نے اس موقع کو اپنے لئے بے حد غنیمت جانا۔ چنانچہ ایک طرف ہرقل کی فوجیں شام میں اور دوسری طرف ایران کی فوجیں عراق میں جمع ہونے لگیں۔

حضرت صدیق بھی ایرانیوں اور رومیوں کے عزائم سے پوری

طرح باخبر تھے۔ آپ نے ان گیارہ لشکروں کی روانگی سے پہلے، جن کا ذکر ابتداء میں آچکا ہے، ایک بہادر، تجربہ کار اور ماہر شخص مثنیٰ بن حارثہ کو عراق کی جانب روانہ فرمایا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ عراق پہنچ جائیں لیکن شامی فوجوں سے لڑائی سول نہ لیں، بلکہ چھاپے مار کر عراقی رئیسوں کو ڈراتے رہیں تاکہ ان کی فوجوں کو عرب پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔

جب ارتداد کا فتنہ ختم ہو گیا تو مثنیٰ بن حارثہ نے حضرت صدیق کو لکھا کہ ان کی مدد کے لئے کچھ فوج روانہ کی جائے۔ سواد عراق کو فتح کرنے اور شاہان کسریٰ کی سلطنت کو ختم کرنے کے عظیم الشان کام کے لئے حضرت صدیق کی نظر انتخاب حضرت خالد بن ولید پر پڑی۔ اس زمانے میں حضرت خالد بنو حنیفہ سے فارغ ہو کر وادی الوبر میں مقیم تھے اور دربار خلافت سے مزید احکام کے منتظر تھے* - ۱۲ محرم ۵۱۱ھ کو دربار خلافت سے انہیں حکم پہنچا کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر زبیرین عراق پہنچیں اور ابلہ کی سرحد سے یلغار شروع کریں۔ دوسری طرف عیاض بن غنم کو جو نجد اور یمامہ کی شورشیں فرو کرنے کے بعد نجد میں ہی مقیم تھے، حکم ملا کہ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ شمالی جانب سے بالائی عراق پر حملہ آور ہوں اور اپنی کاروائی مصیخ† سے شروع کریں۔ خالد اور عیاض، دونوں کو یہ حکم بھی تھا کہ وہ صرف ان مسلمانوں کو ساتھ لیں جنہوں نے ارتداد میں حصہ نہیں لیا، کسی مرتد کو فوج میں شامل نہ کیا جائے،

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۲ - ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۶۱ -

† مصیخ کا شہر حوران اور قلت کے درمیان واقع ہے (معجم البلدان جلد ۸ صفحہ ۷۹)۔

نیز کسی شخص پر جہاد کے سلسلے میں جبر نہ کیا جائے، جو لوگ خوشی سے ان کے ہمراہ عراق جانے پر آمادہ ہوں صرف انہی کو فوج میں شامل کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی لوگوں نے جو خالد اور عیاض کی فوجوں میں شامل تھے پیچھے رہنے کو ترجیح دی۔ اس پر مجبوراً ان دونوں کو حضرت صدیق سے مدد کی درخواست کرنی پڑی۔ چنانچہ آپ نے عبدغوث حمیری کو عیاض بن غنم کی امداد کے لئے اور قعقاع بن عمرو کو خالد کی اعانت کے لئے روانہ فرمایا۔ اس پر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے حضرت صدیق سے عرض کیا کہ کیا آپ ایسے سرداروں کی امداد کے لئے جن کے لشکروں کے اکثر آدمیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے محض ایک ایک آدمی روانہ کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق نے فرمایا ”جس لشکر میں ان جیسے اشخاص شامل ہوں وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا*“۔

حضرت خالد نے عراق روانہ ہونے سے پہلے، اتمام حجت کے لئے ابلہ کی سرحد کے حاکم ہرمز کو ایک تہدیدی خط روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا: اما بعد فاسلم تسلم أ واعتقد لنفسك وقوسك الذمة و اقرر بالجزية و ألافلا تلوسن الانفسك : فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة † (ہرمز کو واضح ہو کہ اگر آپ لوگ سلامتی چاہتے ہیں تو اسلام لے آئیں۔ اگر اسلام نہیں لا سکتے تو اسلامی حکومت کے ماتحت ہو کر رہنے اور جزیہ دینے کا اقرار کریں۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہ ہو گا کیونکہ آپ کے مقابلے کے لئے ایک ایسی قوم آرہی ہے جو موت کو اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا آپ زندگی

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۴ - ابن الاثیر جلد ۲ صفحہ ۲۶۲ -

† الطبری جلد ۴ صفحہ ۵ -

کو پسند کرتے ہیں)۔

حضرت خالد کے ہمراہ دس ہزار فوج تھی۔ عراق پہنچ کر مثنیٰ بن حارثہ بھی آٹھ ہزار فوج کے ہمراہ آپ سے مل گئے*۔

دشمن کے قریب پہنچ کر حضرت خالد نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا† اور ہر حصے کو علیحدہ راستے سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک حصے کا سالار مثنیٰ بن حارثہ کو بنایا، دوسرے حصے کی سرداری عدی بن حاتم کو دی اور تیسرے حصے کو اپنے ماتحت رکھا۔ تینوں حصوں کا مقام اجتماع ”حفیر“ مقرر ہوا چنانچہ ان تینوں حصوں نے دائیں بائیں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر ”حفیر“ کی طرف بڑھنا

* طبری لکھتے ہیں ”جب حضرت خالد کو عراق پہنچنے کا حکم ملا تو آپ نے چار سرداران عساکر: حرملة، سلمیٰ، مثنیٰ بن حارثہ اور مذعور کو لکھا کہ میں اپنے لشکر سمیت ابلہ پہنچ رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے لشکروں کے ہمراہ وہیں پہنچ جائیں۔ حضرت صدیق نے خالد کو جو حکم بھیجا تھا اس میں یہ ہدایت تھی کہ وہ جب عراق میں داخل ہوں تو اپنی کارروائی کا آغاز سندھ اور ہندوستان کی سرحد سے کریں جو ان دنوں ابلہ تھی۔ خالد اپنے ہمراہ دو ہزار فوج لے کر چلے تھے۔ راستے میں انہوں نے ربیعہ اور مضر کے قبائل میں سے آٹھ ہزار فوج اور اکٹھی کی۔ مثنیٰ، مذعور، سلمہ اور حرملة کے ہمراہ آٹھ ہزار فوج تھی۔ اس طرح اسلانی لشکر کی کل تعداد اٹھارہ ہزار ہوگئی۔ اسی اٹھارہ ہزار فوج کے ساتھ حضرت خالد نے ہرمز کا مقابلہ کیا“۔ (الطبری جلد ۳ صفحہ ۵)۔

† ابن الاثیر جلد ۲ صفحہ ۲۶۲۔

شروع کیا۔

جب ہرمز نے حضرت خالد کی آمد کی خبر سنی تو اس نے فوراً شہنشاہ ایران ”اردشیر“ کو مدد بھیجنے کے لئے لکھا اور خود اپنے لشکر کو ہمراہ لے کر کواظم* روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ اسلامی لشکر کا رخ ”حفیر“ کی جانب ہے۔ وہ بلا توقف حفیر† روانہ ہوا اور اسلامی فوج سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کی تنظیم کی۔ مقدسہ پر دو بھائیوں قباد اور انوشیجان کو مقرر کیا جو اردشیر اکبر کی اولاد میں سے تھے۔ لشکر کے ایک حصے نے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ لیا، تاکہ کچھ بھی ہو وہ میدان جنگ میں ہی جمے رہیں اور بھاگ نہ سکیں۔ جب حضرت خالد کو معلوم ہوا کہ ہرمز نے حفیر کا رخ کیا ہے تو انہوں نے فوج کو کاظمہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ہرمز وہاں بھی ان سے پہلے پہنچ گیا اور پانی کے چشمے پر قبضہ کر کے نرم زمین پر ڈیرے ڈال دئے۔ جب حضرت خالد وہاں پہنچے تو انہیں ایسی زمین پر ڈیرے ڈالنے پڑے جہاں پانی نہ تھا۔ جب لوگوں نے اس کی شکایت کی تو آپ نے کہا ”گہراؤ مت۔ فریقین میں

* یہ مقام خلیج فارس کے کنارے بحرین سے بصرہ جانے ہوئے راستے میں پڑتا ہے اور بصرہ سے دو منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں بے شمار کنوئیں ہیں جن کا پانی بے حد میٹھا ہوتا ہے۔ کئی شاعروں نے اس جگہ کی تعریف کی ہے (معجم البلدان جلد ۷ صفحہ ۲۰۸)۔

† حفیر، باہلہ گاؤں کا چشمہ ہے۔ بصرہ سے چار میل کے فاصلے پر واقع ہے (معجم البلدان جلد ۳ صفحہ ۲۰۴)۔

سے جو بہادر ہوں گے وہی پانی پر قبضہ کریں گے *۔“

لڑائی شروع ہوئی اور دونوں طرف کے لوگ میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ لڑائی زور شور سے جاری تھی کہ ہرمز نے اپنے لشکر سے باہر نکل کر خالد کو دعوت مبارزت دی۔ حضرت خالد نے یہ دعوت قبول کر لی اور ہرمز کی طرف بڑھے۔ دونوں میں دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔

ہرمز کا مقصد حضرت خالد کو دعوت مبارزت دینے سے یہ تھا کہ آپ کو نرغے میں میں لے کر شہید کر دیا جائے۔ اس

* بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد نے سب سے پہلے بانقیا، باروسا اور الیس کا قصد کیا تھا لیکن بعض کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ ابلہ تشریف لے گئے۔ ہم نے بوجہ مؤخر الذکر روایت کو ترجیح دی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اکثر مؤرخین آپ کی فوج کشی کی ابتداء ابلہ ہی سے قرار دیتے ہیں۔ دوسرے حضرت صدیق کی اس ہدایت سے کہ ہندوستان کی سرحد سے حملے کا آغاز کیا جائے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی اور ایرانی فوجوں کے درمیان پہلا معرکہ ابلہ کے مقام پر ہی ہوا۔ حضرت صدیق کا حکم یہ تھا ”تم عراق کی طرف کوچ کرو یہاں تک کہ اس کی سر زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اپنا حملہ ہندوستان کی اس سرحد سے شروع کرو جو ابلہ کے قریب ہے...“۔ (الطبری جلد ۴ صفحہ ۲، ۳)۔ جنگی نقطہ نگاہ سے بھی ابلہ سے کارروائی کا آغاز زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ خالد جیسے ماسٹر اور جہاندیدہ شخص سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ وہ ایسے مقامات پر حملہ کریں جہاں ان کے عقب کی حفاظت نہ ہو سکتی (باقی صفحہ ۱۸۸ پر)

نے اپنی فوج کے چیدہ چیدہ بہادروں کو ہدایت کر دی تھی کہ جب خالد اس کے مقابلے پر نکل آئیں تو وہ آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں۔ چنانچہ جب حضرت خالد اس کے مقابلے کے لئے نکلے تو یہ ایرانی بہادر بھی آپ پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھے۔ لیکن اسی اثناء میں آپ نے اپنی تلوار سے ہرمز کا کام تمام کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کا موقع دئے بغیر کہ وہ آپ پر حملہ کر سکیں، اپنے لشکر میں آگئے۔

قعقاع بن عمرو التمیمی نے جب ایرانی سواروں کو بڑھتے دیکھا تو انہوں نے پہلے تو ایک دستہ فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے بعد وہ پورے زور شور سے ایرانی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد انہیں شکست فاش دے دی۔ چنانچہ رات تک تمام میدان بالکل صاف ہو گیا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۷)

ہو اور جہاں وہ بڑی آسانی سے دشمنوں کے نرغے میں آسکتے ہوں۔ اگر آپ بانقیا سے جنگی کارروائی کا آغاز کرتے تو ہرمز جیسا پھرتیلا اور چست و چالاک شخص ضرور مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر کے انہیں سخت نقصان پہنچاتا۔ اول الذکر مؤرخین کو اس روایت سے دھوکا لگا ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ ابلہ حضرت عمر فاروق کے عہد میں عتبہ بن غزوان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے تب بھی ہمارے موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ ابلہ پورے طور پر اسلامی فوجوں کے قبضے میں حضرت عمر کے عہد میں ہی آیا ہو۔ ہماری رائے کی تائید بلاذری بھی کرتے ہیں (فتوح البلدان بلاذری صفحہ ۲۵۰)۔

لڑائی کے بعد حضرت خالد نے کوچ کا حکم دیا اور تمام فوج اور اسباب کے ساتھ اُس جگہ پر آئے جہاں اب بصرہ آباد ہے۔ یہاں آپ نے قیام کیا۔ مثنیٰ بن حارثہ کو سفور ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا اور معقل بن مقرن المزنی کو ابلہ بھیجا جہاں انہوں نے سال غنیمت اور قیدی اکٹھے کئے۔ آپ نے مال غنیمت کا پانچواں حصہ مژدہ فتح کے ساتھ حضرت صدیق کی خدمت میں روانہ کیا اور باقی حصہ فوج میں تقسیم کر دیا۔ حضرت صدیق نے ہرمز کی ٹوپی حضرت خالد کو مرحمت فرمائی۔ یہ ٹوپی جواہرات سے مزین تھی اور اس کی قیمت ایک لاکھ درہم تھی۔

جنگ مذار (الثنی)

جب خالد کے حملے کے متعلق ہرمز کا خط دربار ایران میں تمہنشاہ اردشیر کے پاس پہنچا تو اس نے قارن بن قریانس کو ایک زبردست لشکر دے کر ہرمز کی امداد کے لئے بھیجا۔ قارن مدائن سے چل کر مذار* پہنچا تو وہاں اسے ہرمز کا ہزیمت خوردہ لشکر ملا۔ باہم مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ اگر اس وقت ایرانی جمعیت منتشر ہو گئی تو آئندہ کبھی مجتمع نہیں ہو سکے گی۔ اس لئے یہاں مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ لشکر نے مذار کے قریب نہر ثنی کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا اور قارن نے اسے منظم کرنا شروع کیا۔ اردشیر کے بیٹے،

* مذار، ایک بہت بڑا شہر تھا جو علاقہ سیسان کا صدر مقام تھا۔ یہ شہر واسط اور بصرہ کے درمیان واقع تھا۔ یہاں حضرت علی کے صاحب زادے حضرت عبداللہ کا مزار بھی تھا۔ (معجم البلدان جلد ۷ صفحہ ۴۳۳)۔

قباذ اور انوشجان جو جنگ ابلہ میں شریک تھے، بچ کر نکل آئے تھے۔ قارن نے انہیں میسرہ اور میمنہ کی کمان سونپ دی۔

جب حضرت خالد کو قارن کے آنے اور مذار میں جنگی تیاریاں کرنے کی خبر ملی تو آپ بھی فوج کو لے کر مذار روانہ ہوئے اور نہر کے دوسرے کنارے پر رک کر اپنی فوج کی تنظیم و ترتیب اور صف بندی میں مشغول ہو گئے۔

جب ہر طرح تیاری مکمل ہو چکی تو جنگ شروع ہوئی۔ ایرانی فوج کا سردار قارن میدان میں نکلا اور دعوت مبارزت دی۔ ادھر سے حضرت خالد اور معقل بن اعشی اس کے مقابلے کے لئے نکلے۔ معقل بن اعشی اس کے پاس حضرت خالد سے پہلے پہنچ گئے اور تلوار کے ایک دو واروں ہی میں اس کا کام تمام کر دیا*۔ اپنے سردار کا یہ انجام دیکھ کر قباذ اور انوشجان میدان میں نکلے۔ لیکن ان دونوں کا بھی وہی انجام ہوا جو ان کے سردار قارن کا ہوا تھا۔ قباذ کو عدی بن حاتم نے اور انوشجان کو عاصم بن عمرو نے جہنم واصل کیا۔

اپنے بڑے بڑے بہادروں اور سالاران فوج کو اس بری طرح قتل ہوتے دیکھ کر ایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے اور اس میں شکست کے آثار پیدا ہونے لگے۔ مسلمانوں نے اس صورت حال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ایرانی فوج کو گھیر کر قتل کرنا شروع کیا۔ تیس ہزار ایرانی اس دن میدان جنگ میں کھیت رہے۔ اگر ایرانی فوج کا بیشتر حصہ کشتیوں میں سوار

* قارن، دربار ایران کا بہت بڑا اور انتہائی معزز سردار تھا۔ اس کے بعد عجمیوں کا کوئی اور اتنا عظیم المرتبت سردار مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آسکا (الطبری جلد ۴ صفحہ ۷)۔

ہو کر نہر کے پار نہ اتر جاتا یا بیچ میں نہر حائل نہ ہوتی تو اس دن ایک ایرانی کا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں بچنا محال تھا۔

اس جنگ میں مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ ایک ایک سوار کے حصے تیس تیس ہزار درہم آئے۔ فتح کے بعد حضرت خالد نے مذار ہی میں قیام کیا اور غنیمت تقسیم کی۔ غنیمت کا پانچواں حصہ فتح کی خوش خبری کے ساتھ سعید بن نعان کے ہاتھ حضرت صدیق کی خدمت میں روانہ کیا۔ ان ابتدائی امور سے فراغت حاصل کر کے آپ نے مفتوحہ علاقے کے بندوبست کی طرف توجہ فرمائی۔ علاقے کے تمام لوگ ذمی قرار پائے اور ان پر جزیہ لگایا گیا۔

جنگ ولجہ*

جب اردشیر کو مذار میں ایرانی فوج کی حسرتناک شکست کی خبر موصول ہوئی تو اس کی بے چینی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دربار ایران کے ایک اور بڑے سردار اندرزغر کو ایک بھاری لشکر دے کر مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لئے روانہ کیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اندرزغر کے روانہ ہونے کے بعد بہمن جاذویہ کی سرکردگی میں ایک اور لشکر بھی

* ولجہ کا شہر، کسکر کے اس علاقے میں واقع ہے جو صحرا سے ملحق ہے (معجم البلدان جلد ۸ صفحہ ۴۳۳)۔ جنگ ولجہ ماہ صفر میں ہوئی۔

بھیجا۔ اندرزغر مدائن* سے چل کر کسکر† پہنچا اور وہاں سے ولجہ روانہ ہو گیا۔ بہمن جاذویہ اپنی فوج کو لے کر وسط سواد سے گزرا اور حیرہ اور کسکر کے درمیان جتنے عربی النسل عیسائی باشندے اور کاشت کار (دہاقین) ملے سب کو اپنے ساتھ لے کر ولجہ پہنچ گیا۔ اس طرح اندرزغر کے پاس ایک عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا۔ وہ اپنے لشکر کی کثرت پر پھولا نہ سہاتا تھا۔

جب خالد کو، جو ابھی تک میں مذار ہی میں قیام پذیر تھے، اندرزغر کے ایرانی لشکر کی آمد اور ولجہ میں اس کے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی تو انہوں نے سوید بن مقرن کو لشکر کے عقب کی حفاظت اور مفتوحہ علاقے کی نگرانی کے لئے مذار میں چھوڑا اور خود اپنے لشکر کو لے کر ولجہ کی جانب روانہ ہوئے۔ قریب پہنچ کر اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو تو انہوں نے دشمن کے مقابلے کے لئے رکھا اور دو حصوں کو قریب کی نشیبی زمین میں چھپا دیا تاکہ بوقت ضرورت ان سے کام لیا جاسکے۔ ان دو حصوں کی کان آپ نے بسر بن ابی رهم اور سعید بن صرہ کے سپرد کی۔

صف بندی کے بعد دونوں لشکروں میں جنگ چھڑ گئی۔ دیر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ جب حضرت خالد نے دیکھا کہ ایرانی فوج میں تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ

* مدائن، شاہان کسریٰ کا صدر مقام تھا۔

† کسکر، ایک وسیع علاقے کا نام ہے جس کا صدر مقام واسط ہے۔ واسط کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ کوفہ اور بصرہ سے بالکل مساوی فاصلے (تقریباً پچاس فرسخ) پر واقع ہے (معجم البلدان جلد ۷ صفحہ ۲۵۱)۔

نے اپنی اس فوج کو ، جو کمین گاہوں میں چھپی ہوئی تھی ، میدان جنگ میں پہنچ جانے کا حکم دیا ۔ حکم کی دیر تھی کہ وج میدان جنگ میں پہنچ گئی اور ایرانیوں پر زور شور سے حملہ کر دیا ۔ ایرانی اس نئی مصیبت کو دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور بوصلہ ہار بیٹھے ۔ حضرت خالد کے دستے نے سامنے سے اور کمین گاہوں میں چھپے ہوئے دستوں نے پیچھے سے ایرانیوں کو بھیر کر قتل کرنا شروع کیا ۔ اندرزغر شکست کھا کر بری رح بھاگا اور پیاس کے مارے ، صحراء میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر گیا ۔ فتح کے بعد حضرت خالد نے علاقے کے کاشتکاروں سے کوئی تعرض نہ کیا ، ان سے صرف جزیے کا مطالبہ کیا جسے انہوں نے قبول کر لیا اور واپس اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے ۔

اس جنگ میں قبیلہ بکر بن وائل کے کئی عربی النسل عیسائی ہی مارے گئے تھے جن میں ان کے دو ناسور سرداروں ، جابر بن بحیر اور عبد الاسود عجلی کے بیٹے بھی تھے ۔ اس واقعے نے عربی النسل عیسائیوں کو آتش زیرپا کر دیا ۔ انہوں نے طیش میں آکر مسلمانوں سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور دربار ایران سے مدد کے لئے درخواست کی ۔

جنگ الیس*

عرب عیسائیوں نے اپنا سردار بنو عجلان کے ایک شخص عبد الاسود عجلی کو بنایا تھا ۔ دربار ایران سے بہمن جاذویہ کو حکم ملا کہ وہ ایرانیوں کی بھاری جمعیت کے ساتھ

* الیس ، کوفہ کے قریب عراقی سرحد پر ایک گاؤں کا نام ہے (معجم البلدان جلد اول صفحہ ۳۲۸) ۔

عیسائیوں کی مدد کو پہنچے۔ چنانچہ وہ فوج لے کر آلیس کی جانب بڑھا اور اپنی فوج وہاں کے حاکم جابان کے سپرد کر کے اسے یہ ہدایت کی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی واپس تک جنگ کا آغاز نہ کیا جائے اور خود شہنشاہ سے مشورے کے لئے سدائن روانہ ہو گیا۔

جب حضرت خالد کو یہ خبر ملی کہ بنو عجل، بنو تیم، بنو ضبیعہ اور دیگر عربی النسل عیسائی ان کے مقابلے کے لئے آلیس میں جمع ہو رہے ہیں تو وہ بھی اپنی فوج کو لے کر ان کے مقابلے کے لئے روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ عیسائیوں کی مدد کے لئے جابان کی سرکردگی میں ایرانیوں کا لشکر بھی ان کے مقابلے کے لئے موجود ہے۔ آپ نے آتے ہی عیسائیوں سے لڑائی چھیڑ دی۔ چون کہ عیسائیوں کو یہ یقین تھا کہ جابان کی فوج ان کی مدد کے لئے تیار ہے اور بہمن جاذویہ بھی ایک بھاری جمعیت کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچنے والا ہے اس لئے وہ نہایت دلجمعی سے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ کچھ دن تو وہ نہایت پامردی سے مقابلے میں جمے رہے لیکن جب مسلمانوں کا دباؤ بے حد بڑھ گیا تو انہوں نے اپنی مدد کے لئے جابان کی فوج کی طرف نظر کی۔ لیکن جابان کی فوج اپنے سردار کی ہدایت کے بموجب، کہ جب تک بہمن واپس نہ پہنچ جائے وہ لڑائی میں شرکت نہ کریں، نہایت اطمینان سے دستر خوان کھول کھانا کھانے میں مشغول تھی اور لڑائی کی طرف اس کی توجہ نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عیسائی فوج گھبرا گئی حضرت خالد کی دوربین نظر نے صورت حال کا جائزہ لے لیا اور موقع غنیمت جان کر نہایت جوش و خروش سے بھرپور حملہ کر دیا۔ عیسائی اس حملے کی تاب نہ لاسکے اور بری طرح

سپا ہونے لگے۔ حضرت خالد نے یہ دیکھ کر حکم دیا کہ
 سمنوں کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا
 گرفتار شدگان کو شہر کے کنارے کھڑا کر کے قتل کر دیا
 گیا۔ اس معرکے میں ستر ہزار عیسائی اور ایرانی قتل ہوئے اور تمام
 خون سے بھر گئی۔ لڑائی کے بعد حضرت خالد نے مژدہ فتح
 کے ساتھ غنیمت کا پانچواں حصہ حضرت صدیق کی خدمت میں
 بیچ دیا۔ ساتھ ہی بنو عجلان کے ایک شخص ”جندل“ کو
 ہی روانہ فرمایا تاکہ اس شخص کی زبانی حضرت صدیق کو
 تمام کارناموں کی مصدقہ اطلاع مل سکے جو آپ نے میدان
 جنگ میں انجام دئے تھے۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ مندرجہ بالا تمام لڑائیاں صفر ۱۲ ھ
 میں ہوئیں، سوائے جنگ ابلہ کے جو محرم ۱۲ ھ میں ہوئی تھی۔

فتح اُمَیْشِیَا

الیس کے معرکے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد
 اُمَیْشِیَا کی جانب بڑھے۔ وہاں کے باشندے خالد کی آمد کی خبر
 من کر بھاگ گئے اور جدھر جس کا سینگ سایا چل دیا۔
 خالد نے اُمَیْشِیَا پہنچ کر اسے اور ان تمام بستیوں کو جو اس نے
 ارد گرد تھیں، سہار کرنے کا حکم دیا۔ اُمَیْشِیَا کا شہر حیرہ کے
 ہم پلہ تھا اور الیس کے قریب واقع تھا۔ اس شہر سے مسلمانوں
 کو اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ جنگ ذات السلاسل (ابلہ)
 کے بعد حاصل نہیں ہوا تھا۔ مال غنیمت میں ہر سوار کو
 پندرہ سو درہم ملے۔ دیگر فوجیوں کو جو حصے ملے وہ اس کے
 علاوہ ہیں۔ جب مال غنیمت کا پانچواں حصہ، فتح کی خوشخبری

اور خالد کے عظیم الشان کارناموں کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچی تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور آپ نے فرمایا "اے معشر قریش! تمہارے شیر نے ایک شیر پر حملہ کر دیا اس کے بھٹ میں گھس کر اس کو مغلوب کر لیا۔ اب عورت خالد جیسا بہادر پیدا کرنے سے عاجز ہیں*"۔

حضرت ابوبکر صدیق کے اس قول سے اس قدر و منزلت پتہ چلتا ہے جو آپ کے دل میں حضرت خالد کی تھی۔ اس قول سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ خالد کو اپنے فن بیان یگانہ روزگار سمجھتے تھے۔ اُسغیشیا کی فتح کو دراصل حیرت کی تسخیر کی ابتدا سمجھنا چاہئے۔

جنگِ حیرہ†

اُسغیشیا کے بالکل قریب حیرہ کا شہر تھا۔ وہاں کے حاکم (مرزبان) اراذبہ کو جب حضرت خالد کی عظیم الشان فتوحات کا حال معلوم ہوا جو انہیں اُلیس اور اُسغیشیا میں حاصل ہوئے تھے، تو اس نے سوچا کہ اب اس کی باری ہے۔ خالد ایسے کسی طرح نہیں چھوڑیں گے۔ اس متوقع خطرے کے پیش نظر اس نے جنگ کی تیاریاں کرنی شروع کیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنے لڑکے کو اسلامی فوجوں کا راستہ روکنے کے لئے روانہ کیا اور خود بھی شہر سے نکل کر باہر ڈیرے لگا دئے۔ اس کے

* الطبری جلد ۳، صفحہ ۱۱۔

† کوفہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک شہر۔ حیرہ کے قریب بجانب مشرق ایک میل کے فاصلے پر شاہ نعان کا مشہور محل و معروف محل خورنق بنا ہوا تھا (معجم البلدان جلد ۳ صفحہ ۲۷۶)۔

لے نے اس کے حکم کے مطابق دریائے فرات پر بند باندھ کر
کا پانی روک لیا اور سارا پانی دریا سے نکلنے والی نہروں
ن چھوڑ دیا۔

حضرت خالد اراذہ کی فوج کشی کا حال سن کر اُسغیشیا
چلے۔ دریائے فرات پر پہنچ کر تمام اسلامی فوج کشتیوں
سوار ہوئی اور تمام سامان حرب اور غنیمتیں، جو انہیں پچھلی
گوں میں حاصل ہوئی تھیں، کشتیوں میں بھر لیں۔ اسی اثناء
ایرانیوں نے دریائے فرات کا رخ تبدیل کر دیا اور مسلمانوں
کشتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں۔ حضرت خالد نے یہ
کھ کر کشتیوں کو ساز و سامان سمیت وہیں چھوڑا اور خود
ج کولے کر نہایت پھرتی سے اراذہ کے بیٹے کی طرف بڑھے
دریائے فرات کے دہانے پر کھڑا پانی کا رخ تبدیل کرنے کے
کی نگرانی کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے پہنچتے ہی اس پر اور
کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ابن اراذہ اس ناگہانی حملے
لئے قطعاً تیار نہ تھا۔ اسے وہم بھی نہ تھا کہ مسلمان
یکایک اس تک پہنچ جائیں گے حملہ اس قدر اچانک ہوا
کہ ابن اراذہ اور اس کی فوج کا کوئی شخص زندہ بچ کر نہ
سکا۔ سب وہیں ڈھیر کر دئے گئے اور مسلمانوں نے دریائے
ات کا بند توڑ کر پانی کو دوبارہ جاری کر دیا۔

اسی دوران میں شہنشاہ اردشیر کا انتقال ہو گیا۔ اراذہ
کم حیرہ کو اپنے بیٹے کے قتل اور اردشیر کی وفات کی خبر
ک ساتھ ملی۔ اس نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ
حضرت خالد کے آنے سے پیشتر بھاگ جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا
کیا۔ ادھر حضرت خالد اپنی فوج کو لے کر حیرہ کی جانب
بے اور خورنق سے آگے گزر کر عزیزین اور قصر ابیض (وہ جگہ

جہاں اراذبہ نے پڑاؤ ڈالا تھا) کے درمیان ڈیرے ڈال دئے
 اہالیان حیرہ اپنے قلعوں اور محلات میں بند ہو کر بیٹھ گئے
 حضرت خالد نے ان قلعوں کا سختی سے محاصرہ کر لیا*۔ جب
 لوگ کسی طرح صلح کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، تو حضرت خالد
 نے انہیں کہلائے بھیجا کہ اگر ایک دن کے اندر اندر انہوں
 اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے نہ کیا تو ان کے خلاف شدید
 کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ان لوگوں نے بجائے صلح کی با
 چیت کرنے کے اسلامی فوجوں پر سنگ باری شروع کر دی
 مسلمانوں نے بھی جواب میں ایرانیوں پر تیروں کی بوچھاڑ کر
 شروع کی۔ سب سے پہلے ضرار بن الازدر نے لڑائی شروع کی
 ان کے بعد باقی سرداروں نے بھی ان کی پیروی اختیار کی
 تیروں کی بوچھاڑ سے ایرانیوں کے بے شمار آدمی ہلاک ہو گئے
 یہ صورت حال دیکھ کر اہل حیرہ بہت گھبرائے۔ شہر
 پادریوں اور راہبوں نے ایرانیوں کے سرداروں سے فریاد کی
 اس خون ریزی کی ساری کی ساری ذمہ داری تم پر ہے،
 کے لئے سنگ باری بند کر دو اور لوگوں کو اس مصیبت
 نجات دلاؤ۔ ناچار قلعوں اور محلات کے سرداروں نے صلح

* قصر ابیض کے محاصرے کا انتظام ضرار بن الازدر کے سپرد
 تھا۔ اس قلعے میں ایاس بن قبیصۃ الطائی اپنی فوج کو لئے ہوئے
 موجود تھا۔ قصر العدسین کا محاصرہ ضرار بن خطاب نے کر
 تھا۔ اس میں عدی بن عدی موجود تھا۔ قصر بنی مازن کا محاصرہ
 ضرار بن مقرن المزنی کے سپرد تھا۔ اس میں ابن ابدال اپنی جمع
 کے ساتھ موجود تھا۔ قصر ابن بقیلہ کا محاصرہ سثلی بن حارث
 نے کیا ہوا تھا۔ اس میں عمرو بن عبدالمسیح محصور
 (الطبری جلد ۴ صفحہ ۱۲)۔

سادگی ظاہر کی۔ انہوں نے اسلامی فوج کے سرداروں کو کہلا ہیجا کہ ہم آپ کی پیش کردہ تین باتوں میں سے ایک بات بول کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس لئے براہ کرم لڑائی بند کر دیں اور اپنے سپہ سالار کو اس کی اطلاع دے دیں۔ چنانچہ لڑائی بند کر دی گئی۔

اپنے وعدے کے مطابق سرداران حیرہ، ایاس بن قبیصہ طائی، ندی بن عدی، ابن اکال اور عمرو بن عبد المسیح اپنے اپنے لعوں سے نکل کر معززین شہر کے ہمراہ اسلامی فوج کے سرداروں کے پاس پہنچے، جنہوں نے انہیں حضرت خالد کے پاس وائہ کر دیا۔ حضرت خالد باری باری ہر قلعے کے لوگوں سے ملے اور انہیں ملامت کرتے ہوئے فرمایا ”تم پر افسوس! تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ کر ہم سے مقابلہ کیا؟ اگر تم رب ہو تو کس چیز نے تمہیں اپنے ہی ہم قوم لوگوں کا مقابلہ کرنے پر ابھارا؟ اور اگر عجمی ہو تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جیت جاؤ گے جو بدل و انصاف کرنے میں اپنی نظیر نہیں رکھتی؟ اس کے بعد پ نے انہیں فرمایا: ہم تمہارے سامنے تین باتیں پیش کرتے ہیں۔ ن میں سے تمہیں ایک نہ ایک بات قبول کرنی ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ بات قبول نہیں کر سکتے تو جزیہ ادا کرنے کا اقرار کرو۔ اگر یہ دونوں باتیں ناقابل قبول ہیں تو پھر دو بدو لڑائی کے لئے تیار ہو

* حضرت خالد کے یہ الفاظ ان کی بے نظیر سیاست پر دلالت کرتے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد بے مثل سپہ سالار ہونے کے ساتھ باہر سیاست دان بھی تھے۔

جاؤ۔ کیوں کہ ہم تمہارے مقابلے کے لئے ایک ایسی فوج کو اپنے ہمراہ لائے ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی تم زندگی کے۔ مذکورہ سرداروں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ جزیہ پر اہل حیرہ سے صلح ہو گئی۔ حضرت خالد نے صلح نامہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ صلح نامہ کی عبارت مندرجہ ذیل ہے :

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ عہد نامہ ہے جو خالد بن ولید نے سرداران حیرہ، عدی بن عدی، عمرو بن عبد المسیح ایاس بن قبیصہ اور حیری بن اُکال سے کیا ہے۔ اہل حیرہ اس عہد نامے کو قبول کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کے لئے مجاز گر دانا ہے۔ عہد نامے کے مطابق اہل حیرہ کو ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ جزیہ ان کے قسیسین (پادریوں) اور راہبوں سے بھرا لینا جائے گا۔ البتہ محتاجوں، اپاہجوں اور تارک الدنیا راہبوں کو معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدہ ادا کیا جاتا رہا تو اہل حیرہ کی حفاظت کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔ اگر حفاظت کرنے میں ناکام رہے تو جزیہ نہ لیا جائے گا، اگر قویا یا فعل کے ذریعے بد عہدی کی گئی تو یہ ذمہ درای ختم سمجھا جائے گی۔“ یہ معاہدہ ماہ ربیع الاول ۱۲ھ میں لکھا گیا۔

اہل حیرہ نے جزیے کے علاوہ حضرت خالد کو کچھ تحفے بھی دئے، جو آپ نے سال غنیمت کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں بھیج دئے۔ آپ نے حضرت خالد کو کہلا بھیجا کہ اگر یہ تحفے جزیے میں شامل ہیں تو خیر، ورنہ انہیں

* الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۴ -

زے کی رقم میں شامل کر کے باقی رقم اہل حیرہ کو واپس کر دو۔

ان واقعات کے ضمن میں ایک پر لطف واقعے کا ذکر کرنا چسپی سے خالی نہ ہوگا۔ شوہل نامی ایک شخص نے رسول اللہ زبان مبارک سے مسلمانوں کو حیرہ کی فتح کی خوشخبری بتے سنا۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ حیرہ فتح ہونے مجھے کرامہ بنت عبدالمسیح عطا کر دی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر حیرہ لڑائی کے بعد فتح ہو گیا تو تمہاری یہ واہش پوری کر دی جائے گی۔ جب حضرت خالد نے حیرہ فتح کر لیا اور اس کے سرداروں کو صلح نانے کی تکمیل کے لئے پاس بلایا تو شوہل نے آپ کو رسول اللہ کا وعدہ یاد لایا۔ کچھ لوگوں نے گواہی بھی دی کہ واقعی رسول اللہ نے اس سے وعدہ فرمایا تھا کہ کرامہ تمہاری ہے۔ چنانچہ حضرت خالد نے صلح کی شرائط میں یہ شرط بھی پیش کی کہ کرامہ، شوہل کے حوالے کر دی جائے۔ کرامہ کے خاندان پر باقی قوم کو یہ شرط بڑی گراں گزری۔ لیکن کرامہ نے اس سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اور صبر سے کام لو۔ جس ورت کی عمر اسی سال کی ہو چکی ہے اس کے متعلق تمہیں کیا خوف ہے۔ اس احمق نے مجھے سیری جوانی میں دیکھا تھا اور اس کا خیال ہے کہ جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ چنانچہ کرامہ نے کہنے پر اس کے رشتہ داروں نے اسے حضرت خالد کے پاس بچا دیا۔ حضرت خالد نے اسے شوہل کے حوالے کر دیا۔ کرامہ نے شوہل سے کہا کہ ایک بڑھیا تمہارے کس کام سے کہتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے ہا کر دو۔ شوہل نے کہا اچھی بات ہے۔ لیکن رقم معین

کرنے کا اختیار مجھے ہوگا۔ جتنی رقم میں چاہوں گا معین کروں گا۔ کرامہ نے یہ بات منظور کر لی۔ شویل نے کہا کہ میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں اگر تم سے ایک ہزار درہم سے کم وصول کروں۔ کرامہ نے شویل کو دھوکا دینے کے لئے کہا یہ رقم تو بہت زیادہ ہے تاہم میں اپنے رشتہ داروں کو کہلواتی ہوں شاید وہ اس رقم کا انتظام کر سکیں۔ چنانچہ اس نے اپنے رشتہ داروں کے پاس پیغام بھیجا کہ شویل ایک ہزار درہم لے کر مجھے رہا کرنے کو تیار ہے۔ یہ رقم بھیج کر مجھے رہا کرا لو۔ انہوں نے فوراً ایک ہزار درہم بھیج دئے اور کرامہ کو رہا کرا لیا۔ جب لوگوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے شویل کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ کہنے لگا مجھے کیا پتہ۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ایک ہزار سے اوپر کوئی عدد ہوتا ہی نہیں۔ وہ حضرت خالد کے پاس آیا اور سارا ماجرا آپ سے عرض کیا، کہ کس طرح لاعلمی میں اس نے ایک ہزار درہم کے بدلے کرامہ کو رہا کر دیا اور اب اسے معلوم ہوا ہے کہ عدد ایک ہزار سے اوپر بھی ہوتا ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا ”تم کچھ چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چاہا۔ ہم تو ظاہر پر عمل کریں گے۔ تم جانو کہ ان تمہاری نیت جانے۔ خواہ تم نے لاعلمی میں یہ بات کہی یا جان بوجھ کر، اب ہم اپنے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے“۔*

اہل حیرہ سے صلح ہو جانے کے بعد دیرناطف کے پادری کا نمائندہ صلوبا بن نسطونا حضرت خالد کی خدمت میں حاضر

ہوا اور آپ سے بانقیا اور باروسا کے قصبہات کے متعلق مصالحت*
 ی۔ اس نے ان دونوں قصبوں اور آن کی آس ساری اراضی کے
 گان کی ذمہ داری قبول کر لی ، جو دریائے فرات کے کنارے
 واقع تھی۔ کسری کے سوتیوں کے علاوہ اس نے اپنی ذات ،
 باندان اور قوم کی طرف سے دس ہزار دینار دینے کا وعدہ
 کیا۔ چنانچہ باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا ، جو حسب ذیل ہے :

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معاہدہ خالد بن ولید کی طرف
 سے صلوبا بن نسطونا اور اس کی قوم کے لئے لکھا جاتا ہے۔
 اس معاہدے کے مطابق تم سے دس ہزار درہم سالانہ جزیہ
 وصول کیا جائے گا۔ کسری کے سوتی اس کے علاوہ ہوں گے۔
 رقم مستطیع اور کہانے والے افراد سے ان کی آمدنی اور حیثیت
 کے موافق سالانہ وصول کی جائے گی۔ اس جزیے کے بدلے مسلمانوں
 کی طرف سے بانقیا اور باروسا کی بستیوں کی حفاظت کی جائے گی۔
 ہمیں اپنی قوم کا نقیب مقرر کیا جاتا ہے ، جسے تمہاری قوم

* یاقوت ، معجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے
 قاعدہ حضرت خالد کا مقابلہ کیا تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا
 کہ ان میں لڑنے کی طاقت نہیں تو مجبوراً صلح کی پیش کش کی۔
 رار بن الازور نے اس واقعے کے متعلق ایک شعر بھی کہا :

أرقت ببانقیا ومن یلق مثل ما
 لقی ببانقیا من الحرب یأرق

(سیری نیند اچاٹ ہو گئی اور جو بھی شخص ان جیسے
 حالات کو دیکھے گا جو میں نے بانقیا میں دیکھے اس کی نیند
 ناٹ ہو جائے گی)۔ بانقیا کوفہ کے نواح میں ایک قصبہ ہے۔
 معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۵۰۔

قبول کرتی ہے۔ اس معاہدے پر میں اور میرے ساتھ کے سب مسلمان رضا مند ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح تمہاری قوم بھی اس پر رضا مند ہے اور اسے قبول کرتی ہے۔ آج سے تمہاری حفاظت میں داخل ہو، ہم پر تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ ہم اسی صورت میں جزیہ لینے کے حق دار ہوں گے کہ تمہاری حفاظت سے عہدہ برا ہوں۔ اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کر سکیں تو جزیے کے حق دار نہ ہوں گے۔ اس معاہدے کے گواہ اور دستخط کرنے والے ہشام بن ولید، قعقاع بن عمرو جریر بن عبداللہ الحمیری اور حنظلہ بن ربیع ہیں اور یہ صفر ۱۲ھ میں لکھا گیا۔*

عراق کے زمیندار اس انتظار میں تھے کہ اہل حیرہ کے ساتھ کیا وقوع میں آتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل حیرہ نے حضرت خالد کی اطاعت قبول کر لی اور جزیہ دینے کا اقرار کر لیا تو وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصالحت کی درخواست کی۔

فلالیج سے ہرمز جرد تک کے علاقے کے لٹے بیس لاکھ درہم پر مصالحت ہوئی۔†۔ مصالحت میں یہ بھی طے پایا کہ آل کسریٰ کی تمام املاک مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی۔ جو لوگ وطن چھو

* (الطبری جلد ۳ صفحہ ۱۶)۔

† وہ علاقہ جو زیرین فرات کی دو شاخوں کے درمیان واقع تھا اور جن کے مشرق میں نہر سورا اور مغرب میں دریا کا اصلی دھارا تھا، بالائی اور زیرین قلوچہ کے علاقے کہلاتے تھے۔ ان کے جنوب میں فرات کا اصلی دھارا القنطرہ کے شہر کے پاس ہے

(باقی صفحہ ۲۰۵ پر)

کر ان کے ساتھ چلے گئے ، وہ اس مصالحت سے بخارج ہوں گے اور ان کی املاک بھی مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی ۔ ان لوگوں کے لئے جو صلح نامہ لکھا گیا ، وہ ذیل میں درج ہے :

”بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔ یہ وہ عہد نامہ ہے جو خالد بن ولید کی طرف سے زاد بن بہیش اور صلوبا بن نسطونا سے کیا گیا ۔ اس عہد نامے کی رو سے تم پر جزیہ عائد کیا جاتا ہے ۔ اس کے بدلے ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کے ذمے دار ہوں گے ۔ تمہیں بہقباد زبیریں اور بہقباد اوسط کے باشندوں کا نقیب بنایا جاتا ہے ۔ ان لوگوں سے بیس لاکھ درہم سالانہ جزیہ وصول کیا جائے گا جس کی وصولی کے ذمے دار تم ہو گے ۔ یہ جزیہ مستطیع اور صاحب مقدرت لوگوں سے لیا جائے گا ۔ بانقیہ اور جاروسا کے محاصل کی رقم اس جزیے کے علاوہ ہے ۔ آل کسری اور جو لوگ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کی املاک کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ۔ ان کی املاک مسلمانوں کی ملک ہوں گی ۔ میں نے اور مسلمانوں نے نیز بہقباد زبیریں اور بہقباد اوسط کے باشندوں نے یہ شرائط تسلیم کر لی ہیں ۔ اس معاہدے کے گواہ اور دستخط کرنے والے ہشام بن ولید ، قعقاع بن عمرو ، جریر بن عبداللہ الحمیری ، بشیر بن عبید اللہ بن خصاصیہ اور حنظلہ بن ربیع

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۰۴)

گزرتا تھا اور یہیں سے نہر بدات کو قفہ کو جاتی تھی ۔ (جغرافیہ خلافت مشرقی مؤلفہ جی لی ۔ اسٹریٹج صفحہ ۷۴) ۔

ہرمز جرد :- عراق کے آخری سرے پر ایک علاقے کا نام ہے ۔ (معجم البلدان جلد ۸ صفحہ ۴۶۰) ۔

ہیں اور یہ صفر ۱۲ ۵ میں لکھا گیا ہے*۔

حضرت خالد نے عراق کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا تھا آپ نے حیرہ کو مسلمانوں کا فوجی مستقر اور مفتوحہ علاقہ دارالحکومت بنایا۔ اب یہ بھی ضروری ہو چکا تھا کہ مفتوحہ علاقہ کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی جائے اور وہ شہری نظام جنگی کارروائیوں کی وجہ سے درہم برہم ہو چکا تھا دوبارہ قائم کیا جائے۔ اس غرض سے حضرت خالد نے مختلف علاقوں میں امراء مقرر کر کے بھیجے جن کے سپرد امن و امان اور شہری نظام بحال کرنے کے علاوہ خراج کی وصولی اور سرحدوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کا کام بھی تھا۔

حضرت خالد کے عمال اور امراء

خراج کی وصولی کے لئے آپ نے سدرجہ ذیل عمال مقرر کئے۔
فلایج کے بالائی علاقے پر عبداللہ بن وئیمہ النصری کو مقرر کیا۔
بانقیہ اور بسما پر جریر بن عبداللہ کا تقرر کیا۔
نہرین پر بشیر بن خصاصیہ کو، تستر پر سوید بن مقرن مقرر کیا، اور

* اس معاہدے اور اس سے پچھلے معاہدے کی تاریخیں صفر غلط لکھی گئی ہیں کیوں کہ یہ دونوں معاہدے فتح حیرہ کے بعد ہوئے اور فتح حیرہ ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تاریخوں کی تحریر صلح کرنے والوں کی طرف سے نہیں، بلکہ بعد میں آنے والے راویوں کی طرف سے ہوئی، کیونکہ ایک اس زمانے میں معاہدوں کے ساتھ تاریخیں لکھنے کا دستور نہ تھا۔

وودستان پر اُط بن ابی اُط کو مقرر کیا گیا * ۔

سرحدوں کی حفاظت کے لئے مندرجہ ذیل امراء کا تقرر کیا گیا ۔ ضرار بن الازور ، ضرار بن خطاب ، مثنیٰ بن حارثہ ، ضرار بن مقرن ، قعقاع بن عمرو ، بسر بن ابی رهم اور عتبہ بن نہاس ۔ یہ لوگ سبب † کی سرحدی چھاوٹی پر پہنچ کر مملکت کی سرحد کے ساتھ ساتھ قیام پذیر ہو گئے ۔ حضرت خالد نے انہیں حکم دیا تھا کہ دشمن پر یورش کرتے رہو اور اسے چین نہ لینے دو ۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی سرحد سے آگے دجلہ کے کنارے تک سارا علاقہ دشمن سے چھین لیا تھا ۔

امراء اور عہال کے تقرر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مزید خونریزی روکنے اور اہل فارس پر اتمام حجت کے خیال سے انہیں آخری تنبیہ کرنا ضروری سمجھا ۔ آپ نے دو آدمی بلائے ۔ ایک کا نام مرہ تھا اور دوسرے کا ہزقیل ۔ انہیں آپ نے دو خط دئے ۔ ایک خط خواص کے نام تھا اور دوسرا عوام کے نام ۔ مرہ حیری کو آپ نے ملوک فارس کی طرف بھیجا اور فرمایا : یہ خط لو اور اسے ملوک فارس کے پاس پہنچا دو ۔ خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ یا تو وہ ان کے عیش و آرام کو تلخ کر دے گا یا وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے یا ہم سے مصالحت کر لیں گے ۔ خط کا مضمون حسب ذیل تھا :

* اس انتظام کے باعث تمام علاقوں کا خراج پچاس دن کے اندر اندر حضرت خالد کے پاس پہنچ گیا ۔

† سبب ، سواد کوفہ میں ایک علاقہ ہے ۔ اسی نام کی ایک نہر بھی ہے جو بصرہ کے قریب بہتی ہے (معجم البلدان جلد ۵ صفحہ ۱۹۰) ۔

”بسم الله الرحمن الرحيم - یہ خط خالد بن ولید جی جاننے سے ملو کہ فارس کے نام ہے - خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس تمہارا نظام درہم برہم کر دیا - تمہارے مکرو فریب کو ناکام کر دیا اور تم میں اختلافات پیدا کر دئے - اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس میں تمہارا ہی نقصان تھا - اب تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ ہماری اطاعت قبول کر لو - اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں اور تمہارا علاقہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں گے ورنہ تمہیں ایک ایسی قوم کے سامنے مغلوب ہونا پڑے گا جس کی موت کو اس سے زیادہ پسند کرتی ہے جتنا کہ تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔“

ہزقیل کو جو خط آپ نے دیا وہ سرداران فارس کے نام تھا - اس خط میں آپ نے لکھا تھا :

”بسم الله الرحمن الرحيم - یہ خط خالد بن ولید جی طرف سے سرداران فارس کے نام ہے - تم لوگ اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے - یا جزیہ ادا کرو ، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے - ورنہ یاد رکھو کہ میں نے ایسی قوم کے ساتھ تم پر چڑھائی کی ہے جو موت کی اتنی ہی فریفتہ ہے جتنا تم شراب نوشی کے۔“ *

اس زمانے میں جب مسلمان دجلہ کے اُس طرف فتح پزیر حاصل کرنے میں مصروف تھے ، اہل فارس اردشیر کی وفات کے باعث اندرونی اختلافات میں الجھے ہوئے تھے - تخت ایران پر قبضہ کرنے کی خاطر جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی - اگرچہ حضرت خالد سے جنگ کرنے کے متعلق سب متفق و متحد تھے

* (الطبری جلد ۴ صفحہ ۶۸) -

سگر لڑائی کو ایک دوسرے پر ٹال رہے تھے۔ ایک سال تک ان کی یہی کیفیت رہی اور مسلمان دجلہ تک سواد عراق پر قبضہ کرتے چلے گئے اور حیرہ سے دجلہ تک اہل فارس کا کوئی اثر باقی نہ رہا، نہ اس علاقے کے لوگ ذسی ہی بنے، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت خالد سے باقاعدہ معاہدے کر لئے تھے۔ باقی اہل سواد یا تو جلاوطن تھے یا کہیں کہیں قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے حزب و پیکار میں مصروف تھے۔ اس عرصے میں اہل فارس نے بہر سیر* پر تو مدافعت کی لیکن باقی عرصہ بادشاہ بنانے اور معزول کرنے کے سوا اور کچھ نہ کیا۔ جب حضرت خالد کا خط ان کے پاس پہنچا تو ان کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے اپنے اختلافات اور تنازعات ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے مطابق انہوں نے بالاتفاق فرخ زاد بن بندوان کو (جو شاہی خاندان سے نہ تھا) عارضی طور پر اس وقت تک سلطنت کا نگران مقرر کر دیا، جب تک آل کسریٰ میں سے کسی شاہزادے کی بادشاہی پر سب متفق ہو سکیں۔

ادھر جب حضرت خالد کو مفتوحہ علاقوں اور سرداروں کی حفاظت کے انتظامات سے متعلق پورا اطمینان ہو گیا تو وہ قعقاع بن عمرو کو حیرہ میں اپنا نائب مقرر کر کے خود عیاض بن غنم کی مدد کے لئے روانہ ہوئے، جنہیں حضرت ابوبکر صدیق نے بالائی عراق فتح کرنے کے لئے روانہ فرمایا تھا۔ مقدمۃ الجیش پر الاقرع بن حابس متعین تھے۔ حیرہ سے چل کر حضرت خالد

* بہر سیر، سواد بغداد میں ندائن کے قریب ایک قصبہ ہے۔ (معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۳۱۴)۔

سب سے پہلے فلوجہ پہنچے۔ وہاں سے کربلاء* گئے۔ کربلاء
فوجی چوکی پر عاصم بن عمرو متعین تھے۔ یہاں آپ نے کچھ وقت
قیام فرمایا۔ اس کے بعد کوچ کا حکم دیا اور انبار پہنچے۔

جنگ انبار*

جب اہل انبار کو حضرت خالد کے آنے کی اطلاع ملی
انہوں نے شہر کے ارد گرد خندق کھود کر قلعے کے دروازے
بند کر لئے اور اس طرح اپنے آپ کو نہایت محفوظ سمجھتے ہو
بند ہو کر بیٹھ رہے۔ حضرت خالد مقدمۃ الجیش کے ساتھ
وہاں پہنچے۔ خندق کے کنارے۔ کنارے آپ نے قلعے کا ایک
چکر لگایا اور جنگ شروع کر دی۔ آپ کی عادت تھی کہ جہاں
کہیں جنگ کا موقع نظر آتا، آپ سے ضبط نہ ہو سکتا تھا۔ آپ
نے اپنے تیراندازوں سے کہا: جو لوگ ہمارے مقابلے پر متعین
ہیں وہ میرے خیال میں اصول جنگ سے واقف نہیں، اس لئے
تم تاک تاک کر ان کی آنکھوں کو نشانہ بناؤ۔ چنانچہ
تیراندازوں نے ایسا ہی کیا اور ایک ہی دن میں دشمنوں
ایک ہزار سپاہیوں کی آنکھیں بے کار کر کے رکھ دیں۔

* کربلاء وہ مقام ہے جہاں حضرت امام حسین شہید ہوئے
یہ بستی صحراء کی جانب کوفہ کے قریب واقع ہے (معجم البلدان
جلد ۷ صفحہ ۲۲۹)۔

* انبار، بغداد کے مغرب میں دس فرسخ کے فاصلے
دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ (معجم البلدان جلد ۱۰
صفحہ ۳۳۱)۔

شور مچ گیا کہ اہل انبار کی آنکھیں جاتی رہیں۔ اہل انبار کا سپہ سالار، ساباط کا رئیس، شیر زاد تھا جو بڑا عقل مند اور عرب و عجم میں بڑا ہر دل عزیز تھا۔ اس نے حضرت خالد سے صلح کی بات چیت شروع کی، لیکن شرائط ایسی پیش کیں جو حضرت خالد کو منظور نہ تھیں۔ چنانچہ صلح کی بات چیت ناکام ہو گئی۔

اس کے بعد حضرت خالد فوج لے کر ایسے مقام پر آئے جہاں خندق بہت تنگ تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ لشکر کے مریض اور ناکارہ اونٹ ذبح کر کے خندق میں ڈال دئے جائیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے اونٹ ذبح کر کے خندق میں پھینک دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی لاشوں سے خندق کا ایک حصہ بٹ گیا اور ایک پل سا بن گیا۔ حضرت خالد فوج کو لے کر خندق کے پار ہو گئے اور دشمنوں کو قلعے کے اندر پسپا ہونا پڑا۔ یہ حالت دیکھ کر شیر زاد نے دوبارہ صلح کے لئے سلسلہ جنبانی شروع کی اور یہ پیش کش کی کہ اگر اس کی جان بخشی کر دی جائے تو وہ سواروں کے ایک دستے کے ساتھ جن کے پاس سامان وغیرہ کچھ نہ ہوگا خالی ہاتھ شہر سے باہر نکل جائے گا۔ حضرت خالد نے یہ پیش کش منظور کر لی اور شیر زاد شہر سے نکل گیا۔ شہر پر مسلمان قابض ہو گئے اور انبار کے نواحی علاقے کے لوگوں نے حضرت خالد سے مصالحت کر لی۔

حضرت خالد کا مقدمۃ الجیش کی خود قیادت کرنا، کمزور مقامات کی چھان بین کرنے کے لئے خندق کے گرد چکر لگانا، چکر لگانے کے فوراً بعد لڑائی شروع کر دینا، لڑائی شروع ہونے کے بعد یہ معلوم کر لینا کہ دشمن فنون حرب سے قطعاً ناواقف ہے، پھر ان تمام باتوں کے باوجود لڑائی میں کوئی

ناجائز حربہ یا حیلہ استعمال نہ کرنا ، یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت خالد کو کس درجہ جنگی مہارت حاصل تھی

جب حضرت خالد انبار سے فراغت حاصل کر چکے تو آپ شہر انبار میں زبیرقان بن بدر کو اپنا نائب مقرر کیا اور خو عین التمر کا رخ کیا۔

جنگِ عین التمر*

عین التمر میں اس وقت مہران بن بہرام چوبین ، عجمیوں کی ایک عظیم جمعیت کے ساتھ موجود تھا۔ عقیقہ بن ابی عقیقہ بھی وہیں مقیم تھا اور اس کے ساتھ نمر ، تغلب اور ایاد وغیرہ عربی النسل عیسائی قبائل کی ایک بڑی بھاری جماعت تھی۔ جب ان لوگوں کو حضرت خالد کے آنے کی اطلاع ملی تو عقیقہ نے مہران سے کہا ”عرب ، عربوں سے لڑنا خوب جانتے ہیں اس لئے تم ہمیں مسلمانوں سے نپٹ لینے دو“ مہران نے جواب دیا ”تم ٹھیک کہتے ہو۔ عربوں کے ساتھ لڑنے میں تم ایسا عقیقہ ہی ماہر ہو جتنے ہم عجمیوں سے لڑنے میں ماہر ہیں“۔ اس طرح مہران نے عقیقہ کو خود فریبی میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو جنگ کی مصیبت سے بچالیا اور اس سے کہا ”تم مسلمانوں سے لڑو۔ اگر ہماری ضرورت ہوگی تو ہم بھی میدان جنگ میں پہنچ جائیں گے“۔

عجمی ، عربوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ مہران کی

* عین التمر ، کوفہ کے مغرب میں انبار کے قریب صحراء

مقابلہ ایک قضیہ ہے۔ (معجم البلدان جلد ۶ صفحہ ۲۵۳)۔

اتیں سن کر انہوں نے اس سے پوچھا ”تم نے اس کتے (عقہ) سے مدد کا وعدہ کیوں کیا؟“ مہران نے کہا ”تم میری بات میں دخل نہ دو۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہاری بہتری کے لئے کیا ہے۔ اس وقت تمہارے مقابلے کے لئے ایک ایسا شخص آرہا ہے جس نے تمہارے بادشاہوں کو قتل اور تمہاری سلطنت کو لاش پاش کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے ان عربوں کے ذریعے تمہارا بچاؤ کیا ہے۔ اگر یہ لوگ خالد کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی کا سہرا تمہارے ہی سر ہوگا۔ اور فتح تمہاری ہی گردانی جائے گی۔ لیکن اگر یہ لوگ شکست کھا گئے تو ہماری تازہ دم فوج تھکے ماندے مسلمانوں کو آسانی سے شکست دے سکے گی۔“ مہران کی یہ دلیل سن کر عجمی فوج مطمئن ہو کر قلعے میں چلی گئی۔ عقہ آگے بڑھ کر حضرت خالد کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اس کے اور مہران کے درمیان ایک دن کی مسافت تھی۔ جب حضرت خالد پہنچے، تو عقہ اپنی بوجوں کی صف آرائی کر رہا تھا۔ حضرت خالد نے آتے ہی عقہ کی فوج پر حملہ کر دیا اور نہایت پھرتی سے کمانڈ ڈال کر عقہ کو اپنے لشکر میں گھسیٹ لائے۔ اپنے سردار کا یہ حال دیکھ کر دشمن کے چھکے چھوٹ گئے اور اسے بھاگتے ہی بن پڑی۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور سینکڑوں کو گرفتار کر لیا۔

جب مہران کو اس واقعہ کی خبر ملی تو وہ اپنی فوج کو لئے کر قلعے سے بھاگ گیا۔ عقہ کا شکست خورہ لشکر بھاگتا ہوا قلعہ میں پہنچا اور اس کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت خالد نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عقہ بھی بحالت اسیری آپ کے ساتھ تھا۔ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ حضرت خالد لٹیروں

کی طرح ہوں گے اور اگر انہیں کچھ سال و دولت کا لالچ دیا جائے تو وہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تو انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دئے۔ حضرت خالد نے تمام لوگوں کو گرفتار کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔

اب حضرت خالد نے عقبہ کے قتل کا حکم صادر کیا تاکہ تمام قیدی زندگی سے مایوس ہو جائیں۔ چنانچہ عقبہ کو قتل کر کے اس کی لاش پل پر پھینک دی گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد نے تمام قیدیوں کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب قیدیوں کو قتل کر دیا گیا اور قلعے کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا گیا۔

اس قلعے میں ایک گرجا تھا جس میں چالیس لڑکے انجیل کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد نے ان سے پوچھا ”تم کون ہو؟“ انہوں نے جواب دیا ”ہم اس کاہنوں کے لئے وقف ہیں۔“ آپ نے ان لڑکوں کو فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ ان لڑکوں میں سے بعض مثلاً سیرین ابو محمد بن سیرین عثمان کے غلام حمران اور نصیر ابو موسیٰ بن نصیر، عظیم شہرت کے سالک ہوئے اور انہوں نے اسلامی سلطنت کے استحکام کے لئے گرانقدر خدمات سر انجام دیں۔

حضرت خالد نے ولید بن عقبہ کو خمس (غنیمت کا پانچواں حصہ) دے کر فتح کی خوشخبری کے ساتھ حضرت صدیق کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت صدیق نے ولید کو عیاض بن غنم کی مدد کے لئے روانہ کر دیا۔ اس وقت عیاض بن غنم نے دومة الجندل کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جواباً اہالیان دومة الجندل

نے عیاض بن غنم کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور عیاض کا راستہ سدود کر رکھا تھا۔ ولید نے عیاض سے کہا ”بعض حالات میں عقل کی ایک بات ایک زبردست لشکر سے بھی زیادہ مفید بت ہوتی ہے۔ اگر تم میری مانو تو خالد کے پاس آدسی بھیج کر ان سے استعانت چاہو“۔ عیاض نے ولید کی بات مان لی اور حضرت خالد سے امداد طلب کی۔ عیاض کا قاصد حضرت خالد کے پاس اس وقت پہنچا جب آپ عین التمر کی فتح سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ نے جواب لکھا :

”خالد بن ولید کی جانب سے عیاض کے نام۔ میں ابھی تمہارے پاس آتا ہوں۔ تمہارے پاس اونٹنیاں آنے والی ہیں بن پر کالے، زہریلے ناگ سوار ہیں۔ فوج کے دستے ہیں بن کے پیچھے اور دستے ہیں۔“

حضرت خالد نے عویم بن کاہل اسلمی کو عین التمر میں اپنا نائب مقرر کیا اور اپنی فوج لے کر دومة الجندل روانہ ہو گئے۔

جنگ دومة الجندل*

جب اہل دومة الجندل کو حضرت خالد کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے بہراء، کلب، غسان، تنوخ اور ضجاعم کے

* دومة الجندل کا قصبہ دمشق اور مدینہ کے درمیان راستے سے سات منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ابو عبیدالسکونی کہتے ہیں کہ دومة الجندل، شام اور مدینہ کے درمیان جبل طی کے قریب (باقی صفحہ ۲۱۶ پر)

قبیلوں سے کمک طلب کی۔ سب سے پہلے ودیعہ، کلب اور
 بہراء کی ایک جمعیت لے کر آیا۔ اس کا معاون ابن وبرہ بن
 رومانس تھا۔ ودیعہ کے علاوہ ابن الحدرجان، ضجاعم کو
 لے کر اور ابن الاہم غسان اور تنوخ کی جماعتوں کو لے کر
 پہنچے۔ یہ سب حمل کر عیاض بن غنم پر اور عیاض بن غنم
 ان پر حملے کرتے رہے۔ ان لوگوں کی فوج کے دو سردار تھے۔
 اُکیدر بن عبد الملک اور جودی بن ربیعہ۔ جب حضرت خالد
 دومة الجندل کے قریب پہنچے تو ان لوگوں میں باہم اختلاف
 پیدا ہو گیا۔ اُکیدر کہنے لگا ”میں تمہاری بہ نسبت خالد
 سے بہت زیادہ واقف ہوں۔ آج دنیا میں خالد سے بڑھ کر کوئی
 شخص اقبال مند اور فنون جنگ کا ماہر نہیں ہے۔ جو قوم خالد
 سے مقابلہ کرتی ہے خواہ وہ تعداد میں کم ہو یا زیادہ، ہر
 حال میں شکست کھا جاتی ہے اس لئے تم میری بات مانو اور
 مسلمانوں سے صلح کر لو*۔ لوگوں نے اُکیدر کی یہ رائے قبول

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۵)

ایک قلعہ اور شہر ہے۔ تمام مؤرخین اس امر پر متفق ہیں کہ
 حضرت خالد بن ولید نے ۱۲ھ میں اس شہر پر چڑھائی کی تھی
 اور یہاں کے سردار اُکیدر کو بغاوت اور ارتداد کی وجہ سے
 قتل کیا تھا۔ (معجم البلدان جلد ۴ صفحہ ۱۰۶، ۱۰۷)۔

* اُکیدر کی یہ رائے بالکل صائب اور سابقہ تجربے پر مبنی
 تھی۔ اس سے پہلے اُکیدر کو حضرت خالد سے اس وقت سابقہ
 پڑ چکا تھا جب رسول اللہ نے تبوک سے حضرت خالد کو اس کی
 طرف بھیجا تھا اور آپ اسے گرفتار کر کے اسے رسول اللہ کی

(باقی صفحہ ۲۱۷ پر)

کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اُکیدر یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا ”تم جانو، تمہارا کام جانے۔ میں تو تمہارے ساتھ مل کر خالد سے جنگ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔“

جب حضرت خالد کو اُکیدر کے جانے کی خبر ہوئی تو آپ نے عاصم بن عمرو کو اسے گرفتار کرنے کے لئے بھیجا۔ عاصم نے اسے راستے ہی میں جالیا اور اسے گرفتار کر کے حضرت خالد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد نے اس کی بدعہدی اور بغاوت کی پاداش میں اس کی گردن اڑادی۔

حضرت خالد آگے بڑھ کر دومة الجندل پہنچے۔ اہالیان دومة الجندل کے سردار یہ لوگ تھے: جودی بن ربیعہ، ودیعہ کلبی، ابن رومانس کلبی، ابن الاہیم اور ابن الحدر جان۔ حضرت خالد نے دومة الجندل کو اپنی اور عیاض بن غنم کی فوج کے گھیرے میں لے لیا۔ جو عربی النسل عیسائی دومة الجندل والوں کی امداد کے لئے پہنچے تھے وہ قلعے کے چاروں طرف جمع تھے کیوں کہ قلعے میں ان کے لئے گنجائش نہیں تھی۔

دومة الجندل والوں نے حضرت خالد کی آمد پر کسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا بلکہ بڑے اطمینان سے صف بندی کی۔ جودی بن ربیعہ اور ودیعہ، حضرت خالد کے بالمقابل اور ابن حدرجان اور ابن الاہیم، عیاض بن غنم کے بالمقابل صف آرا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۶)

خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر اس نے حضور کی اطاعت قبول کر لی تھی اور اپنے شہر واپس چلا آیا تھا۔

ہوئے حضرت خالد نے جو دی گو اور اقرع بن حابس نے
 ودیعہ کو گرفتار کر لیا۔ باقی لوگ قلعے کی طرف بھاگے لیکن
 وہاں کافی گنجائش نہیں تھی۔ قلعہ بھر جانے پر اندر والوں نے
 دروازہ بند کر لیا اور اپنے ان ساتھیوں کو جو باہر رہ گئے
 تھے مسلمانوں کی تلواروں کے حوالے کر دیا۔ یہ صورت حال
 دیکھ کر حضرت خالد کی فوج کے ایک سردار عاصم بن عمرو
 نے اپنے قبیلہ - بنو تمیم سے اپنے حلیف بنو کلب کی امداد کی
 اپیل کی۔ بنو تمیم فوراً ان کی حفاظت کے لئے پہنچ گئے اور
 اس طرح بنو کلب کی جانیں بچ گئیں۔

جو لوگ قلعے کی طرف بھاگے تھے، حضرت خالد نے ان کا
 پیچھا کیا اور اتنے آدمی قتل کئے کہ ان کی لاشوں سے دروازہ
 پٹ گیا اور اندر جانے کا راستہ نہ رہا۔ آپ نے جو دی بن ربیعہ
 اور دیگر قیدیوں کی گردنیں بھی اڑا دیں، سوائے بنو کلب
 کے قیدیوں کے، جنہیں عاصم بن عمرو نے پناہ دے دی تھی۔
 اس کے بعد حضرت خالد نے قلعے کا دروازہ اکھڑوا ڈالا اور
 جتنے لوگ بھی قلعے میں محصور تھے انہیں قتل کر دیا۔

دومة الجندل کی فتح کے بعد حضرت خالد نے اقرع بن حابس
 کو انبار واپس جانے کا حکم دیا اور خود دومة الجندل ہی میں
 قیام کیا۔ جن دنوں حضرت خالد دومة الجندل میں مقیم تھے
 تھے اس زمانے میں عجمی آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف
 تھے۔ عقیقہ کے انتقام کے جوش میں جزیرہ کے عربوں نے بھی
 ان عجمیوں سے ساز باز کر لی تھی اور انہیں لکھا تھا کہ وہ
 عقیقہ کا انتقام لینے کے لئے ان کا ساتھ دیں۔ چنانچہ زوسہر
 انبار روانہ ہوا۔ روزبہ نے بھی انبار کا رخ کیا۔ دونوں
 میں یہ طے پایا کہ حصید اور خنافس پر دونوں کی فوجیں مل جائیں۔

جائیں۔ جب زبرقان بن بدر کو جو انبار میں موجود تھے یہ اطلاع ملی تو انہوں نے قعقاع بن عمرو سے (جو حیرہ میں حضرت خالد کے نائب کے طور پر کام کر رہے تھے) امداد کی درخواست کی۔ انہوں نے اُعبد بن فدکی السعدی کو حصید اور عروہ بن جعدالبارقی کو خنافس پہنچنے کا حکم دیا اور دونوں کو ہدایت کی کہ اگر انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملے تو آگے بڑھ جائیں۔ یہ دونوں سردار ایسے مقام پر ٹھہرے کہ حصید اور خنافس کا، ریف سے تعلق منقطع ہو گیا اور دشمن کے راستے مسدود ہو گئے۔ زرمہر اور روزبہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے بنو ربیعہ کا (جن سے ان کے عہد و پیمانہ ہو چکے تھے) انتظار کر رہے تھے۔ ادھر جب حضرت خالد دومة الجندل سے حیرہ واپس آئے اور انہیں ان حالات کی اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً قعقاع بن عمرو اور ابولیلیٰ کو روزبہ اور زرمہر کے مقابلے کے لئے روانہ فرمایا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت خالد سے پہلے عین التمر پہنچ گئے۔

اسی اثنا میں حضرت خالد کے پاس امرؤ القیس کلبی کا خط پہنچا جس میں لکھا تھا کہ عقبہ کے انتقام کے جوش میں ہذیل بن عمران نے مصیخ میں اور ربیعہ بن بشر نے ثنی اور بشر میں فوجیں جمع کی ہیں اور یہ دونوں زرمہر اور روزبہ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر حضرت خالد نے عیاض بن غنم کو تو حیرہ میں چھوڑا اور خود وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ نے مقدمة الجیش پر اقرع بن حابس کو مقرر کیا تھا۔ خنافس جانے کے لئے آپ نے وہی راستہ اختیار کیا جو قعقاع اور ابولیلیٰ نے اختیار کیا تھا۔ آپ ان دونوں سے عین التمر کے مقام پر آنے سے پہلے یہاں سے آپ نے قعقاع کو امیر بنا کر حصید کی جانب اور

ابولیلی کو خنافس کی جانب روانہ فرمایا اور انہیں ہدایت کی کہ دشمنوں اور ان کے بھڑکانے والوں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کر دیں تاکہ مسلمان یکدم ان پر حملہ کر کے ایک ہی ہلے میں ان کا صفایا کر سکیں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے مسلمانوں کے اراکوں کو بھانپ لیا تھا اس لئے وہ اکٹھے نہ ہوئے۔

جنگ حصید *

قعقاع بن عمرو نے جب دیکھا کہ زرمہر اور روزبہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے تو وہ حصید کی طرف بڑھے۔ اس جگہ عربی اور عجمی فوجوں کا سردار روزبہ تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ قعقاع اس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اس نے زرمہر سے امداد طلب کی۔ زرمہر نے سہبوزان کو اپنی فوج کا نائب مقرر کیا اور خود روزبہ کی امداد کے لئے حصید روانہ ہوا۔ یہاں زبردست مقابلہ ہوا جس میں دشمنوں کو شکست فاش اٹھانی پڑی۔ مسلمانوں نے دشمنوں کی ایک بھاری تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بے شمار مال غنیمت حاصل کیا۔ مقتولین میں زرمہر اور روزبہ بھی شامل تھے †۔ بقیۃ السیف شکست خوردہ لشکر خنافس بھاگ گیا۔

* حصید، عراق کی حدود پر جزیرہ کی جانب ایک قصبہ ہے (معجم البلدان جلد ۳ صفحہ ۲۸۸)۔

† زرمہر کو قعقاع نے اور روزبہ کو عصمہ بن عبداللہ الضبی نے قتل کیا (الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۴)۔

فتح خنابس

خنابس میں جو لشکر جمع تھا ، ابولیلیٰ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سہبوزان کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو وہ اپنے تمام لشکر سمیت مصیخ بھاگ گیا جہاں کا حاکم ہذیل بن عمران تھا۔ اس طرح مسلمان بغیر لڑے بھڑے خنابس پر قابض ہو گئے۔

جنگ مصیخ*

جب حضرت خالد کو حصید اور خنابس کی فتوحات اور سہبوزان کے لشکر کے مصیخ کی جانب بھاگ جانے کے بارے میں اطلاعات ملیں تو آپ نے اپنے سرداران فوج: قعقاع بن عمرو ، ابولیلیٰ ، اعبد اور عروہ کو مصیخ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا اور خود بھی ادھر کا رخ کیا۔ یہ پہلے ہی سے طے کر لیا گیا تھا کہ تمام قائدین کو کس رات اور کس وقت پہنچنا ہے۔ چنانچہ وقت مقررہ پر تمام قائدین منزل مقصود پر پہنچ گئے اور آتے ہی تین اطراف سے ہذیل اور اس کی فوج پر ، جو بے خبر پڑی سو رہی تھی ، بھر پور حملہ کر دیا۔ ہذیل اپنے چند ساتھیوں سمیت بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ باقی تمام فوج قتل ہو گئی۔ لاشوں سے میدان اس طرح پٹ گیا گویا پکریاں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔

* مصیخ کو مصیخ بنی البرشاء بھی کہتے ہیں۔ یہ قصیدہ حوران اور قلت کے درمیان واقع ہے (معجم البلدان جلد ۸ صفحہ ۷۹)۔

معرکہ مصیخ کے دوران میں جریر بن عبداللہ کے ہاتھوں دو مسلمان عبدالعزی بن ابی رھم اور لبید بن جریر بھی مارے گئے۔ یہ دونوں، مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے پاس حضرت صدیق کا عطا کیا ہوا ایک صداقت نامہ بھی موجود تھا۔ جب بعد میں حضرت صدیق کو معلوم ہوا کہ عبدالعزی حملے کی رات کو ایسے اشعار پڑھ رہا تھا جن میں صاف طور پر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا ذکر تھا تو آپ نے ان دونوں کا خون بہا ادا کر دیا۔

حضرت عمر، مالک بن نویرہ اور ان اشخاص کے قتل کی وجہ سے حضرت خالد کو سورد الزام ٹھہراتے تھے۔ لیکن حضرت صدیق نے فرمایا ”جو مسلمان، دشمن کی سر زمین میں دشمن کے ساتھ قیام پذیر ہوں گے ان کے ساتھ ایسی صورت کا پیش آنا ممکن ہے۔“

واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ دونوں حضرات چاہتے تو دشمن سے علیحدہ ہو کر کسی اور جگہ رہ سکتے تھے۔ انہیں خواہ مخواہ ایسی جگہ ٹھہرنے کی ضرورت نہ تھی جس کے متعلق انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ دشمنان اسلام کی جائے سکونت ہے اور عنقریب یہاں میدان کارزار گرم ہونے والا ہے۔

جنگ ثنی اور جنگ زمیل*

جنگ مصیخ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد نے قعقاع

* الثنی، مشرقی رصافہ کے قریب جزیرہ کی سرحد پر ایک قصبہ ہے (معجم البلدان جلد ۳ صفحہ ۲۶)۔ الزبیل کا نام البشر بھی ہے اور الثنی اسی سے ملحق ہے۔ یہ دونوں مقامات آج کل رصافہ کا مشرقی حصہ ہیں (الطبری جلد ۳ صفحہ ۲۵)۔

اور ابولیلیٰ کو الثنی اور البشر روانہ فرمایا جہاں ربیعہ بن بھیر تغلبی اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ قعقاع اور ابولیلیٰ کے پیچھے حضرت خالد بھی روانہ ہو گئے۔ اس حملے کا پروگرام بھی ویسا ہی بنایا گیا جیسا جنگ مصیخ کے موقع پر بنایا گیا تھا۔ حضرت خالد نے الثنی سے اپنی سپہم کا آغاز کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر رات کے وقت تین اطراف سے دشمنوں پر زور شور سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں دشمنوں کا کوئی سرد بھی بچ کر نہ نکل سکا، عورتیں گرفتار کر لی گئیں*۔ فتح کے بعد حضرت خالد نے نعان بن عوف شیبانی کے ہاتھ حضرت صدیق کی خدمت میں خمس روانہ کیا۔

الثنی سے حضرت خالد، الزبیل روانہ ہوئے جہاں عتاب بن فلان ایک بھاری لشکر لائے ہوئے موجود تھا۔ ربیعہ اور اس کی تمام فوج کے قتل کی خبر اسے مل چکی تھی۔ ہذیل نے بھی مصیخ سے بھاگ کر اسی کے پاس پناہ لی تھی۔ حضرت خالد نے یہاں بھی رات کو تین جانب سے حملہ کیا۔ اس معرکے میں دشمن کی اتنی بڑی تعداد قتل ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت خالد نے مال غنیمت تقسیم کیا اور صباح بن فلان المزنی کے ہاتھ حضرت صدیق کی خدمت میں خمس روانہ کیا۔

الزبیل سے حضرت خالد، الرضاب† کی طرف مڑے۔ وہاں کا

* حضرت علی نے انہی قیدی عورتوں میں سے ربیعہ بن بھیر کی لڑکی کو خریدا تھا جن سے آپ کے یہاں عمر اور رقیہ پیدا ہوئے (الطبری جلد ۴ صفحہ ۲۵)۔

† الرضاب، رصافہ سے پہلے اس جگہ جو بستی تھی اسے الرضاب کہتے تھے (معجم البلدان جلد ۴ صفحہ ۲۵۹)۔

حاکم ہلال بن عقبہ تھا۔ جب اس کی فوج نے حضرت خالد کے آنے کی خبر سنی تو اس نے مارے خوف کے لڑنے سے انکار کر دیا جس پر ہلال کو مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا اور مسلمانوں کو الرضاب فتح کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔

جنگ فراض*

اب حضرت خالد کا تسلط تمام سواد عراق پر ہو چکا تھا۔ الجزیرہ کے عربوں پر بھی آپ فتح پا چکے تھے۔ ان لڑائیوں کے بعد آپ الفراض کی جانب روانہ ہوئے جہاں شام، عراق اور الجزیرہ کی سرحدیں ملتی تھیں۔ الفراض کو فتح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ سرزمین ایران کو فتح کرنے کے لئے آگے بڑھیں تو آپ کی پشت بالکل محفوظ رہے اور آپ اطمینان سے فتوحات میں مصروف رہیں †۔

اسلامی فوجیں الفراض میں اکٹھی ہوئیں تو انہیں دیکھ کر رومیوں کو بے حد جوش آیا اور انہوں نے اپنے قریب کی ایرانیوں سے بڑی خوشی سے رومیوں کو

* الفراض، دریائے فرات کے مشرق میں وہ مقام جہاں شام عراق اور الجزیرہ کی سرحدیں آکر ملتی ہیں (معجم البلدان جلد ۶ صفحہ ۳۵)۔

† حضرت خالد کا یہ فعل بھی آپ کی دور رسمی اور بے نظمی جنگی سہارت پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت صدیق نے بھی مدینہ سے روانگی کے وقت خالد اور عیاض کو یہی ہدایت فرمائی تھی دیکھیں: طبری جلد ۴ صفحہ ۵۔

ھی مدد کی گیوں کہ مسلمانوں نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا تھا اور ان کی شان و شوکت کو تہ بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ ایرانیوں کے علاوہ تغلب، ایاد اور نمر کے عربی النسل قبائل نے بھی روسیوں کی پوری پوری مدد کی، کیوں کہ وہ اپنے رؤساء اور سر بر آوردہ اشخاص کے قتل کو بھولے نہ تھے۔ چنانچہ روسیوں، ایرانیوں اور عربی النسل قبائل کا ایک لشکر جرار مسلمانوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوا۔ دریائے فرات پر پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا: تم دریا کو عبور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہم دریا کو عبور کر کے تمہاری طرف آئیں؟ حضرت خالد نے مسلمانوں کو خطرے میں ڈالنا پسند نہ کیا چنانچہ آپ نے کہلا بھیجا: تم ہی ہماری طرف آ جاؤ۔ دشمنوں نے کہا ”اچھا، تم سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم دریا پار کر لیں“۔ حضرت خالد نے فرمایا ”یہ بات غلط ہے۔ تم نیچلی جانب سے دریا پار کر لو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس دوران میں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے“۔ جب روسیوں کا تمام لشکر دریا کے پار ہو گیا تو لشکر کے سپہ سالار نے فوج کو حکم دیا کہ تمام قبائل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس گروہ نے زیادہ شاندار کام سر انجام دیا ہے۔ چنانچہ تمام فوج علیحدہ علیحدہ ہو گئی اور لڑائی شروع ہوئی۔ جب دشمن کو شکست ہونے لگی تو حضرت خالد نے اپنی فوج کو حکم دیا: ان کا پیچھا کرو اور ان کو دم نہ لینے دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

فراض کی جنگ میں عین میدان جنگ اور بعد ازاں تعاقب میں دشمن کے ایک لاکھ آدمی کام آئے۔ عراق میں حضرت خالد کی یہ آخری جنگ تھی۔

فتح کے بعد حضرت خالد نے فراض میں دس روز قیام فرمایا۔
 دس روز بعد ۲۵ ذی القعدہ ۱۲ھ کو اپنی فوج کو حیرہ کی جانب
 کوچ کا حکم دیا۔ آپ نے عاصم بن عمرو سے کہا کہ وہ
 لشکر کے ساتھ جائیں اور شجر بن الاغر کو ساقہ کا کمانڈر
 مقرر کیا۔ اپنے متعلق آپ نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے ساقہ کے
 ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن اصل میں آپ لشکر کو چھوڑ کر خفیہ
 طور پر حج کرنے روانہ ہو گئے تھے۔

حضرت خالد کا خفیہ حج

حضرت خالد حج کے لئے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ چند
 لوگ اور بھی تھے۔ آپ شہروں اور بستیوں سے دور دور، سیدھے
 مکہ کی سمت روانہ ہوئے۔ کوئی رہبر ساتھ نہ تھا اور یہ راستہ
 نہایت عجیب اور دشوار گذار تھا۔ لیکن آپ فوج سے غیر حاضر
 بہت تھوڑے عرصے کے لئے رہے۔ ابھی لشکر کا آخری حصہ
 حیرہ نہیں پہنچا تھا کہ آپ حج سے فارغ ہو کر ساقہ سے آئے
 اور اس کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے۔ ان چند لوگوں کے
 سوا جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، لشکر کے اور کسی
 شخص کو آپ کے حج کی خبر نہ تھی۔ جب انہوں نے آپ کی
 واپسی پر آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے سر سنٹھے ہوئے دیکھے
 تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ حج کو تشریف لے گئے تھے۔

حضرت صدیق کو آپ کے حج کرنے اور لشکر چھوڑنے کی
 اطلاع مل گئی تھی۔ آپ کو خوب اچھی طرح پتہ تھا کہ اس
 خبر کا اثر آپ کے لشکر پر اور دشمن کے لشکر پر کیا ہو سکتا
 ہے۔ آپ جانتے تھے کہ خالد سے یہ فعل اس لئے سرزد ہو

ہے کہ انہیں ہر مرحلے پر اپنی فتح اور دشمن کی شکست کا یقین ہوتا ہے اور وہ دشمن کی حیثیت بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت خالد کے اس فعل کو حضرت ابوبکر صدیق مناسب نہ سمجھتے تھے۔ عین میدان جنگ میں، ہزاروں لاکھوں دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے لشکر کو چھوڑ کر سپہ سالار کا اکیلے حج کے لئے چلا آنا مصلحت اور دور اندیشی کے بالکل خلاف تھا۔ اسی زمانے میں ان امراء نے جنہیں حضرت صدیق نے شام کی جانب بھیجا تھا اپنے لئے مدد کی درخواست کی۔ حضرت صدیق نے رومیوں کی طرف بھی اسی خدائی تلوار کو بھیجنا چاہا جس نے شاہان کسری کے تخت کو ہلا ڈالا تھا۔ آپ نے عبدالرحمان بن جمیل الجمحی کے ہاتھ حضرت خالد کو ایک خط بھیجا۔ خط کا مضمون حسب ذیل ہے :-

”تم یہاں سے روانہ ہو کر یرموک میں مسلمانوں کی جماعت سے مل جاؤ کیوں کہ وہاں وہ دشمن کے نرغے میں گھر گئے ہیں۔ یہ حرکت (خفیہ حج) جو تم نے اب کی ہے آئندہ کبھی تم سے سرزد نہ ہو۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ تمہارے سامنے دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور تم مسلمانوں کو دشمن کے نرغے سے صاف بچا لاتے ہو۔ اے ابوسلیمان! میں تمہیں تمہارے خلوص اور خوش قسمتی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سہم کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ تمہارے دل میں غرور پیدا نہ ہونا چاہئے کیوں کہ غرور کا انجام نقصان اور رسوائی ہے۔ اپنے کسی عمل پر نازاں بھی نہ ہونا۔ فضل و کرم کرنے والا صرف اللہ ہے اور وحی اعمال کا صلہ دیتا ہے“۔

عراق میں حضرت خالد کی فتوحات کا اثر

اہل عرب بالعموم ایرانیوں کو نہایت تعظیم و تکریم اور احترام و توقیر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اگر کسی عرب کو کسریٰ کے محل کے دروازے پر کھڑے ہونے، یا شاہنشاہ کے سجدہ کرنے کے لئے اس کے دربار میں باریابی کی اجازت مل جاتی تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ اسے ہفت اقلیم کی بادشاہت مل گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی، عربوں کو اس درجہ حقیر سمجھتے تھے کہ کئی جنگوں میں حضرت خالد کی فتوحات کے باوجود انہوں نے سہابتداء میں عربوں کے حملوں اور پیش قدمیوں کو سنجیدگی کی نظر سے نہ دیکھا۔ اس کی واضح مثال ہمیں جنگ اُلیس کے موقع پر نظر آتی ہے جبکہ وہ میدان جنگ میں نہایت بے فکری سے کھانے پینے میں مشغول تھے اور انہیں اس امر کا مطلق پروا نہ تھی کہ عربوں کا لشکر ان سے جنگ کرنے کے لئے ان کے سامنے کھڑا ہے۔

حضرت خالد نے ایرانیوں کو دکھا دیا کہ عرب قوی پستی اور ذلت سے اٹھ کر انتہائی بلند مقام پر پہنچ چکی ہے اور ایرانیوں کو طوعاً یا کرہاً ان کی اطاعت قبول کرنی ہی ہوگی آپ نے ایران کے مفلس و قلاش کاشتکاروں اور غریب رعایا کو بھی یہ مژدہ سنا دیا کہ ان کی ذلت و پستی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور اب وقت آچکا ہے کہ انہیں اپنی قدر و قیمت کا احساس

ہو ، انہیں معلوم ہو کہ وہ بھی انسان ہیں ، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں ، اور وہ صاحب اقتدار ایرانی جو آج تک اپنے آپ کو عام انسانوں سے بالاتر سمجھتے تھے ، کسی طرح بھی ان سے بڑھ کر نہیں ۔

ایرانیوں نے شروع میں یہ سمجھا کہ عربوں کی یہ پیش قدمی معاشی بدحالی کی وجہ سے ہے ۔ جونہی کچھ مال غنیمت ان کے ہاتھ آئے گا وہ اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں گے اور اسے اطمینان و فراغت کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے ۔ لیکن عربوں کی بے در پے چڑھائیوں اور فتوحات پر فتوحات نے بالآخر ان پر واضح کر دیا کہ وہ صریح غلطی پر تھے ۔ اس وقت انہوں نے نکہیں کھولیں اور سنجیدگی سے عربوں کے مقابلے کے لئے تیار ہوئے ۔ لیکن ان کی سلطنت کے آخری دن آچکے تھے ۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے : یا وہ سلطنت کی یاگ ڈور خاموشی سے عربوں کے حوالے کر دیں یا ان کے آگے اپنے آپ کو تباہی کے لئے پیش کر دیں ۔

حضرت خالد نے اپنی پیش قدمی کے دوران میں نہایت دور اندیشی اور حکمت عملی سے کام لیا ۔ آپ جب کسی شہر کو فتح کرتے تھے تو دوسرے شہر کا رخ کرنے سے پہلے اس شہر کی حفاظت کے لئے فوج کا ایک دستہ وہاں متعین کر دیتے تھے اور نظم و نسق چلانے اور خراج وصول کرنے کے لئے اپنے عاملوں کو وہاں مقرر کر دیتے تھے ۔ اس طرح فوج کی پشت کی حفاظت کا بھی انتظام ہو جاتا تھا اور مفتوحہ علاقے کی طرف سے بھی پورا اطمینان ہو جاتا تھا ۔ فتح کے بعد وہ کاشتکاروں کو امان دیدیتے تھے اور گونا گوں مہربانیوں اور رعایتوں سے انہیں متمتع کر کے اور ان کے حاکموں کے ظلم و ستم سے انہیں

نجات دلا کر ان کے دلوں کو سوہ لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عام طور پر یہ لوگ اسلامی فوج کا خیر مقدم کرتے تھے اور جب تک انہیں حکومت کی طرف سے مجبور نہ کر دیا جاتا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑتے تھے۔ ایرانی حاکموں نے ایسی رعایا کو اپنا غلام سمجھ رکھا تھا اور وہ ہر قسم کا ظلم و ستم ان پر روا رکھتے تھے۔ یہ لوگ جب یہ دیکھتے کہ مسلمانوں نے انہیں مساوی حقوق دے دئے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کے لامتناہی سلسلے کو روک دیا ہے تو قدرتی طور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے اور وہ حتی المقدور مسلمانوں کی مدد کے لئے تیار رہتے تھے۔

مسلمان، ایران کے مفلس کاشتکاروں اور غریب رعایا جس قدر سہربان تھے سرداران سلطنت اور فوجوں کے معاملے میں اتنے ہی سخت گیر تھے۔ میدان جنگ میں ان سے مطلق صبر ہو سکتا تھا۔ لڑائی میں ان کی نظریں زیادہ تر سپہ سالاروں اور سرداروں پر ہوتی تھیں۔ وہ تاک تاک کر ان پر حملے کرتے تھے اور انہیں قتل کرنے کے درپے رہتے تھے۔ اس طرح ان فوج پر مسلمانوں کا زبردست رعب بیٹھ جاتا تھا اور وہ سپہ سالار اور سرداروں کے مرنے سے دل شکستہ ہو کر ہار بیٹھتی تھی اور بہت جلد شکست کھا جاتی تھی۔ مسلمان فوج یاب ہو جانے پر تو بہت کم حالتوں میں فوج کی جان بخشی کرتے تھے بلکہ اسے گھیرنے میں لے کر بری طرح قتل کر ڈالتے تھے اس وقت ان کے دلوں سے رحم کوسوں دور ہوتا تھا۔

ایرانی حاکموں اور سرداروں کو چاہئے تھا کہ دو تین مسلمانوں کی تلواروں کی دھار کا مزا چکھ لینے کے بعد عبرت پکڑیں اور حضرت خالد کے سامنے سراطاعت خم کر کے اپنے آپ کو تسلیم کر لیں۔

تباہی اور بربادی سے بچا لیتے۔ لیکن جب قضا آجاتی ہے تو عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ہماری غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو تین کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ جب ہماری زبردست فوجیں ان کے مقابلے کے لئے میدان جنگ میں نکلیں گی تو مسلمانوں کے ہوش ٹھکانے آجائیں گے اور آئندہ انہیں کبھی ہمارے مقابلے پر آنے کی جرأت نہ ہوگی۔ ان کی یہ زبردست فوجیں بارہا ہر قسم کے ساز و سامان کے ساتھ، بہترین جرنیلوں کی زیر سرکردگی میں میدان جنگ میں آئیں لیکن انہوں نے بھی ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پایا۔ خدائی منشاء پورا ہوا اور تھوڑے ہی عرصے میں پرشکوہ ایرانی شہنشاہیت کی صف ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لپیٹ دی گئی۔

حضرت خالد نے ان جنگوں میں مسلمانوں کی جو خدمات سرانجام دیں وہ رہتی دنیا تک یادگار رہیں گی اور مسلمان انہیں کبھی نہ بھول سکیں گے۔ ان جنگوں کا اسلامی فوجوں پر بڑا دور رس اثر پڑا۔ جو فوجیں عراق کے میدانوں میں کسری کے جرار لشکروں کے مقابلے میں نبرد آزما ہوئیں وہ اپنی جائیں ہتیلیوں پر رکھ کر لڑتی تھیں۔ اس طرح ان میں جو بے نظیر جرأت، دلیری اور شجاعت پیدا ہوئی اس نے آئندہ جنگوں کو مسلمانوں کے لئے بالکل معمولی بنا دیا اور انہوں نے بڑی آسانی سے ساری ایرانی سلطنت کو زیر کر لیا۔

ان جنگوں کا، جو عراق میں لڑی گئیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان منظم اور جرار لشکروں سے مقابلہ کرنے کے عادی ہو گئے۔ ان جنگوں کے دوران میں انہیں جنگ کے مختلف طریقوں سے بھی کماحقہ واقفیت پیدا ہو گئی۔ کبھی انہیں قلعہ

بند فوج سے مقابلہ پیش آتا تھا تو کبھی دونوں فوجوں کے درمیان دریا یا نہر حائل ہو جاتی تھی اور مناسب حال مختلف طریقے استعمال کرنے پڑتے تھے۔ کبھی دو بدو جنگ ہوتی تھی تو کبھی شبخون مارا جاتا تھا اور رات کے اندھیرے دشمن کی فوج کا ٹھکانا کر دیا جاتا تھا۔

مسلمانوں نے جب جنگ کے ان مختلف طریقوں کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ حضرت خالد نے فوج کے بچاؤ کے لئے کیا تدابیر اختیار کیں اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لئے کن کن طریقوں سے کام لیا تو ان کے جنگی تجربوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور جنگی علوم و فنون سے انہیں پوری پوری واقفیت ہو گئی ان بیش بہا تجربات کے بعد ان کی جھجک اور خوف و ہراس دور ہو گیا اور انہوں نے بڑے بڑے جرار لشکروں کا مقابلہ پورے بے خوفی اور جرأت سے کیا اور بارہا اپنے سے کئی فوجوں کو شکستوں پر شکستیں دیں۔

حضرت خالد عراق میں ایک سال دو ماہ تک رہے (محرم ۱۲ سے لے کر صفر ۱۳ ھ تک)۔ اس قلیل عرصے میں آپ نے تقریباً پندرہ جنگوں میں حصہ لیا۔ ان تمام جنگوں میں آپ کا مقابلہ آن عظیم الشان فوجوں سے ہوا جو نہ صرف تعداد میں اسلام لشکر سے بہت زیادہ تھیں بلکہ نئے نئے سامان جنگ سے بھی پورے طرح لیس تھیں۔ لیکن فوج کی قلت اور سامان جنگ کی کمی کے باوجود ہر موقع پر حضرت خالد ہی فتح یاب ہوئے اور دشمن کو ہمیشہ ہی بری طرح شکست کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد نے اتنی تھوڑی مدت میں بہت ہی قلیل فوج ساتھ جو کام کر دکھایا وہ آج تک کوئی بڑے سے بڑا جرنیل بڑی سے بڑی فوج کے ساتھ بھی نہ کر سکا۔ جس فوج

حضرت خالد موجود ہوتے تھے وہ سمجھتی تھی کہ اکیلے خالد ہی دشمن کی پوری فوج پر بھاری ہیں۔ ادھر دشمن کی صفوں میں گھبراہٹ، بے چینی اور خوف کا تسلط ہو جاتا تھا اور وہ کبھی اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔

ان فتوحات کا اسلامی فوجوں پر جو اثر تھا اور وہ انہیں جس نظر سے دیکھتی تھیں اس کی ایک جھلک ابن الہیشم بکائی کے مندرجہ ذیل بیان میں نظر آتی ہے :-

”میرے والد بیان کرتے تھے کہ کوفہ کے وہ لوگ جو عراق کی جنگوں میں نبرد آزما رہ چکے تھے جب معاویہ کو اپنے ساتھ کوئی زیادتی کرتے دیکھتے تو کہا کرتے تھے کہ آخر معاویہ کیا چاہتے ہیں؟ انہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ ہم جنگ ذات السلاسل کے شہسوار ہیں جو عراق میں حضرت خالد کی پہلی جنگ تھی۔ وہ لوگ ذات السلاسل سے لے کر فراض تک کی جنگوں کو اس فخر و شان سے بیان کرتے تھے کہ گویا ان سے قبل اور بعد کی لڑائیاں بالکل ہیچ تھیں*“۔

شام میں حضرت خالد کی فتوحات

شام کی فتوحات عراق کی فتوحات کے بعد شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے ۱۳ھ کے آغاز میں حضرت صدیق نے شام کی جانب فوجیں روانہ کیں۔ ابتدا میں ان فوجوں کا سپہ سالار آپ نے خالد بن سعید کو مقرر کیا تھا۔ لیکن ان کی روانگی سے پہلے ہی حضرت عمر کے اصرار پر انہیں اس کے بجائے تیہاء* میں امدادی دستے پر متعین کر دیا اور ان کی جگہ یزید بن ابوسفیان کو امیر مقرر کر کے سات ہزار فوج کے ساتھ شام بھیج دیا۔ شام کو روانہ ہونے والے امراء میں یزید سب سے پہلے امیر ہیں۔ یزید کی روانگی کے بعد حضرت صدیق نے شام کی جانب یہ تین سپہ سالانہ روانہ فرمائے: شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن الجراح اور عمرو بن العاص۔ آپ نے نہ صرف ہر ایک سپہ سالار کی منزل مقصود ہی متعین کر دی بلکہ وہ علاقہ بھی مقرر فرما دیا۔

* تیہاء کی بستی، شام کی سرحد پر شام اور وادی قری کے درمیان اس راستے پر واقع ہے جس سے اہل شام اور اہل دمشق حج کے لئے آتے ہیں۔ اسی جگہ سموال بن عادیا یہودی کا مشہور قلعہ بنا ہوا تھا اس لئے اس کو ”تیہاء الیہودی“ کہتے تھے (معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۴۴۲)۔

فتح کے بعد جہاں کا انہیں والی بننا تھا۔ چنانچہ یزید بن ابوسفیان* کو دمشق، شرحیل بن حسنہ کو اردن، ابو عبیدہ بن الجراح کو حمص اور عمرو بن العاص کو فلسطین کیلئے امیر بنایا گیا۔†

یہ تمام امراء مدینہ سے چل کر شام پہنچے۔ یزید بلقاء پہنچے۔ شرحیل کی منزل اردن تھی، ابو عبیدہ کی جایہ اور عمرو بن العاص کی عربہ۔ جب رومیوں کو ان امراء کی آمد کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ہرقل کو جو اُس وقت بیت المقدس میں تھا، تمام حالات سے مطلع کیا۔ چنانچہ ہرقل وہاں سے حمص پہنچا اور ایک عظیم الشان لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لئے تیار کیا۔ ہرقل کے پاس فوجوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ہر اسلامی سپہ سالار کے مقابلے میں اس کی فوج سے کئی گنی فوج تیار کی اور اسے ہر قسم کے سامان حرب اور اسلحہ سے لیس کیا۔ رومیوں کی اس عظیم الشان تیاری کو دیکھ کر مسلمانوں کو بڑا خوف محسوس ہوا اور انہوں نے عمرو بن العاص اور حضرت صدیق کے پاس قاصد بھیجے کہ اب کیا کیا جائے۔ عمرو بن العاص نے تمام

* یہ سپہ سالار اسی ترتیب سے مدینہ سے شام روانہ ہوئے (الطبری جلد ۴ صفحہ ۳۹)۔ ان میں سے سوائے شرحیل کے باقی تمام سپہ سالار قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ شرحیل قبیلہ کنندہ اور بعض روایات کے بموجب قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے (الطبری جلد ۴ صفحہ ۳۹۔ فتوح البلدان بلاذری صفحہ ۱۱۴)۔

† حضرت ابو بکر صدیق کے اس فعل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں تائید الہی کا اس درجہ یقین تھا کہ امراء کی روانگی اور دشمن سے جنگ کرنے سے پہلے ہی ہر اسیر کا علاقہ جہاں کا آئے والی بننا تھا مقرر کر دیا۔

سپہ سالاروں کو کہلا بھیجا کہ میری رائے میں بہترین صورت یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں کیونکہ اگر ہم اکٹھے ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے تو باوجود ہماری قلت تعداد کے دشمن ہم پر غلبہ نہیں پاسکے گا۔ لیکن اگر ہم الگ الگ رہے تو ہم میں سے ایک متنفس بھی باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے مقابلے پر بڑی بڑی فوجیں تیار کی گئی ہیں۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ یرموک کے مقام پر تمام اسلامی فوجیں جمع ہو جائیں اور وہاں اکٹھے ہو کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔

حضرت صدیق نے بھی مسلمانوں کو وہی مشورہ دیا جو عمرو بن العاص نے چکے تھے۔ آپ نے انہیں لکھا :-

”تم سب جمع ہو کر ایک لشکر کی شکل اختیار کر لو اور اپنی پوری جمعیت کے ساتھ مشرکین کی فوجوں سے لڑو۔ تمہارا شمار اللہ تعالیٰ کے مددگاروں میں ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تم جیسے لوگ قلت تعداد کی وجہ سے کبھی مغلوب جنگ نہیں ہو سکتے۔ دس ہزار بلکہ اس سے کہیں زیادہ بھی اگر گناہوں کے طرف دار بن کر آئیں گے تو وہ دس ہزار سے بھی ذلیل و مغلوب ہو جائیں گے۔ تم گناہوں سے بچو اور یرموک کے مقام پر مل کر کام کرنے کے لئے جمع ہو جاؤ۔ تم میں سے ہر ایک اپنی فوج کے ساتھ نماز ادا کرے۔“

* الطبری جلد ۳ صفحہ ۳۱ - عمرو بن العاص اور حضرت صدیق

(باقی صفحہ ۲۳۷ پر)

جب ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمان یرسوک پر جمع ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے سپہ سالاروں کو لکھا کہ تم مسلمانوں کے مقابلے کے لئے روسی فوجوں کو ایسے مقام پر ٹھہراؤ جس میں کافی گنجائش اور وسعت ہو اور بھاگنے والوں کے لئے راستہ تنگ ہو۔ ہرقل سے یہ بات پوشیدہ نہ تھی کہ مسلمان اس معرکے میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے اور کہ وہ اس ارادہ سے آئے ہیں کہ یا وہ روسی لشکر کو فنا کر دیں گے یا خود فنا ہو جائیں گے اس لئے یہ معرکہ مسلمانوں اور روسیوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوگا، اگر اس میں مسلمان کامیاب نہ ہو سکے تو آئندہ وہ شام کے دوسرے شہروں پر چڑھائی کرنے کی کبھی جرأت نہ کر سکیں گے اور اگر روسی کامیاب نہ ہو سکے تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شام سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ چنانچہ ہرقل نے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نہایت عظیم الشان لشکر تیار کیا۔ لشکر کے سالاروں کے تعین کے علاوہ اس نے کئی پادری اور راہب بھی اس کام کے لئے مقرر کئے کہ وہ لشکر میں پھر کرانجیل کی آیات پڑھتے رہیں اور روسیوں کو جنگ کے لئے جوش دلاتے رہیں۔

روسی سالاروں نے ہرقل کے احکام کے مطابق واقوصہ میں اپنی فوجوں کو ٹھہرایا۔ واقوصہ کی وادی، دریا ئے یرسوک کے کنارے واقع ہے۔ اس وادی نے ان کے لئے خندق کا کام دیا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳۶)

دونوں کی یہ رائے کہ یرسوک کے مقام پر روسیوں سے مقابلہ کیا جائے ہماری اس رائے کو (جس پر مفصل بحث ہم بعد میں کریں گے) تقویت پہنچاتی ہے کہ معرکہ یرسوک جنگ اجنادین سے قبل وقوع میں آیا۔

روسی سرداروں کی یہ زبردست گوشش تھی کہ ان کے لشکر سے مسلمانوں کا خوف اور دہشت نکل جائے تاکہ وہ اطمینان سے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں ہیں اور روسیوں کا لشکر ان سے کئی گنا ہے تو انہوں نے اپنی فوج کو حوصلہ اور فتح کا یقین دلانا شروع کیا۔ ادھر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ روسی لشکر واقوصہ پہنچ گیا تو انہوں نے اپنی جائے اجتماع سے اٹھ کر روسیوں کے بالکل سامنے روسیوں کے راستے پر پڑاؤ ڈال دیا جس سے روسیوں کا راستہ بالکل مسدود ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو بن العاص پکار اٹھے ”لوگو تمہیں مبارک ہو۔ روسی بالکل محصور ہو گئے ہیں۔ اب وہ تمہارے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔“

مسلمان صفر سے لے کر ربیع الثانی ۱۳ھ تک روسیوں کے سامنے ان کا راستہ روکے پڑے رہے۔ نہ وہ روسیوں کا کچھ بگاڑ سکتے اور نہ ان تک پہنچ ہی سکتے۔ واقوصہ کی گھاٹی روسیوں کے پیچھے تھی اور خندق ان کے آگے۔ جب کبھی وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتے، مسلمان انہیں پیچھے ہٹا دیتے۔

مسلمانوں نے ابتداء ہی میں (یعنی ماہ صفر میں) روسیوں کے عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر حضرت صدیق کی خدمت میں مدد بھیجنے کے لئے درخواست روانہ کر دی تھی۔ جب قاصد یہ درخواست لے کر آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا ”مسلمانوں کی مدد کے لئے خالد جائیں گے۔ خدا کی قسم خالد بن ولید روسیوں کے دماغوں سے شیطانی وسوسے نکال دے گا“ چنانچہ آپ نے حضرت خالد کو وہ خط لکھا جس کا ذکر قبل ازیں کیا جا چکا ہے اور جو حضرت خالد کے حج کرنے اور حیرہ پہنچنے کے بعد انہیں ملا۔ حضرت صدیق کا حکم یہ تھا کہ خالد

سُئِلَ بِنِ حَارِثَةَ كَوِ نَصْفِ لَشْكَرِ كِ سَاثُو عِرَاقِ مِیْنِ چھوڑ دین اور باقی نصف لشکر کے ہمراہ خود شام روانہ ہو جائیں اور جب خدا تعالیٰ مسلمانوں کو شام میں فتح سے ہم کنار کر دے تو خالد اپنے مفوضہ کام کی بجا آوری کے لئے واپس عراق آجائیں۔ جب حضرت خالد کو یہ حکم ملا تو آپ نے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے ان لوگوں کو چنا جنہیں رسول اللہ کی صحبت اور ہم نشینی کا شرف حاصل تھا۔ سُئِلَ نِیْ كَمَا كَہَا كَہ تَقْسِیْمِ اسی طرح ہونی چاہیئے جس طرح حضرت صدیق نے حکم دیا ہے تاکہ رسول اللہ صلعم کے صحبت یافتہ افراد کی نصف تعداد میرے حصہ میں بھی آسکے۔ آخر حضرت خالد کو سُئِلَ كِی بَاتِ مَانِیِ پڑی*۔

حضرت خالد حیرہ سے چل کر قراقر پھنچے وہاں سے آپ نے سوی پھنچنا چاہا کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ اگر آپ معروف راستے سے گئے تو روسی آپ کو راستے میں روک لیں گے اور مسلمانوں کی امداد کے لئے نہ پھنچنے دیں گے۔ اس لئے ایسے راستے سے جانا چاہیے جس سے آپ روسیوں کے عقب میں پھنچ جائیں۔ اس راستے سے جانے کے لئے آپ نے رہبر طلب فرمایا۔ لوگوں نے رافع بن عمیرۃ الطائی کا نام بتایا۔ جب آپ نے اس سے راستہ بتانے کو کہا تو وہ کہنے لگا ”آپ گھوڑوں اور اتنے

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۴۰ - ۴۲ -

† یاقوت معجم البلدان میں لکھتے ہیں کہ قراقر عراق کی سرحد کے قریب ساوہ کے علاقے میں بنو کلب کا چشمہ تھا (جلد ۷ صفحہ ۴۴)۔ سوی قبیلہ بہراء کا چشمہ تھا اس کے دوسری طرف کا علاقہ شام سے متصل تھا (الطبری جلد ۴ صفحہ ۴۱)۔

ساز و سامان کے ساتھ اس راستے سے نہیں گزر سکتے۔ وہ راستہ ایسا ہے کہ اس پر سے صرف ایک سوار گزر سکتا ہے اور وہ بھی بے خوف و خطر نہیں۔ پوری پانچ راتوں کا سفر ہے۔ راستے سے بھٹکنے کے خوف کے علاوہ پانی کا بھی کمپن نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا ”خواہ کچھ ہو جائے مجھے تو اسی راستے سے جانا ہے کیونکہ مجھے امیرالمومنین نے بے حد ضروری حکم دیا ہے۔ تم بتلاؤ اس راستے سے چلنے کے لئے کیا کیا انتظامات کئے جائیں“۔ رافع نے کہا ”اگر آپ ضرور اسی راستے سے جانا چاہتے ہیں تو پھر لوگوں کو حکم دیجئے کہ وہ بہت سا پانی ساتھ لے لیں اور جس جس سے ہوسکے وہ اپنی اونٹنی کو پانی پلا کر اس کا کان باندھ دے کیونکہ یہ سفر بے انتہا خطرات کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ بیس اونٹنیاں بڑی موٹی تازی اور عمر رسیدہ مہیا کی جائیں“۔ حضرت خالد نے رافع کو ان کی خواہش کے مطابق اونٹنیاں مہیا کر دیں۔ رافع نے پہلے انہیں خوب پیاسا رکھا۔ جب وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئیں تو انہیں خوب پانی پلایا۔ جب وہ خوب سین ہو گئیں تو ان کے ہونٹ چھید کر باندھ دئے تاکہ جگالی وغیرہ نہ کر سکیں اس کے بعد حضرت خالد سے کہا کہ اب فوج کو کوچ کا حکم دیجئے۔ خالد لشکر اور ساز و سامان کو لے کر اس کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جہاں کہیں پڑاؤ کرتے، ان سین سے چار اونٹنیوں کے پیٹ چاک کرتے جو کچھ ان کے معدے سے نکلتا وہ گھوڑوں کو پلا دیتے اور جو پانی ساتھ تھا وہ خود پیتے۔

جب صحراء میں سفر کا آخری دن یا تو حضرت خالد نے رافع سے، جنہیں آشوب چشم کی شکایت تھی، کہا کہ پانی

ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے۔ رافع نے جواب دیا ”گھبرائیے نہیں۔ ہم انشاء اللہ جلدی پانی تک پہنچ جائیں گے“۔ تھوڑی دور آگے چل کر جب فوج دو ٹیلوں کے پاس پہنچی تو رافع نے لوگوں سے کہا ”دیکھو یہاں عوسج کی کوئی جھاڑی آدمی کے سرین کے مانند نظر آتی ہے“؟ انہوں نے کہا ”ہمیں تو ایسی کوئی جھاڑی نظر نہیں آتی“۔ اس پر رافع نے گھبرا کر کہا ”انا لله وانا اليه راجعون۔ افسوس اب تم بھی ہلاک ہوئے اور میں بھی ہلاک ہوا۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو جس طرح ہوسکے اسے ڈھونڈ نکالو“۔ آخر بڑی تلاش سے وہ جھاڑی ملی مگر کسی نے اسے کاٹ دیا تھا اور صرف اس کا تنہا باقی رہ گیا تھا۔ جھاڑی سلنے پر مسلمانوں نے بڑے زور سے تکبیر کہی۔ رافع نے کہا ”اب اس جھاڑی کی جڑ کے قریب مٹی کھو دو۔“ مٹی کھودنے سے وہاں ایک، چشمہ نکل آیا جس سے سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد راستے میں حضرت خالد کو کوئی دقت اور پریشانی لاحق نہیں ہوئی اور وہ جلد جلد سفر طے کرتے ہوئے سویل پہنچ گئے۔ اسی واقعہ کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے :

لله عینا رافع انی اھتدی
فوز من قراقر الی سوی
خمسا اذا ما سارھا الجیش بکی
ما ما رھا تہلک من انس یری

(خدا تعالیٰ رافع کو جزائے خیر دے۔ اس نے قراقر سے لے کر سویل تک کے راستے میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ جب لشکر اس راستہ پر سے گزرا تو اسے پانچ روز تک سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ راستہ انتہائی کٹھن اور دشوار گزرا تھا

اور اس سے قبل کسی انسان کا اس پر سے شاید ہی گزر ہوا ہو)

جب حضرت خالد صبح سے ذرا پہلے سوی پہنچے تو پہنچتے ہی آپ نے بستی پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ایک جماعت شراب نوشی میں مشغول تھی۔ درمیان میں شراب کا کونڈا رکھا تھا اور مغنی جس کا نام حرقوص تھا، یہ اشعار گا رہا تھا :

الا عللانی قبل جیش ابی بکر
لعل منایانا قریب و ماندری
اظن خیول المسلمین و خالداً
میطر قبکم قبل الصباح من البشر*

(اے دوستو! مجھے ابوبکر کے لشکر کے پہنچنے سے قبل شراب پلا دو۔ شاید ہماری موت کا وقت قریب ہو اور ہم اس سے بے خبر ہوں۔ میرا خیال ہے کہ صبح سے قبل مسلمانوں کا لشکر خالد کی سرکردگی میں بشر کی طرف سے تم پر حملہ کر دے گا)۔

کسی کو یہ سان و گان بھی نہ تھا کہ ”ابوبکر لشکر“ اس ہیبت ناک اور پر خوف و پر خطر جنگل سے گزر کر عین اسی وقت ان کے سروں پر پہنچ سکتا ہے۔ حضرت خالد نے پہنچتے ہی مغنی پر حملہ کر کے اس کی گردن اڑا دی اور اس کا سر کونڈے میں جا پڑا۔ وہاں سے مسلمان مال غنیمت حاصل کر کے آگے بڑھے اور ارکح پہنچے۔ وہاں کے

* الاغانی جلد اول صفحہ ۱۴۳ -

† ارکح، صحرائے حلب کے آخر میں تدمر کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس کی نواحی زمین، سرسبز و شاداب ہے اور وہاں کھجور اور زیتون کے درخت کثرت سے ہیں۔ (معجم البلدان جلد اول صفحہ ۱۹۵)۔

باشندوں نے مصالحت کر لی ۔ ارک سے آپ تدمر* پہنچے ۔ وہاں کے باشندے قلعہ بند ہو گئے لیکن آخر کار انہوں نے صلح کر لی ۔ تدمر سے آپ قریتین† پہنچے ۔ اس کے باشندوں نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی ۔ وہاں سے مال غنیمت حاصل کر کے آپ نے حواریں‡ کا رخ کیا ۔ وہاں سے باشندے بھی لڑائی کے لئے تیار تھے ۔ لڑائی ہوئی جس میں انہیں شکست ہوئی ۔ حضرت خالد نے وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا ۔ وہاں سے چل کر آپ قصبہ* پہنچے ۔ وہاں کے باشندوں نے جو قضاۃ کی شاخ ، بنو مشجعہ سے تعلق رکھتے تھے ، صلح کر لی ۔ وہاں سے روانہ ہو کر اور رسول اللہ کا سپاہ علم ”عقاب“ اڑاتے ہوئے ثنیۃ العقاب* پہنچے ۔ وہاں سے مرج راهطکا روانہ ہوئے ۔

* تدمر ، صحرائے شام میں ایک پرانا اور مشہور قصبہ ہے ۔ اس کے اور حلب کے درمیان پانچ دن کی مسافت ہے (معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۳۶۹) ۔

† قریتین ، صحرائے شام میں حمص کے علاقے میں ایک بڑا قصبہ ہے (معجم البلدان جلد ۷ صفحہ ۷۰) ۔

‡ حواریں ، حلب کے علاقے میں ایک قصبہ ہے (معجم البلدان جلد ۳ صفحہ ۳۵۸) ۔

* قصبہ ، عراق کی سرحد پر صحرائے شام کے قریب ایک بستی ہے (معجم البلدان جلد ۷ صفحہ ۱۱۳) ۔

* ثنیۃ العقاب ، دمشق کے شمال میں ایک درہ ہے ۔ یہاں سے دمشق اور غوطہ کا میدان سامنے نظر آتا ہے ۔ یہیں سے راستہ لپٹتا ہے ، ایک سڑک جنوب میں دمشق کو چلی جاتی ہے اور (باقی صفحہ ۲۴۴ پر)

یہاں غسانیوں سے ان کی مڈھ بھیڑ ہوئی آپ نے انہیں شکست دے کر وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہاں سے آپ نے فوج کا ایک دستہ غوطہ کی جانب روانہ کیا جو کامیاب و کامران ہو کر واپس آ گیا۔ مرج راھط سے چل کر آپ بصری* پہنچے وہاں کے باشندے پہلے تو مقابلے پر آئے لیکن پھر صلح کر لی بصری شام کا پہلا شہر ہے جو حضرت خالد اور عراقی فوج کے ہاتھ پر صلح کے ذریعے فتح ہوا۔ حضرت خالد نے خمس حضرت صدیق کی خدمت میں روانہ کیا اور آگے چل کھڑے ہوئے اور ماہ ربیع الاول میں یرموک پہنچ گئے۔ عین اسی زمانے میں باہان

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۳)

دوسری صحرائے ساویہ کے کنارے کنارے عراق کو چلی گئی ہے۔ دمشق سے حمص جانے کے لئے یہیں سے گزرتے ہیں۔ (بلاد فلسطین و شام مؤلفہ جی لی اسٹرینج صفحہ ۷۱۸)۔

* مرج راھط، دمشق کے مشرق میں غوطہ کے ایک سبزہ زار کا نام ہے۔ (معجم البلدان جلد ۴ صفحہ ۲۱۷ و جلد ۸ صفحہ ۱۶)۔

* بصری، شام کے صوبہ حوران کا صدر مقام ہے (معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۲۰۸)۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت خالد کے پہنچنے سے پہلے ہی ابو عبیدہ، شرجیل بن حسنہ اور یزید یہاں موجود تھے اور ان سب سرداروں نے مل کر شہر کو فتح کیا۔ اس کے بعد وہ حضرت عمرو بن العاص کی مدد کے لئے فلسطین چلے گئے۔ لیکن ہمارے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بصری کو صرف حضرت خالد نے فتح کیا اور ان سب سالاروں سے آپ یرموک میں جا کر ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خطوط اور دیگر واقعات سے بھی ہمارے بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

بھی روسی فوجوں کی مدد کے لئے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ پادری اور راہب بھی تھے جن کا کام روسیوں کو جنگ کے لئے ابھارنا اور جوش دلانا تھا۔ مسلمان حضرت خالد کے پہنچے پر خوش تھے اور روسی باہان کے پہنچے پر۔

ان جنگوں کے ذکر سے پہلے، جو حضرت خالد کو شام میں پیش آئیں، اس بات کا فیصلہ کر لینا ضروری ہے کہ ان جنگوں میں حضرت خالد کی حیثیت کیا تھی۔ آیا ان کی حیثیت شام میں سپہ سالار اعظم کی تھی یا وہ دوسرے مسلمان سرداروں کی طرح جو اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ روسیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے یرموک پہنچے تھے، صرف اپنی اس فوج کے سپہ سالار تھے جو عراق سے ان کے ساتھ آئی تھی؟

کیا حضرت خالد شامی افواج کے سپہ سالار اعظم تھے؟

حضرت خالد کی حیثیت کے متعلق مؤرخین کی بیان کردہ روایات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ طبری کی بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت صدیق نے خالد کو افواج شام کا سپہ سالار اعظم بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ”حضرت ابوبکر صدیق نے ان افواج کو یرموک کے مقام پر مجتمع ہو جانے کا حکم دیا اور عراق سے حضرت خالد بن ولید کو ان سب کا سپہ سالار بنا کر بھیجا*“ اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں ”شام میں ابو عبیدہ، شرحبیل، یزید اور عمرو بن العاص اپنی اپنی فوجیں لئے ہوئے موجود تھے۔ ان تمام فوجوں کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے†“ طبری کے علاوہ ایک اور مؤرخ مقدسی بھی لکھے ہیں کہ ”حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو عراق سے تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر شام بھیجا“۔ تاہم یہ روایات زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت خالد بن ولید صرف اس فوج کے سپہ سالار تھے جو ان کے ساتھ عراق سے آئی تھی۔ اس دعوے کے ثبوت میں مندرجہ ذیل امور پیش کئے جا سکتے ہیں۔

(۱) حضرت خالد کو امراء شام کی معاونت اور امداد

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۳۹ -

† الطبری جلد ۴ صفحہ ۵۱ -

لئے بھیجا گیا تھا ، ان پر اسیر بنا کر نہیں ۔

(۲) طبری میں مذکور ہے کہ جب یرموک پر تمام فوجیں اکٹھی ہو گئیں اور روسیوں سے جنگ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں تو ہر فوج حضرت صدیق کے حکم کے ماتحت اپنے ہی امیر کے پیچھے نماز ادا کرتی تھی ۔ البتہ بعض اوقات کوئی شخص کسی دوسرے امیر کے پیچھے بھی نماز ادا کر لیتا تھا ۔ جب حضرت خالد وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو ایک طرف ٹھہرایا اور علیحدہ نماز ادا کی ۔ اگر وہ سپہ سالار اعظم ہوتے تو انہیں علیحدہ نماز ادا کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ انہیں تو تمام فوجوں کا امام ہونا چاہئے تھا ۔

(۳) جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے تمام امراء کو اکٹھا کر کے انہیں یہ مشورہ دیا کہ موجودہ حالت میں علیحدہ علیحدہ جنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے ۔ مناسب یہ ہے کہ تمام فوجوں کو ملا دیا جائے اور باری باری ہر امیر قیادت کے فرائض انجام دے ۔ ساتھ ہی آپ نے یہ درخواست کی کہ اگلے روز کے لئے انہیں اسیر مقرر کر دیا جائے ۔ اگر آپ سپہ سالار اعظم ہوتے تو آپ کو ایسا مشورہ دینے اور ایسی درخواست کرنے کی کیا ضرورت تھی ؟


(۴) بلاذری نے لکھا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید بصری پہنچے اور اسلامی افواج سے ملے تو تمام سپہ سالاروں نے متفقہ طور پر آپ کو اپنا امیر منتخب کر لیا ۔ اس روایت سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد کو حضرت صدیق کی طرف سے سپہ سالار اعظم مقرر نہیں کیا گیا تھا بلکہ خود اسلامی افواج کے امراء نے آپ کی جنگی قابلیت کو دیکھ کر انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا ۔

۱۔ جنگ یرموک*

رومیوں سے لڑنے کے لئے مسلمانوں کی فوجیں یک جا نہیں تھیں بلکہ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے امیر کے ماتحت پڑی ہوئی تھیں۔ یہ صورت حال مسلمانوں کے لئے سخت خطر ناک تھی۔ رومیوں کے عظیم الشان لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی لشکر بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ طبری کے بیان کے بموجب رومیوں کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار کے لگ بھگ تھی لیکن مسلمانوں کی مجموعی تعداد چھتیس ہزار اور بعض روایات کے بموجب چھیالیس ہزار تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد کو بھی رومیوں کی عظیم الشان فوج کے مقابلے میں کوئی نسبت نہیں تھی چہ جائیکہ علیحدہ علیحدہ ہر لشکر کی کچھ حیثیت ہوتی۔


جب حضرت خالد یرموک پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ہر فوج اپنے اپنے امیر کے ماتحت علیحدہ علیحدہ مقیم ہے اور علیحدہ ہی نماز پڑھتی ہے تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کو علیحدہ



* سید امیر علی یرموک کے متعلق لکھتے ہیں ”یرموک ایک غیر معروف دریا ہے جو حوران کی سطح سے نکل کر جھیل گیلیا کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر دریائے اردن میں جا گرتا ہے دونوں دریاؤں کے مقام اتصال سے تیس میل اوپر دریائے یرموک نصف دائرے کی صورت میں ایک چکر کاٹتا ہے جس سے اس وسیع میدان بن جاتا ہے کہ اس میں ایک پوری فوج سما سکتی ہے۔ اس دریا کے کنارے پر گہرے کھڈ تھے۔ اسی گھاٹی کو واقوصہ کہتے ہیں جسے اسلامی تاریخ میں زبردست شہرہ حاصل ہے“ (تاریخ اسلام از سید امیر علی صفحہ ۷۳)۔



دقتاً (العراقین اور اجمیرہ)
 اس نقشہ سے بعض ان مقامات کی نشان دہی ہو جاتی ہے
 جن کا ذکر فتوحات اسلام کے دوران میں آتا ہے۔

صحرائے نام





نقشه کوچه و بازار

ہی ٹھہرایا اور علیحدہ ہی نماز پڑھی۔ اس وقت مسلمان روسیوں کی عظیم الشان فوج کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے اور روسی باہان اور اس کی فوجوں کے آنے سے خوش تھے۔ حضرت خالد کے پہنچنے پر طرفین میں لڑائی شروع ہوئی۔ بالآخر روسیوں نے شکست کھائی اور وہ پسپا ہو کر خندقوں تک ہٹ گئے۔ ایک مہینے تک یہ لوگ لڑائی کے لئے آگے نہ بڑھے۔ پادری اور راہب اس عرصے میں انہیں جوش و خروش دلاتے رہے اور یہ کہہ کر ان کے مذہبی جذبات کو ابھارتے رہے کہ اگر اس موقع پر تم نے بزدلی دکھائی تو پھر عیسائیت کا خاتمہ ہے۔ پادریوں کی تدابیر کارگر ثابت ہوئیں۔ پورے ایک ماہ بعد روسی ایک ایسے ولولے اور جوش کے ساتھ میدان میں نکلے جس کی نظیر پہلے کبھی نہیں ملتی۔

جب مسلمانوں نے روسیوں کی جنگی تیاریاں دیکھیں تو وہ بھی بدستور سابق علیحدہ علیحدہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت خالد نے اس طریقے کو پسند نہ کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ اس طرح روسیوں کا پہلہ بھاری رھیگا اور مسلمانوں کو سراسر نقصان پہنچے گا۔ روسیوں کا لشکر ڈھائی لاکھ اشخاص پر مشتمل ہے اور ایک کمان کے تحت پوری طرح منظم ہے۔ اگر اسلامی فوجوں نے ان سے علیحدہ علیحدہ جنگ کی تو مسلمانوں کے حصے میں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پانچوں اسلامی فوجوں کو ایک ہی نظام میں منسلک کر دیا جائے اور وہ ایک ہی امیر کے ماتحت منظم اور مجتمع ہو کر دشمن سے جنگ کریں۔ چنانچہ آپ نے تمام امراء کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:۔

”آج کا دن اللہ کے اہم ترین دنوں میں سے ہے۔ آج کسی

کے لئے فخر و مباہات اور خود رائی و خود ستائی مناسب نہیں۔
 جہاد خالص اللہ کے لئے کرو اور اپنے اعمال کو اللہ کی خوشنودی
 کا ذریعہ بناؤ۔ یاد رکھو آج کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔
 ایک ایسی قوم سے جو ہر طرح منظم اور مرتب ہے تمہارا
 علیحدہ علیحدہ لڑنا کسی صورت میں بھی مناسب نہیں۔ اگر انہیں
 جو تم سے دور ہیں (یعنی حضرت صدیق) تمہارے حالات کا علم
 ہوتا تو وہ کبھی تمہیں اس طرح لڑنے کی اجازت نہ دیتے۔ بے شک
 تمہیں ان کی طرف سے کوئی حکم تو نہیں ملا لیکن تم اس معاملے
 کو اس طرح سرانجام دو گویا یہ تمہارے خلیفہ اور اس کے
 خیر خواہوں کا حکم ہے۔“

حضرت خالد کی تقریر سن کر امراء نے کہا ”آپ ہی فرمائیے
 کہ آپ کی کیا رائے ہے؟“۔ آپ نے فرمایا ”حضرت ابو بکر صدیق
 نے ہمیں اس خیال سے یہاں بھیجا تھا کہ ہم یہ مہم باسانی
 سر کر لیں گے۔ اگر انہیں موجودہ حالات کا علم ہوتا تو وہ
 ضرور تمہیں اکٹھا رکھتے۔ جن حالات میں سے تم گزر رہے ہو
 وہ پہلے واقعات کے مقابلے میں بہت سخت اور مشرکین کے لئے
 بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم علیحدہ علیحدہ
 ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو الگ الگ شہر
 کے لئے ناسزد کیا گیا ہے، لیکن اگر تم اس موقع پر کسی ایک
 شخص کو اپنا اسیر تسلیم کر کے اس کی اطاعت اختیار کر لو تو
 اس سے نہ تمہارے مراتب میں کوئی فرق پڑے گا اور نہ اللہ
 اور امیرالمومنین کے نزدیک تمہارا درجہ کم ہوگا۔ ذرا دیکھو
 تو سہمی دشمن نے کتنی زبردست تیاری کر رکھی ہے۔ یاد رکھو
 اگر آج ہم نے انہیں ان کی خندقوں میں دھکیل دیا تو ہم
 ہمیشہ انہیں دھکیلتے ہی رہیں گے لیکن اگر انہوں نے ہمیں

شکست دے دی تو ہم پھر کبھی کامیاب نہیں ہوسکیں گے۔ میری تجویز اس بارے میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو باری باری امارت کا موقع ملنا چاہئے۔ اگر آج ایک امیر ہے تو کل دوسرا، پرسوں تیسرا، اترسوں چوتھا۔ یہاں تک کہ ہر شخص کو امیر بننے کا موقع مل جائے گا۔ آج کے دن کے لئے تم مجھے امیر بنا دو۔“

حضرت خالد کی رائے نہایت معقول تھی۔ تمام امراء اس پر متفق ہو گئے اور پہلے روز کے لئے انہوں نے حضرت خالد کو امیر مقرر کر دیا۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ روسیوں کی یورش آج بھی عام دنوں کی طرح ہی ہوگی اور لڑائی بہر حال طول کھینچے گی، اس لئے باری باری ہر ایک کو امیر بننے کا موقع مل جائے گا۔

حضرت خالد نے لشکر کو جس طریقے سے مرتب کیا وہ عربوں کے لئے بالکل انوکھا تھا۔ آپ نے اسلامی لشکر کو اڑتیس دستوں میں منقسم کیا* اور فرمایا ”تمہارے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی کثرت تعداد پر نازاں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہی تدبیر مناسب ہے کہ ہم اپنی فوج کے بہت سے دستے بنا دیں تاکہ دشمن کو ہماری تعداد اصل سے بہت زیادہ نظر آئے۔“ قلب میں آپ نے اٹھارہ دستے رکھے اور ابو عبیدہ کو ان کا سردار بنایا۔ ان دستوں میں عکرمہ بن ابو جہل اور قعقاع بن عمرو بھی شامل تھے۔ سیمنہ پر آپ نے

* طبری جلد ۴ صفحہ ۳۳ و ۳۴ میں ان دستوں کے امراء کا ذکر تفصیل سے درج ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک دستہ کم و بیش ایک ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا۔

دس دستے متعین کئے اور ان کا سردار عمرو بن العاص کو بنایا۔ ان دستوں میں شرجیل بن حسنه بھی تھے۔ میسرہ پر دس دستے متعین کئے اور ان کا سردار یزید بن ابو سفیان کو مقرر کیا۔ ہر دستے کا علیحدہ سردار بھی تھا جو میمنہ، میسرہ اور قلب کے سرداروں سے احکام حاصل کرتا تھا۔ ان دستوں کے سردار لوگ تھے جو اپنی بہادری، جوانمردی اور شجاعت میں اپنی نظیر آپ تھے مثلاً قعقاع بن عمرو، عکرمہ بن ابو جہل، عیاض بن غنم، ہاشم بن عتبہ اور عبدالرحمان بن خالد بن ولید*۔

حضرت خالد نے اس ترتیب† کے علاوہ لشکر کا ایک ہر اوپر دستہ بھی بنایا تھا جس کا سردار، قیث بن اشیم کو مقرر کیا۔ قاضی کی خدمت حضرت ابوالارداء کے سپرد ہوئی۔ لشکر کے قاری حضرت مقداد تھے جو لشکر کو سورہ انفال (جس میں جہنم کا ذکر ہے) پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ سامان کے افسر حضرت عبداللہ بن سعود تھے۔ واعظ، ابو سفیان تھے۔ وہ لشکر پر گشت کرتے رہتے تھے اور ہر دستے کے سامنے ٹھہر کر کہتے تھے ”اللہ اللہ۔ تم حامیان عرب ہو اور دین اسلام کے مددگار تمہارے مدد مقابل حامیان روم اور شرک کے مددگار ہیں۔ اے اللہ! آج کی جنگ صرف تیرے نام کے لئے ہے۔ اے اللہ! اپنے بندوں پر اپنی مدد نازل فرما“۔

ان انتظامات سے یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ حضرت خالد

* حضرت خالد کے بیٹے کی عمر اس وقت اٹھارہ برس کی تھی (الطبری جلد ۴ صفحہ ۳۳)۔

† یہ ترتیب اور نظام اس نظام سے چنداں مختلف نہیں آج کل جنگوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔

بن ولید نے لشکر کی کہاں اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد مسلمانوں کی قوت میں ایزادی اور جوش و خروش اور دشمن پر فتح پانے کا عزم صمیم پیدا کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ دوسری طرف آپ نے دشمن کے دل میں، جو اپنی طاقت اور ثرت پر نازاں تھا، مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا اور اس کے نام عزائم پر اوس پڑ گئی۔

ان تمام انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد نے قلب کو، جس میں قعقاع بن عمرو اور عکرمہ بن ابو جبہل مامل تھے، آگے بڑھنے اور دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور جنگ شروع کر دی۔

جنگ کی آگ پورے زور شور سے بھڑک اٹھی تھی۔ ہر طرف گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور نیزوں اور تلواروں کی جھنکاروں کی رازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یکایک رومی فوج کے قلب کا سردار جرجہ اپنے لشکر سے نکلا اور مسلمانوں اور رومیوں کی صفوں کے درمیان آ کر پکارا کہ خالد میرے پاس آئیں۔ حضرت خالد، ابو عبیدہ کو اپنی جگہ متعین کر کے اس کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں سردار ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ ان کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں۔ جرجہ نے کہا 'اے خالد! میں تم سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے جوابات صحیح صحیح دینا، جھوٹ نہ بولنا کیوں کہ نریف آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نہ ہی مجھے دھوکا دینا کیوں کہ کریم النفس انسان کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیتا۔' اسی بات تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ

نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار * اُتاری تھی جو انہوں نے تمہیں دے دی اور اسی کی برکت ہے کہ جس قوم پر تم اس تلوار کو استعمال کرتے ہو وہ شکست کھا جاتی ہے؟“ حضرت خالد نے فرمایا ”نہیں“۔ جرجہ نے پوچھا ”پھر تمہیں سیف اللہ کیوں کھما جاتا ہے؟“۔ حضرت خالد نے جواب دیا ”اللہ نے ہم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ شروع میں تو ہم سب نے ان کا انکار کیا لیکن پھر ہم میں سے بعض نے انہیں قبول کر لیا اور ان کی اطاعت اختیار کر لی لیکن بعض بدستور انکار اور تکذیب کرنے لگے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے آپ کا انکار کیا، آپ سے دور دور رہے اور آپ سے لڑے۔ پھر اللہ نے ہمارے دلوں پر قبضہ کر کے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے نبی کی اطاعت اختیار کر لی۔ رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ تم اللہ کی تلوار ہو جسے اس نے مشرکین پر مسلط کیا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے میری فتح مندی کی دعا بھی فرمائی۔ اس وجہ سے میرا لقب سیف اللہ“

* بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے شان میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ خالد کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جو آسمان سے اُتری ہے۔ اس تلوار کے ذریعے خالد اپنے ہر دشمن کو شکست دے دیتے ہیں اور یہ تلوار انہیں رسول اللہ - مرحمت فرمائی تھی۔ اس بات کے زیادہ پھیلنے کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ مسلمان حضرت خالد کو ہمیشہ سیف اللہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سردار جس کا نام طبرہ نے جرجہ بن توذر، (جارج بن ٹیوڈورس) لکھا ہے عربی جانتا تھا کیوں کہ اس نے حضرت خالد سے بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کی (تاریخ اسلام مؤلفہ شیخ عبدالوہاب نجار صفحہ ۹۹)۔

پڑ گیا اور اسی وجہ سے میں مشرکوں کے لئے سب سے سخت
 مسلمان ہوں۔“ جرجہ نے کہا ”تم ٹھیک کہتے ہو۔ اچھا
 اب یہ بتاؤ کہ تم مجھے کن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہو؟“
 حضرت خالد نے فرمایا ”میں تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیتا
 ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور
 حضرت محمد مصطفیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اقرار
 کرو کہ رسول اللہ جو کچھ لائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔“
 جرجہ نے کہا ”اگر کوئی شخص ان باتوں کو قبول نہ کرے،
 تب کیا صورت ہوگی؟“ حضرت خالد نے جواب دیا ”تب وہ
 جزیہ ادا کرے۔ ہم اس کی جان و مال کے محافظ ہوں گے۔“
 جرجہ نے کہا ”اگر وہ جزیہ بھی ادا نہ کرنا چاہے؟“
 حضرت خالد نے فرمایا تب ہم اسے لڑائی کی دعوت دیں گے اور
 اس سے جنگ کریں گے۔“ جرجہ نے پوچھا ”اس شخص کا کیا
 رتبہ ہو گا جو آج تمہارے دین میں داخل ہو جائے اور تمہاری
 دعوت قبول کر لے؟“ حضرت خالد نے جواب دیا ”اللہ نے
 جو فرائض ہم پر عائد کئے ہیں ان کے لحاظ سے ادنیٰ، اعلیٰ،
 اول اور آخر سب برابر اور ہم رتبہ ہیں۔“ جرجہ نے پوچھا
 جو شخص آج تمہارے دین میں داخل ہو جائے کیا اسے وہی
 اجر اور ثواب ملے گا جو تمہیں ملے گا؟“ حضرت خالد نے
 جواب دیا ”بیشک اسے وہی اجر اور ثواب ملے گا جو ہمیں
 ملے گا، بلکہ ہم سے بھی زیادہ۔“ جرجہ نے پوچھا ”وہ کس
 طرح ثواب میں تمہارا ہم رتبہ ہو گا جب کہ تم اس سے پہلے
 اسلام قبول کر چکے ہو؟“ حضرت خالد نے جواب دیا
 ”جب ہم دین اسلام میں داخل ہوئے اس وقت رسول اللہ بقید
 حیات تھے۔ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ ہمیں زمین و

آسمان کی خبریں سناتے تھے۔ جس شخص کو وہ ایمان افروز نظارے دیکھنے کا موقع ملا جو ہم نے دیکھے اور ان آیات الہی کے سننے کا موقع ملا جو ہم نے سنیں، اس کے لئے تو لازم تھا کہ وہ اسلام لاتا اور رسول اللہ کی بیعت کرتا۔ لیکن تم لوگ، کہ جنہوں نے نہ وہ چیزیں دیکھیں جنہیں دیکھنے کا ہمیں موقع ملا اور نہ وہ عجیب و غریب باتیں سنیں جنہیں سننے کا ہمیں موقع ملا، اگر صدق دل اور خلوص نیت سے دین اسلام میں داخل ہو گے تو ہم سے افضل ہو گے۔ جرجہ نے یہ سن کر کہا ”مجھ سے قسمیہ کہو کہ تم نے مجھ سے یہ سب باتیں سچ کہی ہیں، مجھے دھوکا تو نہیں دیا اور میرا دل خوش کرنا تو نہیں چاہا؟“ حضرت خالد نے فرمایا ”میں اللہ کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ مجھے تمہارا یا کسی اور کا ذرا سا بھی خوف نہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ تم نے مجھ سے پوچھا میں نے ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔“ جرجہ نے کہا ”تم ٹھیک کہتے ہو۔“ یہ کہہ کر اس نے اپنی ڈھال الٹ دی اور حضرت خالد کے ساتھ ہو لیا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے اسلام کی تعلیم دیجئے۔“ حضرت خالد اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور پانی کی ایک مشک سہیا کی جس سے اس نے غسل کیا۔ پھر حضرت خالد نے اسے وضو کرایا اور دو رکعت نماز پڑھائی۔

جب یہ روسی سردار حضرت خالد کے ساتھ چلا تو روسی سمجھے کہ ان کے سردار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ خیال کر کے انہوں نے بھی مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے پیچھے ہٹا دیا۔ لیکن مدد گار دستے جن پر عکرمہ اور حارث بن ہشام متعین تھے، اپنی جگہ جمے کھڑے رہے۔ اسی اثنا

میں حضرت خالد، جرجہ کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آئے۔ اس وقت روسی، مسلمانوں کی صفوں میں گھس آئے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو لکارا جس پر ان کے قدم جم گئے۔ انہوں نے روسیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ کوئی شخص بھی حضرت خالد کے مقابلے میں میدان میں قائم نہ رہ سکا۔ خالد اور جرجہ حملہ کرتے تھے تو صفیں کی صفیں پلٹ دیتے تھے۔ حضرت خالد اور جرجہ صبح سے لے کر مغرب تک برابر روسیوں سے لڑتے رہے۔ آخر کار جرجہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے سوائے ان دو رکعتوں کے جو اسلام لانے کے وقت ادا کی تھیں اور کوئی نماز ادا نہیں کی۔ جنگ کی شدت کے باعث مسلمان باقاعدہ نمازیں ادا نہ کر سکے اور انہوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں میدان جنگ ہی میں اشاروں کے ساتھ ادا کیں۔

مسلمانوں کے حملے کی شدت کے باعث روسیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت خالد ان کے قلب میں گھس گئے۔ میدان جنگ لڑنے کے لئے تو بے حد وسیع تھا مگر بھاگنے کے لئے بہت تنگ تھا۔ جب حضرت خالد لڑتے ہوئے آگے بڑھ آئے تو روسیوں کے گھوڑوں کو بھاگنے کے لئے راستہ مل گیا اور وہ بے تحاشا صحراء کی جانب بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے بھی ان سے تعرض نہ کیا بلکہ بھاگنے کے لئے راستہ دے دیا۔ روسی سوار بھاگ کر جہاں جس کے سینگ سائے چل دئے۔

سوار تو بھاگ گئے مگر پیدل فوج کو بھاگنے کے لئے راستہ نہ ملا۔ اب حضرت خالد ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کا صفایا کرنا شروع کیا۔ روسی اپنی خندق میں گھس گئے۔ حضرت

خالد وہاں بھی پہنچ گئے تو انہوں نے واقوصہ کی گھاٹی کا رخ کیا۔ اکثر روسیوں نے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لئے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں وہ دھڑا دھڑا اس گھاٹی سے گرنے لگے۔ اگر ایک گرتا تھا تو اپنے ساتھ دس کو لے کر گرتا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کھڈ کو دیکھ نہ سکتے جو روسی بھاگ بھاگ کر ادھر آتے انہیں خبر نہ ہوتی کہ آگے والوں پر کیا گزری۔ وہ بھی اسی کھڈ میں گرتے جاتے۔ طبری کے بیان کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار روسی واقوصہ کی گھاٹی کی نذر ہوئے۔ ان میں سے اسی ہزار نے اپنے آپ کو بیڑیوں سے باندھ رکھا تھا۔ یہ تعداد ان سواروں اور پیدلوں کے علاوہ ہے جو میدان جنگ میں کام آئے۔ یہ لڑائی دن اور رات کے اکثر حصہ میں جاری رہی۔ صبح طلوع ہونے سے پہلے ہی حضرت خالد روسی لشکر کے سپہ سالار اعظم کے خیمے تک پہنچ چکے تھے۔ یہ جنگ حضرت عمر کے عہد کی پہلی جنگ ہے اور حضرت صدیق کی وفات کے بیس روز بعد وقوع میں آئی*۔

روسیوں کے بڑے بڑے سرداران فوج اس عبرت ناک شکست کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لئے اپنی ٹوپوں سے اپنے سنہ چھپا لئے اور میدان کے ایک جانب ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر ہم مسرت کا دل دیکھنے اور عیسائیت کی حمایت کرنے کے قابل نہیں ہیں تو ہم اس ذلت اور بدبختی کے دن کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں

* گو جنگ یرموک حضرت عمر کے عہد میں وقوع پذیر ہوئی لیکن ہم اسے حضرت صدیق کے زمانے میں اس لئے شمار کیا کہ اس کی تیاری آپ ہی کے عہد میں کی گئی تھی۔

پھاہٹے۔ چٹانچہ وہ لوگ اسی حالت میں قتل کر دئے گئے*۔

اس جنگ میں مسلمانوں نے جس بہادری، جوش اور صبر و استقامت سے دشمنوں کا مقابلہ کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ عکرمہ بن ابو جہل نے جب دیکھا کہ رومیوں کا دباؤ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو انہوں نے جوش میں آکر کہا ”میں رسول اللہ کے ساتھ ہر میدان میں لڑتا رہا ہوں۔ کیا آج کی لڑائی میں تم سے ڈر کر بھاگ جاؤں گا؟ خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔“ یہ کہہ کر وہ پکارے ”آؤ! موت کے لئے کون بیعت کرتا ہے؟“۔ یہ سن کر حارث بن حشام، ضرار بن ازور اور چار سو دوسرے بہادر اور معزز مسلمانوں اور شہسواروں نے عکرمہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ ان لوگوں نے حضرت خالد کے خیمہ کے سامنے بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ ان میں سے اکثر نے جام شہادت نوش کیا اور زخمی ہونے سے تو کوئی بھی نہیں بچا †۔ عکرمہ اور ان کے بیٹے عمرو بن عکرمہ شدید زخمی ہونے کی حالت میں حضرت خالد کے پاس لائے گئے۔ حضرت خالد نے عکرمہ کا سر اپنی ران پر اور عمرو کا اپنی پنڈلی پر رکھ لیا۔ آپ دونوں باپ بیٹوں کے منہ سے خون پونچھتے

* یہ عادت آج بھی بعض عربی قبائل میں پائی جاتی ہے کہ جب لشکر شکست کھاتا ہے تو اس کے سردار اپنے آپ کو شکست کی عار سے بچانے کے لئے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ کب دشمن کے سپاہی آکر اپنی تلواروں سے ان کا کام تمام کر دیتے ہیں (تاریخ الخلفاء از شیخ عبدالوہاب نجار)۔

† الطبری جلد ۳ صفحہ ۳۶۔

جاتے اور ان کے حلق میں پانی کے قطرے ٹپکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ”ابن حنتمہ (حضرت عمر فاروق) نے غلط سمجھا تھا کہ ہم لوگ شہادت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔“

اس جنگ میں صرف شہسواروں اور بہادروں ہی نے کارہائے نمایاں سر انجام نہیں عدئے بلکہ مسلمان عورتیں بھی فوج کی مدد کرنے میں کسی طرح پیچھے نہیں رہیں۔ وہ میدان جنگ میں پانی پلاتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور اپنے مردوں کے دلوں میں جوشیلے الفاظ کے ساتھ غیرت و حمیت کے جذبات بھڑکاتی پھر رہی تھیں۔ بعض عورتوں نے تو باقاعدہ جنگ میں بھی حصہ لیا تھا*۔

جنگ یرموک میں مسلمان شہداء کی تعداد تین ہزار تھی جن میں سے صرف صحابہ کرام ایک ہزار کی تعداد میں تھے۔ اس جنگ میں شہید ہونے والے بدری صحابہ کی تعداد ایک سو تھی۔

دوران جنگ ہی میں مدینہ سے حضرت عمر فاروق کا قاصد حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کی خبر اور حضرت خالد کی (عراقی افواج کی سپہ سالاری سے) معزولی اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کے تقرر کا حکم لے کر پہنچا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو اس سے مدینہ کے حالات پوچھنے شروع کئے۔ اس نے موقع کی نزاکت کو دیکھ کر کہا کہ مدینہ میں ہر طرح خیریت ہے اور تمہاری اسداد کے لئے مزید فوجیں آرہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضرت خالد کو ایک طرف لے جا کر تمام حالات بتائے اور جو کچھ اس نے فوج سے کہا تھا وہ بھی بتایا۔

حضرت خالد نے اس کے فعل کی تعریف کی اور اس سے خط لے کر اپنے ترکش میں ڈال لیا۔ انہوں نے حضرت صدیق کی وفات کی خبر کو مشہر نہ کیا کیوں کہ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں یہ خبر سن کر مسلمانوں کی ہمتیں پست نہ ہو جائیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو بلا کر حضرت عمر کا خط ان کے سپرد کر دیا اور امارت کا کام انہیں سونپ کر ان کی ماتحتی قبول کر لی۔

فتح یرموک پر کئی شعراء نے طبع آزمائی کی ہے یہاں مثال کے طور پر قعقاع بن عمرو کے چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

ألم ترنا علی الیرموک فزنا
 کہا فزنا بایام العراق
 قتلنا الروم حتی ما تساوی
 علی الیرموک مفروق الوراق
 فضضنا جمعوم۔ لہا استحالوا
 علی الواقوصة البترالرقاق
 غداة تهافتوا فیہا فصاروا
 الی امر تعضل بالذواق*

(کیا تم نے دیکھا کہ ہم جنگ یرموک کے موقع پر بھی اسی طرح کامیاب ہوئے جس طرح ہم عراق میں کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ ہم نے روسیوں کو بے دھڑک قتل کیا اور ان کی جمعیت کو واقوصہ میں پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ ان کی تلواریں ان کے کسی کام نہ آسکیں۔ وہ واقوصہ کی گھاٹی سے گر کر ختم ہو گئے۔

ان کا انجام حد درجہ عبرت ناک ہوا۔ شکست اور نامرادی کے جو کڑوے گھونٹ انہوں نے پیئے، ان کا پینا ہر کس و نا کس کے بس میں نہیں)۔

مشرق کی تاریخ میں یہ جنگ ایک فیصلہ کن معرکے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جنگ کے ذریعے نہ صرف ایک وسیع خطے سے قیصر روما کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا بلکہ بلاد بنوالاصفر (شام) میں اسلامی فتوحات کا دروازہ بھی کھل گیا۔

اس جنگ کے موقع پر جو کچھ پیش آیا وہ فنون جنگ اور امور قیادت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا۔ جس وقت حضرت خالد شام پہنچے اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمان اپنے دشمنوں سے علیحدہ علیحدہ جنگ کر رہے تھے۔ ہر لشکر اپنے امیر کے ماتحت لڑتا تھا۔ باہمی یکجہتی مفقود تھی۔ ان کے دشمنوں کی تعداد ان سے کئی گنا تھی۔ اور جنگی ساز و سامان کی بھی ان کے پاس فراوانی تھی۔ ہرقل نے اپنی فوجیں اس خیال سے جمع کی تھیں کہ مسلمانوں کو ایسی شکست فاش دی جائے کہ پھر انہیں سر اٹھانے اور شام کا رخ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اگر ان حالات میں مسلمان پراگندگی اور انتشار کی حالت میں رہتے تو ان کی کامیابی ناممکن تھی۔ اس موقع پر حضرت خالد نے اپنی قابلیت اور جنگی استعداد کا جو مظاہرہ کیا اس نے مسلمانوں کو مکمل تباہی سے بچا کر ان کے لئے فتح و ظفر کے راستے کھول دئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک تقریر کے ذریعے ان کی کمزوریوں کو ان پر عیاں کیا اور بتایا کہ علیحدہ علیحدہ قیادت کے ماتحت دشمنوں سے جنگ کرنا سخت نقصان کا موجب ہوگا اور اس وقت ان کے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تمام مسلمان ایک سپہ سالار کے ماتحت ہو کر جنگ کریں اور تمام

احکام اسی سے حاصل کریں۔ اس بے نظیر تجویز پر اتفاق کے بعد جب حضرت خالد کے سپرد قیادت کا سہم بالشان کام سپرد کیا گیا تو آپ نے لشکر کو جس طرح ترتیب دیا اور جس طرح اس کی صف بندی کی وہ عربوں کے لئے بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دشمنوں کو مسلمانوں کی تعداد ان کی اصل تعداد سے بہت زیادہ نظر آنے لگی اور وہ مسلمانوں سے بے حد مرعوب ہو گئے۔

مسلمانوں کے مختلف لشکروں کو ایک قیادت کے تحت متحد کرنے کا تجربہ موجودہ زمانے میں بھی اختیار کیا گیا، اور اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں اتحادی قوموں کی فوجیں اپنے اپنے ملک کے کمانڈر انچیف کے ماتحت تھیں لیکن جب جرمنی کی فوجوں نے پیش قدمی شروع کی تو اتحادیوں کو بڑے سوچ و بچار، غور و فکر اور باہمی صلاح و مشورہ کے بعد اسی طریقہ پر عمل کرنا پڑا جو تیرہ سو سال پہلے یرموک کے میدان میں حضرت خالد اختیار کر چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تمام فوجوں کو متحد کر کے ایک سپریم کمانڈ کے ماتحت کز دیا۔ جس کے نتیجے میں انہیں بالآخر فتح اور کامرانی نصیب ہوئی*۔

با این ہمہ ان دونوں حالتوں میں بڑا فرق ہے۔ جنگ یرموک کے موقع پر یہ تجویز پیش کرنے والی ذات صرف اور

* دوسری جنگ عظیم میں بھی یہی طریقہ آزمایا گیا اور موجودہ زمانے میں بھی معاہدہ شالی اوقیانوس کی تنظیم کے تحت مغربی یورپ کی افواج کو ایک کان کے تحت کر کے اسی اصول کو اپنایا جا رہا ہے (مترجم)۔

صرف اکیلے خالد کی تھی لیکن جنگ عظیم کے موقع پر پورے دو سال کے غور و فکر اور بڑے بڑے جنگی مدبرین کی متعدد کانفرنسوں کے بعد یہ تجویز عمل میں لائی گئی۔ حضرت خالد کسی جنگی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی تھی لیکن اتحادیوں کے کمانڈر اور فوجی افسر دنیا کے بڑے بڑے فوجی کالجوں اور عظیم جنگی تربیت گاہوں کے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ تھے حضرت خالد کے ذہن میں یہ تجویز آج سے تیرہ سو سال پہلے آئی تھی جبکہ فنون جنگ ابتدائی حالت میں تھے، لیکن اتحادیوں نے یہ سبق اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس وقت سیکھا جب جنگی علوم و فنون اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا اس واقعے پر غور کرنے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت خالد ایک نادرہ روزگار ہستی تھے اور مادر گیتی ان جیسا عظیم الشان قائد آج تک پیدا نہ کر سکی؟

جنگ یرسوک کے موقع پر ایک شخص نے رومیوں کی طرف نظر ڈالی اور کہنے لگا ”اوہو، رومی کتنے زیادہ ہیں اور مسلمان کتنے کم“۔ حضرت خالد نے فرمایا ”اوہو، رومی کتنے کم ہیں اور مسلمان کتنے زیادہ۔ پاد رکھو فوجیں اللہ کی مدد کی بدولت زیادہ ہوتی ہیں اور ناکامی و بزدلی کی وجہ سے کم ہوتی ہیں۔ فتح و شکست کا دار و مدار آدمیوں کی کثرت و قلت پر نہیں ہوتا“۔ پھر فرمایا ”کاش میرے گھوڑے اشقر* کا پاؤں اچھا ہوتا، پھر چاہے دشمن تعداد میں ہم سے کتنے گنا کیوں نہ ہوتے مجھے ان کی مطلق پروا نہ ہوتی“

* اشقر، حضرت خالد کے گھوڑے کا نام تھا۔ قراقر سے سو آتے ہوئے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔

ہم اس عظیم الشان شخص پر جس قدر بھی غور کرتے ہیں ، اس کی شخصیت کے نت نئے پہلو آجا کر ہوتے چلے جاتے ہیں اور حیرانی ہوتی ہے کہ یہ شخص کس قدر بلند مرتبے کا مالک تھا ۔ اسی واقع کو دیکھئے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی نازک ، پرہول و پرخطر موقع پر بھی آپ کو نصرت خداوندی پر پورا پورا بھروسہ تھا ۔ ایک سپہ سالار دشمن کے لشکر کی عظیم الشان تعداد ، اس کے نظام ، اس کی ترتیب اور صف بندی کو دیکھتا ہے ۔ بظاہر کوئی شکل اس کی فوج کی فتح یابی کی نہیں ہے لیکن وہ دشمن کی تعداد اور اس کی تیاریوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہتا ہے کہ فتح و نصرت کا دار و مدار فوجوں کی کثرت پر نہیں بلکہ خدائی نصرت پر ہوتا ہے ۔ یہ اطمینان اور یہ وثوق محض ایمان کا نتیجہ تھا اور یہ ایمان اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جسے اللہ دے ۔

جس وقت رومی سردار ، جرجہ نے آگے بڑھ کر حضرت خالد سے ان کے لقب ”سیف اللہ“ کی تشریح چاہی تو آپ نے اسے کسی دھوکے میں رکھنا یا دھوکا دینا نہیں چاہا ۔ حالانکہ آپ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتے تھے ۔ اس کے خلاف آپ نے بغیر کسی قسم کی رنگ آمیزی کے اس کے سامنے حقیقت بیان کر دی اور بڑے دل نشین پیرایہ میں اسے اسلام لانے کی دعوت دی ۔ حضرت خالد کی صدق گوئی اور اسلامی اصولوں کو نہایت اعلیٰ پیرائے میں بیان کرنے کا اثر تھا کہ جرجہ نے میدان جنگ میں ہی اسلام قبول کر لیا ۔ اس واقعے سے حضرت خالد کی شخصیت سچائی کے پیکر اور اسلام کے مبلغ کی حیثیت میں سامنے آتی ہے ۔

اسی پر بس نہیں ۔ قربانی اور جہاد کا جو نمونہ اس موقع پر حضرت خالد نے پیش کیا اس کی نظیر آج تک دنیا کی تاریخ

الذاریہ

پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ انسان کو اپنے
 عظیم الشان کارناموں کے بدلے میں اپنے لئے انعام و اکرام اور
 بہترین صلے کی توقع ہوتی ہے حضرت خالد کے پاس حکم پہنچتا
 ہے کہ انہیں امارت سے معزول کیا جاتا ہے۔ اس وقت لڑائی
 کی آگ پورے زور شور سے بھڑک رہی تھی۔ لیکن آپ کے دل
 میں ذرا بھی سلال پیدا نہ ہوا۔ جس جوش و خروش سے پہلے
 دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اسی جوش سے بلکہ اس سے بھی
 بڑھ کر بعد میں مقابلہ کرتے رہے۔ نہ ان کی جرأت مندی میں
 کوئی فرق آیا اور نہ ان کے اخلاص میں کوئی کمی واقع ہوئی
 وہ ”قائد کی روح کے ساتھ سپاہی اور سپاہی کی صورت میں
 قائد“ کے فرائض انجام دیتے رہے اور اس علم کے باوجود کہ
 وہ معزول ہو چکے ہیں اور اب جنگ کی فتح کا سنہرا دوسرے
 شخص کے سر پر رکھا جائے گا اس وقت تک برابر دشمن سے
 لڑتے رہے جب تک اسے شکست نہ دے لی۔

اگر ایسا واقعہ ہمارے زمانے میں پیش آئے اور کسی کمانڈر
 کی برطرفی اس طرح عمل میں لائی جائے تو یقیناً وہ جرنیل ہر ممکن
 طریقے سے اپنی ہتک کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا اور اپنے
 جانشین کو نا کام کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرے
 اور بہت ممکن ہے کہ اس حکومت کا تختہ ہی الٹ دے جس
 اس کی قدر نہ پہچانی۔

لیکن جب ہم حضرت خالد کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں
 ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ معزول ہونے کے بعد اپنی وفات تک
 ایک ایسے سپاہی کی طرح کام کرتے رہے جو ریاست اور امارت
 کی صفات سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ لیکن اس عرصہ میں آپ
 نہ کمزوری دکھائی اور نہ کبھی مفوضہ کام کو سرانجام دیا

سے انکار کیا ۔ بلکہ اخلاص جوش و خروش اور تندہی کے ساتھ بدستور دین کے کام میں مصروف رہے ۔ آپ کو نہ اس بات پر ناز تھا کہ حضرت صدیق آپ کی خدمات کے انتہائی معترف تھے اور نہ اس بات کا رنج کہ حضرت عمر نے آپ کو معزول کر دیا ۔ آپ کے سانسے صرف ایک ہی مقصد تھا اور ایک ہی مدعا اور وہ تھا دین کی خدمت اور امام کی اطاعت ۔ آپ فرمایا کرتے تھے ” تعریف اس خدا کے لئے زیبا ہے جس نے ابوبکر کو وفات دی ۔ وہ مجھے عمر سے زیادہ محبوب تھے ۔ اور تعریف اس خدا کے لئے زیبا ہے جس نے عمر کو حاکم بنا دیا ۔ وہ مجھے ابوبکر کے مقابلے میں نا پسند تھے مگر پھر مجھ سے جبراً ان کی محبت کرائی ” * ۔

جو لوگ بڑے فخر سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی جنگ عظیم میں سٹر چرچل کو وزارت بحریہ سے علیحدہ کر دیا گیا تو وہ میدان جنگ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنے کے لئے چلے گئے انہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ سب کچھ انہی مثالوں کا اثر ہے جو اس سے پہلے حضرت خالد جیسے مسلمانوں نے دنیا کے سانسے پیش کی ہیں ۔ جو صفات آج یورپین اقوام میں پیدا ہو رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تیرہ سو سال پہلے مسلمانوں میں موجود تھیں ۔ انہی صفات کی وجہ سے مسلمان دنیا کے شہنشاہ اور مالک بن گئے اور انہی صفات پر عمل کر کے یورپین اقوام دنیا میں سر بلندی اور کاسیابی حاصل کر رہی ہیں ۔

یہاں پہنچ کر ان عظیم الشان فتوحات اور اعمالِ جلیلہ کا ذکر ختم ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں حضرت خالد

کے ہاتھوں انجام پائے اور جنہیں خلیفۃ المسلمین کی پوری حاکمیت حاصل تھی۔ اب ہم نیا باب ایک نئے دور کے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت اور حضرت خالد کی معزولی سے شروع ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت خالد نے اپنی وفات تک ایک سپاہی کی حیثیت سے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دئے۔

کی
جنت
کیا
نفس
کے
رواند
بلی
الاع
رہی
ان سے
کیا جا
می تھیں
نظار
دے، الب

چوتھا حصہ

خالد ، حضرت عمر کے عہد میں

فتح دمشق

جنگ یرموک کا اختتام روسیوں کی شکست فاش ، حضرت خالد کی معزولی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی امارت پر ہوا تھا ۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے مال غنیمت تقسیم کیا ، حضرت عمر کی خدمت میں فتح کی خوشخبری بھیجی اور خمس ارسال کیا ۔ اس کے بعد یرموک کے علاقے میں بشیر بن کعب حمیری کو اپنا نائب بنا کر مفرورین کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور صفر کے مقام پر آ کر اترے ۔ یہاں انہیں خبر ملی کہ روسی فحل میں جمع ہو رہے ہیں ۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ اہل دمشق کی امداد کے لئے حمص سے کمک آرہی ہے ۔ آپ نے ان حالات سے حضرت عمر کو اطلاع دی اور ان سے ہدایت طلب کی کہ روسیوں پر حملے کا آغاز فحل سے کیا جائے یا دمشق سے ۔ خود جواب کے انتظار میں وہ صفر میں ہی ٹھہر گئے ۔ حضرت عمر کا جواب آیا کہ اپنی کارروائی کا آغاز دمشق سے کرو کیونکہ دمشق شام کا قلعہ اور دارالحکومت ہے ، البتہ فحل کے سامنے بھی اپنا ایک دستہ متعین کر دو تا کہ

جب تک تم دمشق سے فارغ نہ ہو جاؤ فحل والے کچھ کر نہ سکیں۔

اس حکم کی تعمیل میں حضرت ابو عبیدہ نے فحل کی جانب دس قائد، عمارہ ابن مخش کی زیر سرکردگی روانہ کر دئے۔ ذوالکلاع کو ایک دستہ دے کر انہیں دمشق اور حمص کے راستے پر متعین کر دیا تا کہ حمص کی جانب سے کوئی مدد روسیوں کو نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح علقمہ بن حکیم اور مسروق کو دمشق اور فلسطین کے راستے پر متعین کر دیا تا کہ فلسطین کی جانب سے روسیوں کا کوئی دستہ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ اس طرح چاروں طرف سے روسیوں کی کمک کے راستے مسدود کر دئے گئے۔ ان انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد ابو عبیدہ صفر سے روانہ ہوئے اور دمشق پہنچ کر چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عمرو بن العاص کو باب فرادیس کے سامنے متعین کیا۔ شرجیل بن حسنہ کو باب توما کے سامنے، قیس بن ہبیرہ کو باب فرج کے سامنے اور حضرت خالد کو باب شرقی کے سامنے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خود ابو عبیدہ، باب جابیہ کے سامنے اترے۔ ستر دن تک محاصرہ جاری رہا۔ مسلمان اس دوران میں تیروں اور منجنیقوں کے ذریعے شہر پر حملے کرتے رہے۔ ادھر اہل شہر ہرقل کی جانب سے کمک کے انتظار میں تھے لیکن چاروں طرف سے راستے بند تھے۔ جب اہل شہر کو کمک پہنچنے کی کوئی امید نہ رہی تو وہ بے حد گھبرا گئے۔ لے دے کر یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، مسلمان یہاں کی شدید سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن ان کی یہ امید بھی موہوم ثابت ہوئی اور مسلمان برابر شہر

کا محاصرہ کئے پڑے رہے۔

حضرت خالد کی یہ عادت تھی کہ نہ خود سوتے تھے اور نہ دوسروں کو سونے دیتے تھے۔ دشمن کی معمولی سے معمولی بات کا بھی انہیں پتہ رہتا تھا۔ ان کی آنکھیں بہت تیز تھیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ عیسائیوں کے بطریق (لاٹ پادری) کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس نے خوشی میں تمام شہر والوں کی دعوت کی ہے، تمام لوگ کھانے پینے میں مشغول ہیں اور اپنے مفوضہ کاموں اور فرائض سے بالکل غافل ہیں۔ شہر کی محافظ فوج بھی شراب کے نشہ میں دھت ہے۔ آپ نے پہلے ہی سے سیڑھی نما کمندیں تیار کرا رکھی تھیں۔ جب رات چھا گئی تو آپ نے فصیل پھانڈنے کی تیاریاں شروع کیں، اور ان لوگوں کو لے کر جو عراق سے آپ کے ساتھ آئے تھے، آگے بڑھے۔ ان لوگوں میں پیش پیش قعقاع بن عمرو اور مذکور بن عدی جیسے اشخاص تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کی کہ جب تم فصیل سے ہماری تکبیروں کی آوازیں سنو تو فوراً فصیل پر چڑھ آؤ اور دروازے پر حملہ کر دو۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی دروازے پر پہنچے جس کے سامنے آپ ڈیرہ ڈالے ہوئے پڑے تھے تو آپ نے اپنی کمندیں فصیل کے کنگوروں پر پھینکیں۔ ان کی کمروں کے ساتھ وہ شکیں بندھی ہوئی تھیں جن کے ذریعہ انہوں نے خندق کو تیر کر پار کیا تھا۔ جب کمندیں اچھی طرح کنگوروں سے اٹک گئیں تو قعقاع بن عمرو اور مذکور بن عدی ان کے ذریعے فصیل پر چڑھ گئے اور تمام کمندوں کو جو ان کے ساتھ تھے دوسرے کنگوروں میں اٹکا کر فصیل سے نیچے لٹکا دیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ جس جگہ سے وہ فصیل پر حملہ آور ہوئے تھے وہ جگہ تمام شہر میں سب سے زیادہ مستحکم

تھی۔ خندق بھی اس جگہ کافی چوڑی تھی اور پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ اس طرح بظاہر یہ حصہ ناقابل عبور نظر آتا تھا۔ جب قعقاع اور مذکور ساری کمندین لڈکا چکے تو حضرت خالد اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر فصیل پر چڑھ گئے۔ کچھ لوگوں کو تو حفاظت کے لئے فصیل پر ہی چھوڑ دیا اور باقی لوگوں کو لے کر فصیل کے دوسری طرف اتر گئے۔ نیچے اتر کر آپ نے فصیل پر متعین لوگوں کو تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے تکبیریں کہنی شروع کیں جنہیں سن کر نیچے کھڑی ہوئی فوج کے کچھ آدمی تو کمندوں کے ذریعے فصیل پر چڑھ آئے اور کچھ دروازے کی طرف بھاگے۔ حضرت خالد اپنے قریب کے دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے اور دربانوں کو قتل کر کے اور قفلوں کو توڑ کر دروازہ کھول دیا۔ مسلمان فوج جو باہر منتظر کھڑی تھی شہر میں داخل ہو گئی۔

جب شور و غل مچا تو تمام شہر والے جو شراب میں مدہوش تھے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے لیکن ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مسلمان تلواریں چلائے اور دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب اہل شہر کو پوری طرح ہوش آیا اور انہوں نے حقیقت کو سمجھا تو وہ شہر کے دوسرے دروازوں کی طرف بھاگے جن کے سامنے دوسرے مسلمان سردار ڈیرے ڈالے پڑے تھے۔

مسلمانوں نے اہل دمشق کو نصف نصف تقسیم پر مصالحت کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے یہ دعوت نا منظور کر دی تھی اور بدستور مقابلے پر اڑے رہے تھے۔ جب حضرت خالد کی

للواری نے ان کا صفایا کرنا شروع کیا تو انہوں نے دوسری طرف کے مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی جسے انہوں نے منظور کر لیا۔ روسیوں نے جھٹ پٹ شہر کے دروازے کھول دئے اور کہا کہ ہمیں خالد کے حملہ سے بچاؤ۔ چنانچہ شہر کے تین اطراف سے مسلمان صلح کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ مشرقی جانب سے حضرت خالد دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ شہر کے وسط میں ان کی ملاقات دوسرے مسلمان سرداروں سے ہوئی۔ تھوڑی بہت بحث و تمحیص کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت خالد کی طرف کا حصہ بھی صلح کے حکم میں شامل ہوگا۔

مصالحت کی شرائط یہ تھیں کہ مفتوحین چاندی سونے اور جائداد کا پانچواں حصہ ادا کریں اور فی کس ایک دینار اور فی جریب زمین ایک جریب گیہوں سالانہ ادا کریں۔ لیکن شاہی خاندان اور اس کے سلحقین کی تمام زمینیں اور مملو کہ سامان مال غنیمت قرار دیا گیا*۔

معرکہ فحل

جب مسلمان دمشق کی فتح سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر کی رائے پر عمل کرتے ہوئے فحل کا قصد کیا کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ فی الحال حمص اور دوسرے روسی شہروں کا رخ نہ کیا جائے، کیوں کہ روسیوں کی ایک بھاری فوج، جو مؤرخین کے اندازے کے مطابق اسی ہزار سے کم نہ تھی، مسلمانوں کے عقب میں موجود تھی۔ خصوصاً فحل کی فوجیں

رومیوں کے لئے ڈھال کا کام دے رہی تھیں اور انہی سے رومیوں کی توقعات وابستہ تھیں۔

حضرت ابو عبیدہ نے یزید بن ابو سفیان کو دمشق میں اپنے نائب کی حیثیت سے چھوڑا اور اسلانی لشکر فحل کی جانب روانہ ہوا۔ اس فوج کے سپہ سالار شرجیل بن حسنہ تھے کیوں کہ حضرت صدیق کی جانب سے انہیں ہی اس علاقے کی حکومت تفویض کی گئی تھی۔ انہوں نے حضرت خالد کی تعظیم و تکریم کے خیال سے آپ کو مقدمہ پر مقرر کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو میمنہ پر حضرت عمرو بن العاص کو میسرہ پر، سواروں پر ضرار بن الازور کو اور پیدل فوج پر عیاض بن غنم کو متعین کیا گیا۔

رومیوں نے جب سنا کہ مسلمانوں کی فوجیں فحل پر حملہ کرنے کے ارادے سے بڑھی چلی آرہی ہیں تو انہوں نے ندیوں کے بند توڑ دئے جس سے ارد گرد کی تمام زمین زیر آب ہو گئی اور دلدل بن گئی۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اس صورت حال سے بڑے کینہ خاطر ہوئے۔ لیکن بالآخر یہی دلدلیں ان کے لئے مفید اور کارآمد ثابت ہوئیں۔

مسلمان ایک لمبے عرصے تک وہاں ڈیرے ڈالے پڑے رہے۔ رومیوں نے مسلمانوں کو غافل خیال کر کے ایک دن بڑے زور شور سے ان پر حملہ کر دیا۔ لیکن مسلمان بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر رومیوں کا مقابلہ کیا۔ رات بھر اور اگلے دو رات تک میدان کارزار گرم رہا۔ آخر جب رومیوں کی ہمت پست ہو گئی تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کیا۔ رات

وقت تھا گھبراہٹ میں وہ راستہ بھول گئے اور شکست و پریشانی نے انہیں دلدل اور کیچڑ میں دھکیل دیا اور وہ وہاں پھنس کر رہ گئے۔ اسی ہزار فوج میں سے اکا دکا شخص کے سوا کوئی بچ کر نہ جا سکا۔ تمام فوج اسی جگہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔

اس لڑائی کے بعد حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد کو ہمراہ لے کر حمص روانہ ہوئے۔

جنگ مرج الروم

جب ہرقل کو دمشق اور اردن میں اپنے لشکروں کی شکست کی خبر ملی اور اسے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ارادہ اب حمص کو فتح کرنے کا ہے تو اس نے مشہور پادری توذر کی زیر قیادت ایک عظیم الشان لشکر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا۔ بعد میں اس لشکر کو بھی نا کافی سمجھ کر اس نے شنس روسی کی زیر قیادت اتنا ہی بڑا ایک اور لشکر بھی توذر کے پیچھے روانہ کیا۔

دمشق کے مغرب میں مرج الروم کے مقام پر مسلمانوں کی ان دونوں لشکروں سے مڈھ بھیڑ ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ، شنس روسی کے مقابل ہوئے اور حضرت خالد، توذر کے مقابلے میں نکلے۔ صبح آٹھ کر مسلمانوں نے دیکھا کہ توذر اپنی فوج لے کر غائب ہے البتہ شنس اپنی فوج کے ہمراہ ڈیرے ڈالے پڑا ہے۔

حضرت خالد کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ توذر اپنی فوج لے کر دمشق کی جانب جا رہا ہے۔ آپ نے فوراً

بھانپ لیا کہ توذر کا مقصد دمشق پہنچ کر اچانک اس فوج پر حملہ کرنا ہے جو شہر کی حفاظت کے لئے حضرت ابو عبیدہ نے یزید بن ابو سفیان کی زیر سرکردگی وہاں متعین کی تھی۔ حضرت خالد، حضرت ابو عبیدہ سے مشورہ کر کے نہایت تیزی سے اس کے پیچھے روانہ ہوئے۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ حضرت خالد اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور دمشق پہنچ کر اسے مسلمانوں کی ایک فوج سے نہیں بلکہ دو فوجوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔

ابھی توذر اور یزید بن ابو سفیان کی فوجوں کا مقابلہ شروع ہی ہوا تھا کہ حضرت خالد بھی اپنی فوج کے ہمراہ دمشق پہنچ گئے اور توذر کی فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ آگے سے یزید کی فوج کے نیزے رومیوں کے سینے چھلنی کر رہے تھے اور پیچھے سے حضرت خالد کی فوج کی تلواریں ان کا کام تمام کر رہی تھیں۔ فرار کے لئے انہیں کوئی راہ نہ ملتی تھی۔ بہت ہی کم لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگ سکے۔ فوج کا سپہ سالار توذر، حضرت خالد کے ہاتھ سے قتل ہوا۔

جنگ کے بعد حضرت خالد اور حضرت یزید بن ابو سفیان کی فوجوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم ہوا اور حضرت خالد حضرت ابو عبیدہ کے پاس واپس تشریف لے آئے۔ یہ جنگ ۱۰ھ میں واقع ہوئی*۔

* الطبری جلد ۲ صفحہ ۱۵۳ -

فتح حمص*

جب ہرقل کو اپنی فوجوں کی تباہی کا حال معلوم ہوا تو وہ حمص سے بھاگ گیا اور حمص میں اپنے عامل کو حکم دے گیا کہ جہاں تک ہو سکے شدید سردی کے دنوں میں مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے تاکہ وہ سردی کی شدت سے حوصلہ ہار بیٹھیں اور جم کر مقابلہ نہ کر سکیں۔

حضرت ابو عبیدہ بعلبک کے راستے حمص روانہ ہوئے۔ مقدمۃ الجیش کے طور پر آپ نے سمط بن اسود کنندی کو اپنے آگے روانہ کر دیا تھا اور حضرت خالد کو بقاع کے فتح کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ اسے فتح کرنے کے بعد آپ پھر حضرت ابو عبیدہ سے حمص آن ملے۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ بڑی سختی سے کیا ہوا تھا۔ جب سردی کا موسم گزر گیا اور روسیوں کی آخری امید بھی جاتی رہی تو انہوں نے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی جو مسلمانوں نے منظور کر لی اور شہر پر ان کا قبضہ ہو گیا۔

* حمص، شام کا بہت پرانا اور مشہور شہر ہے۔ اس کے ارد گرد مضبوط فصیل بنی ہوئی ہے۔ یہ شہر دمشق اور حلب کے درمیان یکساں مسافت پر واقع ہے۔ جنگوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضرت خالد یہیں مقیم ہو گئے تھے۔ یہیں آپ کی، آپ کی بیوی کی اور آپ کے بیٹے عبدالرحمان کی قبریں ہیں۔ حضرت خالد کی قبر کے قریب ہی عیاض بن غنم کی قبر بھی ہے۔ (معجم البلدان جلد ۳ صفحہ ۳۴۰)۔

فتح حاضر

حمص کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو قنسرین کی طرف بھیجا۔ راستے میں حاضر کے مقام پر رومیوں کے ایک لشکر سے آپ کی مڈھ بھیڑ ہو گئی جس کا سردار سیناس تھا۔ سیناس، قیصر کے بعد رومیوں کی سب سے اہم شخصیت تھی۔ دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ سیناس اور اس کے لشکر کا اکثر حصہ میدان جنگ میں کام آیا۔

جنگ کے بعد حاضر کے باشندوں نے حضرت خالد کو کہلا بھیجا کہ ہم نے قیصر کے زور ڈالنے پر مجبوراً جنگ کی تیاری کی تھی لیکن ہمارا دل آپ سے لڑنے کو نہیں چاہتا تھا اس لئے آپ براہ کرم ہماری جان بخشی کر دیجئے۔ حضرت خالد نے ان کی درخواست قبول کر لی اور انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے۔

فتح قنسرین*

حاضر سے روانہ ہو کر آپ قنسرین روانہ ہوئے۔ شہر والے پہلے ہی سے قلعہ بند ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اور شہر والوں کو کہلا بھیجا کہ اس طرح قلعہ بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم آسمان پر بھی چڑھ جاؤ گے تو اللہ یا ہمیں تمہارے پاس پہنچا دے گا یا تمہیں ہمارے پاس اتار لائے گا۔

* قنسرین، شام کے ایک صوبے کا نام ہے۔ اسی صوبے میں قنسرین کا شہر بھی ہے جو حلب سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے۔ (معجم البلدان جلد ۷ صفحہ ۱۶۹)۔

اہل قنسرین کو بالآخر اطاعت کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد نے یہ درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی کہ شہر کی فصیل کو سنبھل کر دیا جائے گا۔ شہر والوں نے جان کے خوف سے مجبوراً اس شرط کو منظور کر لیا اور حضرت خالد نے فصیل کو سنبھل کر دیا۔

ہرقل حمص چھوڑ کر ”الرها“ چلا گیا تھا۔ وہاں اسے حاضر کے میدان جنگ میں روسی لشکر کی تباہی اور قنسرین کی فصیل کے انہدام کی خبریں ملیں جنہیں سن کر اسے یقین ہو گیا کہ اب شام میں اس کی بادشاہت قائم نہیں رہ سکتی اس لئے وہ انتہائی یاس اور نا اُمیدی کی حالت میں کہاں حسرت و افسوس سے یہ کہتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شام سے رخصت ہو گیا کہ ”اے شام! رخصت ہونے والے کا سلام قبول ہو۔ یہ ایسی جدائی ہے جس کے بعد ملاقات ممکن نہیں۔“

حاضر اور قنسرین میں حضرت خالد نے جو کارہائے نمایاں سرانجام دئے تھے انہیں سن کر آپ کے متعلق حضرت عمر کی رائے بالکل تبدیل ہو گئی اور آپ نے فرمایا ”خالد نے اپنے کارناموں کی وجہ سے خود ہی اپنے آپ کو سپہ سالار بنا لیا ہے۔ اللہ ابوبکر پر اپنی رحمت نازل کرے۔ وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس تھے۔“

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۱۰۰ - ابن اثیر جلد ۲

صفحہ ۳۳۳ -

فتح مرعش*

قنسرین کی فتح کے بعد حضرت خالد مرعش کی جانب روانہ ہوئے۔ اسے فتح کرنے کے بعد اس کے باشندوں کو جلا وطن کر دیا اور شہر کو منہدم کرا دیا۔ مرعش کی فتح کے بعد آپ نے حدت کا قلعہ فتح کیا †۔

فتوحات کا اختتام

اب جبکہ ہم آپ کے عدیم المثال کارناموں اور فتوحات کے ذکر سے فارغ ہو چکے ہیں ایک ایسے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں جو ان یورپین معترضین کی طرف سے، جنہیں اسلام کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی، عموماً پیش کیا جاتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ ایک بہت ہی قلیل وقت میں حضرت خالد کے ایران و روم کی سلطنتوں پر چھا جانے اور ایک وسیع قسطہ ارض پر قابض ہو جانے کا سبب مسلمانوں کی موت سے بے خوفی، اسلامی فوجوں کی شان دار بہادری، ان کے سرداروں کا بے نظیر جنگی تجربہ اور خدائی نصرت و امداد نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی فتح و نصرت محض اس وجہ سے تھی کہ اس وقت یہ غیر اسلامی حکومتیں داخلی انتشار میں مبتلا ہو کر کمزور ہو چکی تھیں۔ مسلمانوں نے اس داخلی انتشار سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا اور ان پر پے در پے حملے کر کے حسب منشا کامیابی حاصل کی۔

* مرعش کا شہر، شام کی سرحدوں پر واقع ہے جو بلاد روم سے ملتی ہیں۔ (معجم البلدان جلد ۸ صفحہ ۳۵)۔

† تاریخ ابو الفداء جلد اول صفحہ ۱۶۰۔

بادی النظر میں اگرچہ یہ اعتراض صحیح نظر آتا ہے لیکن ان لوگوں سے جنہیں تاریخ کے حقائق کا ذرا بھی علم ہے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اس اعتراض میں کہاں تک صداقت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ حکومتیں اس وقت داخلی انتشار میں مبتلا تھیں، لیکن ساتھ ہی یہ امر بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دونوں سلطنتوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے ہمیشہ بھاری بھاری لشکر روانہ کئے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ ان لشکروں کی امداد کے لئے کمک کا سلسلہ بھی برابر جاری رہتا تھا اور یہ لشکر فنون جنگ سے اچھی طرح باخبر اور پوری طرح مسلح اور منظم ہوتے تھے۔

جنگ یرموک کے موقع پر روسیوں نے ڈھائی لاکھ کا لشکر جبار مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے جمع کیا تھا۔ اس سے قبل اتنا عظیم الشان لشکر کب کسی سلطنت نے اپنے مد مقابل کے لئے جمع کیا ہوگا؟ اور انسانوں نے کس موقع پر جنگجوؤں کی اتنی بھاری تعداد اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی؟ یہ واقعات ایسے ہیں جن میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگرچہ وہ لوگ جو حضرت خالد جیسا عدیم المثال شخص اپنی قوم میں پیدا کرنے سے قاصر رہے ہیں اور جن کی نظروں میں مسلمانوں کی ترقی خار کی طرح کھٹکتی ہے، مسلمانوں کے غلبے، ان کی پے در پے فتوحات اور قلیل ترین مدت میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایرانیوں اور روسیوں کی عظیم الشان سلطنتوں اور باجبروت شہنشاہوں کی تباہی سے تو انکار نہیں کر سکتے لیکن ان فتوحات کو وہ ان بظاہر دل خوشکن لیکن خلاف واقعہ عذرات کے پردے میں چھپا دینا چاہتے ہیں۔

واقعات کی ترتیب اور ان کا زمانہ وقوع

وہ واقعات و حوادث جو بلاد شام میں مسلمانوں اور روسیوں کے درمیان پیش آئے، مؤرخین میں ان کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں البتہ ان کی ترتیب میں کافی اختلاف ہے۔ ذیل میں ہم ان واقعات کی ترتیب کے متعلق مختلف مؤرخین کے اختلافات پر کچھ روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک کس مؤرخ کی بیان کردہ ترتیب کو ترجیح حاصل ہے۔

بلاذری* نے لکھا ہے ”خالد دیگر مسلمان قائدین سے بصری میں ملے تھے (یرموک میں نہیں)۔ ان سرداروں نے اہل بصری سے لڑنے کے لئے متفقہ طور پر حضرت خالد کو اپنا امیر مقرر کیا۔ بصری کی فتح کے بعد جہاد الاول اور جہاد الثانی ۱۳ ھ میں اجنادین کی جنگ ہوئی جس میں عکرمہ بن ابوجہل، ہبار بن سفیان، سلمہ بن ہشام، عمرو بن سعید بن عاصی، ان کے بھائی ابان اور جندب بن عمرو الدوسی وغیرہم شہید ہوئے۔ جنگ اجنادین کے بعد یاقوصہ کی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ اسی جنگ کے دوران میں حضرت صدیق کی وفات کی خبر پہنچی۔ اس کے بعد ۲۸ - ذوالقعدہ ۱۳ ھ کو جنگ فحل، محرم ۱۴ ھ میں جنگ مرج الصفر، رجب ۱۴ ھ میں فتح دمشق بعد ازاں فتح حمص اور رجب ۱۴ ھ میں جنگ یرموک واقع ہوئی۔“

یعقوبی† لکھتے ہیں ”حضرت خالد نے مسلمان قائدین سے مل

* فتوح البلدان بلاذری صفحہ ۱۱۹۔

† الیعقوبی جلد ۲ صفحہ ۱۶۰۔

کر شام میں بصری اور فحل اور فلسطین میں اجنادین کے مقامات پر فتوحات حاصل کیں جنگ اجنادین ، ہفتہ کے روز ۲۸ - جادی الاول ۱۳ ھ کو ہوئی - اس کے بعد مرج الصفر کی جنگ ہوئی - رجب ۱۴ ھ میں دمشق فتح ہوا اور اس کے بعد فحل اور پھر حمص - ان فتوحات کے بعد حضرت ابو عبیدہ واپس ہوئے اور یرموک کے مقام پر ڈیرے ڈالے ، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ ہرقل نے ان کے مقابلے کے لئے ایک عظیم الشان لشکر جمع کیا ہے - چنانچہ ۱۵ ھ میں جنگ یرموک ہوئی - اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ حمص واپس آگئے -

طبری نے ابن اسحاق کی بیان کردہ روایت کے سوا جو روایات بیان کی ہیں وہ اسی ترتیب سے درج کی ہیں جو ہم اوپر درج کر آئے ہیں - ہمارے نزدیک یہی ترتیب صحیح ہے کیونکہ :-

(۱) بلاذری نے واقعہ فحل کا ذکر جنگ دمشق سے پہلے کیا ہے لیکن یہ حضرت عمر کے اس خط کے خلاف ہے جس میں آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی کارروائی دمشق سے شروع کریں کیونکہ وہاں روسیوں نے اپنی طاقت مجتمع کر رکھی ہے -

یعقوبی واقعہ فحل کے متعلق شش و پنج میں پڑ گئے ہیں - ایک مرتبہ اسے جنگ اجنادین سے قبل بیان کرتے ہیں اور دوسری مرتبہ جنگ دمشق کے بعد - جہاں تک ہماری تحقیق کا تعلق ہے کسی مؤرخ نے یعقوبی کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا -

طبری نے اس واقعے کا ذکر فتح دمشق کے بعد کیا ہے - یہ جہاں یعقوبی کی دوسری رائے کے مطابق ہے وہاں حضرت عمر

کے اس خط کے مطابق بھی ہے جو آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا تھا۔ نیز جنگی نقطہ نگاہ سے بھی یہی قرین قیاس ہے کہ دمشق کی جنگ پہلے ہوئی ہو، کیونکہ یہاں دشمن کی ایک کثیر جمعیت جمع تھی اور کسی دوسری طرف رخ کرنے سے پہلے اسے تباہ و برباد کرنا ضروری تھا۔

(۲) بلاذری نے دو جنگوں کا ذکر کیا ہے : ایک یا قوصہ کی جنگ، جس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ جنگ تھی جس کے دوران میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر آئی تھی، دوسری یرسوک کی جنگ۔ ہم نے معجم البلدان اور ان کتب تاریخ کی جو ہماری نظروں میں تھیں، چھان بین کی ہے۔ ہم نے کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جس میں یا قوصہ اور یرسوک کو علیحدہ علیحدہ مقامات کے طور پر پیش کیا گیا ہو۔ سب کتابوں میں یہی مذکور ہے کہ یا قوصہ دریائے یرسوک کے کنارے کا نام ہے۔ نہ ہی کسی مؤرخ نے یہ ذکر کیا ہے کہ دریائے یرسوک کے کنارے دو مرتبہ جنگ ہوئی تھی۔ البتہ زمانہ حال کے بعض مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ دریائے یرسوک کے علاوہ یرسوک کے نام سے ایک اور مقام بھی موجود ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں مقامات پر جنگیں ہوئی ہوں۔ لیکن جب تک اس بارے میں کوئی واضح ثبوت پیش نہ کیا جائے اس وقت تک محض قیافے کی بنا پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔

(۳) بلاذری اور یعقوبی نیز طبری نے بھی ابن اسحاق کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جنگ اجنادین، جنگ دمشق سے پہلے، جہادی الاول یا جہادی الثانی ۱۳ھ میں ہوئی اور جنگ یرسوک ۱۵ھ میں۔

اس روایت کے بالکل برعکس طبری نے ایک اور روایت درج کی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ یرموک ۱۳ ھ میں ہوئی اور جنگ اجنادین ۱۵ ھ میں۔

قبل اس کے کہ ہم دونوں جنگوں کی تاریخوں کا تعین کریں چند قابل ذکر امور کا بیان ضروری ہے۔

(الف) وہ شہداء، جن کے متعلق بلاذری نے لکھا ہے کہ یہ جنگ اجنادین میں شہید ہوئے، بعینہ وہی ہیں جن کے متعلق طبری نے لکھا ہے کہ یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ نیز بلاذری اور یعقوبی کی رائے میں یرموک کے مقام پر مسلمانوں کے اجتماع کا جو سبب تھا، طبری کی رائے میں بعینہ وہی سبب اجنادین کے مقام پر مسلمانوں کے اجتماع کا تھا۔

(ب) مؤرخین اس امر پر متفق ہیں کہ ان دونوں جنگوں میں سے ایک جنگ فتح دمشق سے قبل ہوئی تھی اور ایک جنگ بعد میں۔

(ج) یرموک اور اجنادین دو مختلف مقامات ہیں۔ یرموک غور کی جانب ایک ندی ہے جو دریائے اردن میں گرتی ہے اور اجنادین فلسطین کے ضلع بیت جبرین میں رسلہ کے قریب ایک مقام ہے۔

ان امور کے تذکرے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان واقعات کی اصل ترتیب کیا ہے۔ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے جنگ یرموک دمشق کی فتح سے پہلے ہوئی ہے اور اجنادین فتح دمشق کے بعد۔ کیونکہ :-

(۱) حضرت ابوبکر صدیق کے اس خط سے جس میں آپ نے حضرت خالد کو شامی افواج کی مدد کے لئے جانے کا حکم دیا

تھا یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس خط میں آپ نے حضرت خالد کو لکھا تھا کہ وہ عراق سے چل کر یرموک میں مسلمان افواج کی مدد کے لئے پہنچیں۔

(۲) یاقوت نے بھی معجم البلدان (جلد ۸ صفحہ ۴۰۵) میں یہی تصریح کی ہے۔

(۳) ان اشعار سے بھی جو قعقاع بن عمرو نے اسلابی فتوحات کے متعلق لکھے ہیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ یرموک فتح دمشق سے پہلے واقع ہوئی تھی۔ قعقاع کہتے ہیں :-

وجئنا الی بصر و بصری بقیمة
فألقت الینا بالحشا و المعاذر
فضضنا بها ابوابها ثم قابلت
بنا العیس فی الیرموک جمع العشائر

(ہم بصری پہنچے۔ بصری والے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہم پر کورٹا کرکٹ پھینکا۔ لیکن ہم نے اس کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد ہمیں یرموک کے مقام پر روسیوں کا لشکر جرار ملا)۔

ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ عراق سے آنے والی فوج نے پہلے بصری فتح کیا، اس کے بعد یرموک کے مقام پر روسیوں کو شکست دی۔

(۴) طبری کی بھی اس روایت کے ماسوا، جو اس نے ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کی ہے، باقی روایات میں یہی مذکور ہے کہ جنگ یرموک، فتح دمشق سے پہلے ہوئی۔

(۵) طبری نے واقدی کی اس روایت کو، کہ جنگ یرموک

۱۵ ھ میں ہوئی ، ضعیف گردانا ہے * -

خود طبری کی اس روایت کے ٹکڑوں میں ، جو اس نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھی ہے اور جس میں یہ مذکور ہے کہ جنگ اجنادین ۱۳ ھ میں ، فتح دمشق ۱۴ ھ میں اور جنگ یرموک ۱۵ ھ میں ہوئی ، تضاد پایا جاتا ہے ۔ چنانچہ اس روایت کے شروع میں یہ تصریح ہے کہ حضرت خالد کی معزولی اس وقت ہوئی جب مسلمان ۱۴ ھ میں دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے تھے لیکن روایت کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ ”حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں مالک بن نویرہ کے قتل اور بعض دوسرے امور کی وجہ سے ، جو حضرت خالد سے جنگوں کے دوران میں سرزد ہوئے ، حضرت خالد سے ناراض رہے اور جونہی خلافت آپ کے ہاتھ میں آئی آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد کو معزول کرنے کا حکم صادر کیا “ ۔ اس واقعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد کی معزولی حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں ، یعنی ۱۳ ھ کے نصف میں ہوئی ۔ لیکن روایت کے ابتدائی حصہ میں یہ مذکور ہے کہ آپ کی معزولی ۱۴ ھ میں محاصرہ دمشق کے وقت ہوئی ۔

(۶) ابن برہان الدین † لکھتے ہیں کہ ” حضرت صدیق نے اس وقت وفات پائی جب مسلمان یرموک میں روسیوں سے جنگ کرنے کی تیاریوں میں مشغول تھے “ ۔

(۷) یرموک اردن کے علاقے میں ہے اور اجنادین فلسطین کے علاقے میں ۔ فتح دمشق کے بعد اردن میں مسلمانوں کے پاؤں

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۵۹ -

† السیرة الحلبيہ جلد ۳ صفحہ ۱۶۳ -

پوری طرح جم گئے تھے ، لیکن فلسطین میں کئی شہر مثلاً بیت المقدس وغیرہ ایسے تھے جو بدستور رومیوں کے قبضے میں تھے اور وہاں ان کے بڑے بڑے لشکر موجود تھے ۔ ان شہروں کو مسلمانوں نے بعد میں فتح کیا ۔ قرین قیاس یہی بات ہے کہ رومی لشکر جنگ اجنادین کے بعد مسلمانوں سے مزید مقابلے کے لئے ایسے ہی شہروں میں جمع ہوئے ہوں گے جو ان کے قبضہ میں تھے اور جہاں انہیں فتح کی امید ہو سکتی تھی ۔ یہ بات بالکل بعید از عقل ہے کہ رومی فلسطین کو چھوڑ کر اردن میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے آگئے ہوں گے ۔

انہی وجوہات کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ یرموک ، جنگ دمشق سے پہلے ہوئی ہے اور جنگ اجنادین جنگ دمشق کے بعد ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اجنادین کے مقام پر دو جنگیں ہوئی ہوں ، ایک جنگ یرموک سے پہلے اور دوسری جنگ دمشق کے بعد ۱۵ ھ میں ۔ بلاذری اور یعقوبی نے پہلی جنگ کا تو ذکر کر دیا لیکن دوسری کا چھوڑ دیا ، حالانکہ یہی وہ جنگ ہے جس میں فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص کے اصلی جنگی جوہر دنیا کے سامنے آئے ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ طبری ایک روایت میں تو جنگ اجنادین کا ذکر جنگ یرموک سے پہلے کرتے ہیں لیکن پھر جنگ دمشق کے بعد ایک علیحدہ باب میں خاص طور پر اس جنگ کا حال بیان کرتے ہیں ۔

سؤرخین کی روایات میں اختلاف کی بڑی وجہ غالباً یہ ہے کہ ۱۳ ھ ، ۱۴ ھ اور ۱۵ ھ میں کثرت کے ساتھ جنگیں وقوع پذیر ہوئیں ۔ بعض اوقات ایک ایک وقت میں دو دو جنگیں ہوئیں ۔ ایک راوی نے کسی واقعے کا ذکر دوسرے واقعے سے پہلے کر دیا دوسرے راوی نے دوسرے واقعے کا ذکر پہلے کر دیا ۔ بعد میں جب

وہ لوگ آئے جنہوں نے دونوں راویوں سے روایات لیں ، تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق واقعات کو بالکل الگ ترتیب دے دی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی شہر فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا جسے انہیں دوبارہ فتح کرنا پڑا۔ ایک راوی نے پہلی فتح کا ذکر کر دیا اور دوسرے راوی نے دوسری فتح کا حال بیان کر دیا۔ اس طرح روایات میں اختلاف پیدا ہو گیا۔

حضرت خالد اور حضرت عمر

ان اسباب پر بحث کرنے سے پہلے جوان دو عظیم قائدین کی باہمی غلط فہمی کا باعث بنے ، بہتر ہے کہ ان دونوں کے اخلاق و عادات کا مختصر سا تذکرہ کیا جائے تاکہ اخلاق و عادات کی روشنی میں اس مخالفت کے اسباب پر بحث کرنی آسان ہو جائے ۔

حضرت عمر کے اوصاف

(۱) آپ اپنے تمام کاموں میں سچائی اور انصاف کو مقدم رکھتے تھے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حق اختیار کرنے سے منحرف نہ کر سکتی تھی ۔

(۲) ہر آس چیز کو جس میں اسلام کا فائدہ ، ہو آپ کے نزدیک اولین حیثیت حاصل تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ عامۃ المسلمین کی خوشنودی کی خاطر آپ عہد کی ناراضی بھی برداشت کر لیتے تھے ۔

(۳) آپ اپنے عہد پر کڑی نظر رکھتے تھے اور ان کاموں سے معمولی کام بھی آپ کی نظروں سے اوجھل نہ رہتا تھا ۔

(۴) آپ کا خیال تھا کہ عمال کو خلیفہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز میں تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ۔ خصوصاً مالی امور میں تو آپ عہد کی آزاد روی کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے ۔ آپ فرمایا کرتے تھے ” میں تو مسلمانوں کو اسیر

تجارتی نمائندہ ہوں ،، -

(۶) آپ جہاں خود حد درجہ کفایت شعار اور نہایت سادگی
سند انسان تھے وہاں اپنے اعمال کے متعلق بھی یہی چاہتے
ہے کہ وہ بھی آپ کے نمونے پر عمل کرتے ہوئے کفایت شعاری
پر سادگی اختیار کریں۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ عربوں کو
اپنا اصلی جوہر - سادگی - کبھی فراموش نہیں کرنا چاہئے
اور دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کی طرف اپنی تو جہات قطعاً
بذول نہیں کرنی چاہئیں، کیوں کہ فراغت اور سکون حاصل
ہوتے ہی وہ اپنا اصلی مقصد، اعلاء کلمۃ الحق، بھول جائیں گے۔

حضرت خالد کے بعض اوصاف

(۱) آپ بھی حق بات کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے، البتہ
زمانہ جنگ میں آپ سے بعض معمولی فرو گذاشتیں سرزد ہو جاتی
تھیں۔ مگر اُس وقت بھی آپ کو یہی خیال رہتا تھا کہ کوئی کام
ایسا نہ ہونے پائے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ مسلمانوں
کا فائدہ ہمیشہ آپ کے مد نظر رہتا تھا۔ اور وہ فرو گذاشتیں
بھی اسی لئے آپ سے سرزد ہوتی تھیں کہ آپ کو آن میں
مسلمانوں کا فائدہ نظر آتا تھا۔

(۲) آپ کی رائے یہ تھی کہ اعمال اور امراء کو اپنے کاموں
میں کچھ آزادی اور اختیار حاصل ہونا چاہئے۔ بہ الفاظ دیگر
یہ ضروری نہ ہونا چاہئے کہ جب تک خلیفہ کی طرف سے کوئی
حکم موصول نہ ہو، امیر اپنے اختیار سے کوئی کام نہ کر سکے۔
بلکہ اگر خلیفہ کی طرف سے بروقت کوئی حکم موصول نہ ہو
تو امیر کو اپنے اختیار سے بھی بعض احکام صادر کرنے کی

اجازت ہونی چاہئے۔

(۳) آپ کے نزدیک دنیوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور عیش و آرام سے زندگی گزارنے میں کوئی حرج نہیں تھا، بشرطیکہ یہ چیزیں دینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اختیار کی جائیں*۔

(۴) آپ فوجی آدمی تھے۔ اس وجہ سے آپ کے مزاج قدرے سختی اور خشونت پیدا ہو گئی تھی۔

اس مجمل بیان سے معلوم ہو چکا ہو گا کہ گو دونوں میں حق بات اختیار کرنے اور مسلمانوں کے فائدہ کو ہمیشہ مقدم رکھنے کی صفات مشترک تھیں، تاہم دونوں کی طبائع میں بہت فرق تھا اور دونوں میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے کچھ کچھ سختی پائی جاتی تھی۔ ایسی حالت میں دونوں کے درمیان ٹکراؤ اور اختلاف کا ہونا ایسا عجب نہیں۔

رسول اللہ کے زمانے میں نظریات کے ان اختلافات نے بیرونی طور پر کوئی نتیجہ یا اثر پیدا نہیں کیا، کیونکہ حضورؐ کے زمانے میں یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص حضورؐ کی رائے کے برخلاف کوئی رائے ظاہر کر سکے۔ آپؐ کے زمانے میں ہر شخص کا مدعا اور مقصود یہی تھا کہ دینی اور دنیوی ہر قسم کے امور کے متعلق رسول اللہ کی رائے دریافت کرے اور کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کرے۔

حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو اس وقت صحابہ کر

* اسی کا اثر تھا کہ آپ اکثر شان دار جاموں میں غسل کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ اشعث شاعر کو انعام میں دو ہزار درہم دے دئے تھے۔

ور دینی حیثیت میں بلند مرتبہ رکھنے والے بزرگوں نے اپنی آراء کا اظہار کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر کی حیثیت تو حضرت صدیق کے وزیر کی سی تھی۔ حضرت صدیق جو کام کرنا چاہتے، اس کے ارے میں پہلے حضرت عمر سے مشورہ کرتے۔ اس وقت سے حضرت عمر اور حضرت خالد کے درمیان اختلافات شروع ہوئے۔ حضرت خالد سے کئی کام ایسے سرزد ہوئے جنہیں حضرت عمر پسند نہ کرتے تھے۔ لیکن وہ حضرت صدیق کے زمانے میں خالد کو معزول کرانے میں کامیاب نہ ہو سکے، کیوں کہ ایک و حضرت صدیق بہت نرم طبیعت کے انسان تھے، اور اپنے عہد کے کاموں میں زیادہ دخل دینا اور ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے سختی سے احتساب کرنا پسند نہ فرماتے تھے، دوسرے اس ازک وقت میں اسلام کو حضرت خالد کی تلوار کی سخت ضرورت تھی۔ یہ خالد ہی تھے جنہوں نے جزیرہ عرب کے مرتدین کا قلع قمع کیا اور کسری اور قیصر کے ایوانوں کو متزلزل کر کے آئندہ عظیم فتوحات کے لئے راستہ صاف کر دیا۔ حضرت خالد کی معزولی خواہ حضرت صدیق کے زمانے میں ہوتی یا حضرت عمر کے زمانے میں، مناسب نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کو باوجود حضرت خالد سے اختلاف رکھنے کے آخر کار یہ اعتراف کرنا پڑا کہ خالد کے بارے میں حضرت صدیق نے جو رویہ اختیار کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔

حضرت عمر نے خلیفہ ہوتے ہی حضرت خالد کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ ذیل میں ہم ان اسباب کا ذکر کریں گے جو مؤرخین کے نزدیک حضرت عمر کی حضرت خالد سے ناراضی اور بالآخر آپ کی معزولی کا باعث بنے۔

حضرت عمر کی حضرت خالد سے ناراضی کے اصل اسباب

ابن عساکر اور ابن برہان الدین * لکھتے ہیں کہ اس ناراضی کا اصل سبب یہ تھا کہ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے حضرت خالدؓ میں لڑائی ہو گئی، جس میں حضرت خالد نے حضرت عمر کی پنڈلی توڑ ڈالی۔ اس واقعے سے حضرت عمر کے دل میں حضرت خالد کی طرف سے جو غصہ پیدا ہوا وہ آخر وقت تک گیا اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو اس سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ خالد کو معزول کر دیا۔

یہ درست ہے کہ بچپن میں ان دونوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا اور واقعی حضرت خالد نے ایک دفعہ حضرت عمر کی پنڈلی بھی توڑ دی تھی، لیکن اس کا اگر کچھ اثر ہو سکتا ہے تو وہ محض وقتی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے کہ حضرت عمر کے دل پر یہ واقعہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نقشہ ہو گیا۔ اگر بفرض مجال یہ مان بھی لیا جائے کہ بڑے ہو بھی حضرت عمر کے دل میں یہ بات کانٹے کی طرح کھٹکتی رہے تب بھی اسلام لانے کے بعد اس واقعے کے اثرات کا باقی رہنا کسی صورت میں ممکن نہیں اور کوئی عقل مند شخص جسے اسلام ان تاثیرات کا علم ہے جو صحابہ کے دلوں میں اس نے پیدا دی تھیں، یہ بات باور کرنے کے لئے کبھی تیار نہ ہوگا۔ اس نے مومنین کے دلوں سے جاہلیت کے آن پرانے کینوں کی عداوتوں کو یکسر مٹا دیا جو پشتہا پشت سے مختلف قبائل اور اشخاص میں چلی آ رہی تھیں۔ کیا وہ اس ناراضی کو دور نہ

* ابن عساکر صفحہ ۷۱۔ السیرة التحلیہ جلد ۳ صفحہ ۸۶

سکتا تھا جو محض دو بچوں کے آپس کے معمولی جھگڑے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی تھی؟ اسلام لانے کے بعد تو اگر کوئی شخص اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے بھی ملتا تھا تو نہایت صاف دل ہو کر ملتا تھا اور قاتل کی جانب سے اس کے دل میں کوئی کینہ نہ ہوتا تھا۔ کیا حضرت عمر ایک عام انسان جتنی قوت برداشت بھی اپنے اندر نہ رکھتے تھے اور محض بچپن کے ایک جھگڑے کی وجہ سے ان کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حضرت خالد سے عداوت اور بغض و کدورت پیدا ہو گئی؟ کم از کم یہ وجہ حضرت عمر کے سلسلے میں صحیح نہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر کے دل میں حضرت خالد کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کینہ موجود نہ تھا۔ جب حضرت خالد اپنی معزولی کے بعد مدینہ تشریف لائے تو حضرت عمر نے فرمایا تھا ”خالد! میں تمہاری بے حد عزت کرتا ہوں اور تم مجھے بے حد محبوب ہو*“۔

ناراضی کے حقیقی اسباب جو حقیقت کے بھی مطابق ہیں، تاریخ سے بھی مطابقت رکھتے ہیں اور دونوں کے اخلاق و عادات کے لحاظ سے بھی بعید از قیاس نہیں۔ مندرجہ ذیل ہیں:۔

(۱) حضرت خالد کا مالک بن نویرہ کو قتل کرنا اور اس کی بیوہ سے شادی کر لینا۔ یہ واقعہ رونما ہونے پر حضرت عمر نے حضرت صدیق سے بھی خالد کو قید کرنے اور معزول کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی حضرت خالد بنو جذیمہ کو قتل کر چکے تھے۔ بعد میں جنگ مصلح کے موقع پر بھی آپ نے دو ایسے اشخاص کو قتل کر دیا، جو اسلام

لے آئے تھے اور ان کے پاس حضرت صدیق کی مرحمت فرمائی ہوئی تصدیق بھی موجود تھی۔ ان واقعات کے باعث حضرت عمر کی برہمی کی کوئی انتہا نہ رہی۔

(۲) حضرت خالد بعض اوقات حضرت صدیق کی رائے کے برخلاف بھی کوئی کام کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر یہ برداشت نہ کر سکتے تھے*۔

(۳) حضرت خالد، حضرت صدیق کو جزیہ، لگان اور دیگر محصولات کا، جو لوگوں سے وصول کئے جاتے تھے، کوئی حساب نہ بھیجتے تھے۔ حضرت صدیق تو در گذر کر جاتے تھے لیکن یہ چشم پوشی حضرت عمر سے بعید تھی۔

(۴) سلمان، حضرت خالد کی شخصیت پر بھروسہ کر بیٹھے تھے اور اسلامی فتوحات کو ان کی جنگی سہارت پر محمول کرنے لگے تھے۔ عوام کا حضرت خالد پر یہ بھروسہ بھی آپ کو معزول کرنے کا ایک سبب بنا۔ فاروق اعظم لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ فتح صرف نصرت خداوندی پر مبنی ہے، خالد کی شجاعت و بہادری پر نہیں۔ اللہ ہر حال میں اپنے دین کی مدد کرنے کا خواہ خالد سپہ سالار ہوں یا نہ ہوں۔ حضرت عمر نے خود بھی اپنے ایک خط میں، جو آپ نے مختلف شہروں کے حاکموں اور قائدین کے نام بھیجا تھا، اس چیز کی تصریح کر دی تھی۔ اس خط میں آپ نے فرمایا تھا ”میں نے خالد کو کسی ناراضی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس لئے کیا کہ لوگ ان کی وجہ سے فتنہ میں پڑنے لگے تھے۔ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ

* ابن عساکر صفحہ ۱۳۷۔ الاصابہ جلد اول صفحہ ۹۹۔

کہیں وہ خالد کی ذات پر بھروسہ نہ کرنے لگیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ بندہ کچھ بھی حیثیت اور اختیار نہیں رکھتا*۔

معزولی کب ہوئی؟

حضرت خالد کی معزولی کے بارے میں بھی مؤرخین میں اختلاف ہے۔ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ معزولی کا حکم اس وقت پہنچا جب مسلمان دمشق کے محاصرے میں مشغول تھے † اور بعض یہ لکھتے ہیں کہ معزولی سرکہ یرموک کے اثناء میں ہوئی ‡۔

وہ لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ حضرت خالد کے پاس محاصرہ دمشق کے دوران میں معزولی کا حکم پہنچا یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس محاصرے کے وقت لشکر کے امیر حضرت خالد تھے اور صلح نامہ انہی کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ لیکن یہ دلیل کوئی وزنی دلیل نہیں ہے۔ لشکر کی اسارت ان کے سپرد اس لئے کی گئی تھی کہ آپ جیسا جنگی ماہر لشکر اسلام میں اور کوئی نہ تھا اور صلح نامہ ان کی طرف سے اس لئے لکھا گیا تھا کہ آپ صلح نامے اور عہد نامے طے کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ ان میں سے ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۲۰۶۔

† الطبری بروایت ابن اسحاق جلد ۴ صفحہ ۵۵۔ بلاذری صفحہ ۱۲۱۔

‡ طبری کی زیادہ تر روایات میں یہی مذکور ہے۔ ابن اثیر بھی یہی لکھتے ہیں۔

مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ حضرت صدیق کی وفات سے صرف چار روز قبل کیا تھا۔ لیکن یہ روایت قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔ بعض لوگ معزولی کا ذکر ہی اس طور پر کرتے ہیں کہ گویا انہیں خود اس پر اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ بلاذری اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کے لٹے شام کی ولایت سنبھالنے کا حکم محاصرہ دمشق کے دوران میں آیا لیکن حضرت خالد نے اس حکم کو چھپائے رکھا“۔ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں جو روایت بیان کی ہے اس کے حصے ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یعنی روایت کے شروع میں یہ بیان ہے کہ حضرت خالد کو ۱۴ ۵ میں محاصرہ دمشق کے موقعے پر معزول کیا گیا لیکن روایت کے آخر میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عمر نے خلافت سنبھالنے ہی سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد کی معزولی کا حکم روانہ کیا۔

ہم اس معاملے میں دوسرے فریق کے ساتھ ہیں جو یہ کہتا ہے کہ حضرت خالد کی معزولی جنگ یرموک کے موقعے پر ہوئی۔ اپنی تائید میں ہم دو قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں: اول، ٹھوس تاریخی شہادتیں، دوئم، ایسے تاریخی واقعات جن پر معمولی غور و فکر کرنے سے اصل حقیقت سامنے آجاتی ہے۔

ٹھوس تاریخی شہادتیں

(۱) طبری کی اکثر روایات میں یہی مذکور ہے کہ حضرت خالد کو جنگ یرموک کے موقعے پر معزول کیا گیا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ”مسلمان یا قوصہ کے مقام پر تھے.....“

وہیں حضرت ابو عبیدہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت صدیق کی وفات ہو گئی ہے ، انہیں شام کی تمام فوجوں کا سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے اور خالد بن ولید کو معزول کر دیا گیا ہے * ” ۔

(۲) ابن اثیر یروشک کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ” وہیں (یروشک میں) قاصد حضرت صدیق کی وفات کی خبر اور حضرت ابو عبیدہ کی امارت کا حکم لایا † ” ۔

(۳) معجم البلدان میں اس جگہ جہاں یروشک کا ذکر کیا گیا ہے ، لکھا ہے ” اس روز قاصد حضرت صدیق کی وفات اور حضرت عمر کی خلافت کی خبر اور تمام شام کے لئے حضرت ابو عبیدہ کی امارت اور حضرت خالد کی معزولی کے احکامات لایا ‡ ” ۔

(۴) مؤلف کتاب السیرة الحلیبیہ نے لکھا ہے ” جب حضرت ابوبکر صدیق نے وفات پائی تو مسلمان یروشک میں جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے جب حضرت عمر نے خلافت سنبھالی تو آپ نے حضرت خالد کی معزولی اور لشکر اسلام پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی امارت کے احکامات دے کر ایک قاصد کو شام کی جانب بھیجا ✱ ” ۔

تاریخی واقعات

(۱) جمہور مؤرخین کے نزدیک خلافت سنبھالتے ہی

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۵۵ و ۴۶ و ۳۸ ۔

† ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۸۳ ۔

‡ معجم البلدان جلد ۸ صفحہ ۵۰۴ ۔

✱ السیرة الحلیبیہ جلد ۳ صفحہ ۱۶۳ ۔

حضرت عمر نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد کی معزولی اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالاری کے فرائض سونپنے کے احکام جاری کئے*۔ جیسا ہم اوپر ثابت کر آئے ہیں سب سے پہلی جنگ جو حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں لڑی گئی وہ جنگ یرموک تھی۔ اس صورت میں لازماً یہی ماننا پڑے گا کہ حضرت خالد کو معزولی کا حکم جنگ یرموک میں ملا۔

(۲) یعقوبی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے غلام یرفأ کے ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر اور شداد بن اوس کے ہاتھ حضرت ابو عبیدہ کو خالد کی جگہ شام کا امیر اور سپہ سالار بنانے کا حکم بھیجا۔ یعقوبی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جنگ جس کی تیاری حضرت صدیق کے زمانے میں کی گئی اور جس کا اختتام حضرت عمر کے عہد میں ہوا وہ جنگ یرموک تھی†۔ اس صورت میں یہی ماننا پڑے گا کہ آپ کی معزولی جنگ یرموک کے موقعے پر ہوئی۔

(۳) ابن اثیر لکھتے ہیں کہ ”(خلافت ملنے کے بعد) سب سے پہلا خط جو حضرت عمر نے لکھا وہ حضرت ابو عبیدہ کے نام تھا جس میں آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ خالد کے لشکر کی کہان بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں..... سب سے پہلی بات جو خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے کی وہ بھی حضرت خالد کی معزولی کے بارے میں تھی‡۔“

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۵۴ و ۵۶ - یعقوبی جلد ۲ صفحہ

۱۵۸ - ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۹۳ -

† یعقوبی جلد ۲ صفحہ ۱۵۸ -

‡ ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۹۳ -

(۴) حضرت صدیق نے جس خط میں حضرت خالد کو اسلامی لشکروں کی امداد کے لئے شام جانے کا حکم دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ تم اپنی فوجوں کو لے کر عراق سے چلو اور یرموک پہنچ کر اسلامی افواج سے مل جاؤ*۔ اس خط سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد کو مسلمانوں کی امداد کے لئے یرموک بھیجا گیا تھا۔ جنگ یرموک حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد اور حضرت عمر کے عہد کے آغاز میں ہوئی۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے حضرت عمر کا اپنے عہد کا پہلا کام حضرت خالد کی معزولی تھا۔ اس صورت میں معزولی جنگ یرموک کے دوران ہی میں مانتی پڑے گی۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت خالد کو کم از کم دو مرتبہ ان کے عہدوں سے معزول کیا۔ پہلی بار جنگ یرموک کے موقع پر آپ کو اس عراقی لشکر کی قیادت سے معزول کیا جو آپ کے ساتھ عراق سے شام آیا تھا اور حضرت ابو عبیدہ کو ان تمام افواج کا جو مختلف امراء کی زیر سرکردگی شام میں موجود تھیں سپہ سالار اعظم مقرر کر کے حضرت خالد کو ان کے ماتحت کر دیا۔ بعد میں جب قنسرین فتح ہوا تو حضرت عمر نے انہیں وہاں متعین کر دیا (گو وہاں بھی آپ حضرت ابو عبیدہ کے ماتحت ہی تھے) کچھ عرصے بعد انہیں وہاں سے بھی معزول کر دیا گیا۔

یہ واقعہ اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ جب حضرت عمر بیت المقدس تشریف لائے تو قنسرین سے حضرت خالد آپ سے ملنے کے لئے جاہلہ پہنچے۔ حضرت عمر کے واپس تشریف لے جانے کے

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۲۶ و ۲۷۔ ابن عساکر صفحہ ۷۰۷۔

بعد آپ وہاں سے بہت سا مال لے کر قنسرین واپس پہنچے۔ جب شہر میں یہ شہرت ہوئی کہ خالد بہت سا مال و اسباب لے کر آئے ہیں تو ایک شاعر اشعث بن قیس کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے آپ کی تعریف و توصیف میں ایک قصیدہ لکھ کر آپ کو جا سنایا۔ آپ نے اسے دس ہزار درہم مرحمت فرمائے۔ حضرت عمر سے یہ بات کب پوشیدہ رہ سکتی تھی۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو ایک خط لکھا جس میں انہیں حکم دیا کہ یہ خط پہنچنے پر خالد کے سر سے ان کی ٹوپی اتار لیں اور عامہ ان کی گردن میں ڈال دیں اور ان سے دریافت کریں کہ اشعث کو رقم انہوں نے کہاں سے دی ہے؟ اگر مسلمانوں کے مال سے دی ہے تو خیانت کی ہے اور اگر اپنے پاس سے دی ہے تو اسراف کیا ہے۔ اس لئے دونوں حالتوں میں وہ معزولی کے قابل ہیں۔ انہیں معزول کر کے ان کا کام وہ خود سنبھال لیں۔

حضرت ابو عبیدہ نے اور باتوں میں تو خلیفہ کے حکم کی تعمیل کر دی لیکن حضرت خالد کو یہ نہ بتایا کہ انہیں معزول کیا جا چکا ہے۔ حضرت خالد بھی اس شش و پنج میں مبتلا تھے کہ نہ معلوم انہیں معزول کیا جا چکا ہے یا وہ بدستور اپنے عہدے پر قائم ہیں۔ جب حضرت خالد مدینہ نہ پہنچے تو حضرت عمر نے یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو ابو عبیدہ نے خالد کو ان کی معزولی کی اطلاع نہیں دی ہے۔ جس پر آپ نے ایک خط بھیج کر حضرت خالد کو مدینہ طلب کیا۔ حضرت خالد یہ خط لے کر ابو عبیدہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کو رنج پہنچانا نہ چاہتا تھا۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ میرے پاس آپ کو معزول کرنے کا حکم آیا تھا۔ حضرت خالد، حضرت ابو عبیدہ سے رخصت ہو کر قنسرین

پہنچے اور اپنے رفقاء کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ وہاں سے وہ حمص پہنچے، وہاں بھی ایک خطبہ دیا۔ حمص سے مدینہ کا رخ کیا۔ مدینہ پہنچ کر جب حضرت عمر سے ملے تو آپ نے ان سے شکایت کی کہ آپ نے میرے معاملے میں زیادتی سے کام لیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا ”تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟“۔ حضرت خالد نے جواب دیا ”مال غنیمت کے حصوں سے“۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ اگر میرے پاس ساٹھ ہزار درہم سے زیادہ رقم نکلے تو میں وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں“۔ چنانچہ بیس ہزار درہم زائد نکلے جو حضرت عمر نے بیت المال میں داخل کر دئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ”خالد! اللہ کی قسم تم مجھے نہایت عزیز اور محبوب ہو۔ آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا *“ یہ کہہ کر آپ نے تمام سلطنت میں یہ فرمان بھیج دیا کہ ”میں نے خالد کو کسی ناراضی یا ان کی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا بلکہ صرف اس لئے معزول کیا کہ لوگ ان کی وجہ سے فتنہ میں پڑے جا رہے تھے“۔

حضرت خالد کے مدینہ تشریف لانے پر حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا تھا :

صنعت فلم یصنع کصنعک صانع
وما یصنع الاقوام فساللہ یصنع†

(تم نے بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دئے اور کوئی شخص بھی تم جیسے کارہائے نمایاں بجا نہ لاسکا۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ قومیں کچھ نہیں کیا کرتیں، جو کچھ کرتا

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۲۰۵ - ابن عساکر صفحہ ۷۱۰ -

† الطبری جلد صفحہ ۲۰۶ -

ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے)۔

مدینہ سے حضرت خالد حمص واپس چلے گئے اور وہیں
رہائش اختیار کر لی۔ آپ کی وفات بھی حمص ہی میں ہوئی*۔

حضرت خالد کی معزولی کا اثر، حضرت عمر کے دل پر

خواہ حضرت خالد کی معزولی کا کوئی سبب بھی کیوں نہ
ہو، تاہم حضرت عمر صادق دل سے یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے
جو کچھ کیا ہے وہ دینی نقطہ نگاہ سے بالکل ٹھیک ہے اور اسی
میں مسلمانوں کا فائدہ بھی مضمحل ہے۔

معزولی کا اثر، حضرت خالد کے دل پر

اس معزولی سے حضرت خالد کے عزم و ارادہ اور قوت و
طاقت میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑا۔ آپ دین کی حمایت کے
لئے بدستور سرگرم عمل اور اعلاء کلمۃ الحق کے لئے بدستور
کوشاں رہے۔ حضرت عمر کی طرف سے کسی قسم کا کینہ اور
غصہ آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوا۔ معزولی کا حکم عین اس
وقت پہنچا تھا جب میدان کارزار گرم تھا۔ ایسے مواقع پر جب
کوئی رنجیدہ خبر موصول ہو تو فطری طور پر انسان میں کمزوری
پیدا ہو جاتی ہے لیکن آپ کسی قسم کی کمزوری دکھائے
بغیر برابر دشمن کے مقابلے میں مصروف عمل رہے اور اس وقت
تک دم نہ لیا جب تک مکمل فتح حاصل نہ کر لی۔ بعد میں
بھی آپ نے قربانی کا ایسا بے نظیر نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا

* ابن عساکر صفحہ ۷۱۲ و ۷۱۳۔

تک یاد گار رہے گا۔ گو بعد کی جنگوں میں آپ کی حیثیت محض ایک سپاہی کی تھی جو اپنے افسر کے حکم کے مطابق لڑ رہا ہو لیکن ان جنگوں میں بھی آپ نے ایسے کارہائے نمایاں سرانجام دئے کہ خود حضرت عمر کو آپ کی جنگی مہارت اور امارت کے لئے آپ کی اہلیت کا اعتراف ان الفاظ میں کرنا پڑا ”خالد نے اپنے کارناموں سے خود ہی اپنے آپ کو سپہ سالار بنا لیا“۔ حضرت عمر جیسے شخص کی زبان سے حضرت خالد کی اس سے زیادہ تعریف اور کیا ہو سکتی ہے۔

امراء کے دلوں پر معزولی کا اثر

حضرت خالد کی معزولی ایسی بات نہ تھی جو امراء اور قائدین کے دلوں سے آپ کی قدر و منزلت اور عظمت کم کر دیتی۔ معزولی کے بعد بھی آپ کی وہی عزت اور وقعت باقی رہی جو معزولی سے پہلے تھی۔ دوران جنگ میں جب کوئی نازک مرحلہ پیش آجاتا اور دشمن کا لشکر کسی طرح زیر نہ ہو سکتا تو تمام امراء مشورے کے لئے حضرت خالد ہی کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کی بتائی ہوئی تدابیر کے مطابق عمل کرتے تھے۔ گو امارت اور قیادت کا ظاہری نشان تو آپ کے پاس نہ تھا لیکن اس کے اثرات کسی موقع پر بھی زائل نہ ہو سکے۔

لشکریوں کے دلوں پر معزولی کا اثر

مسلمان دوسرے قائدین کے مقابلے میں آپ کی فوج میں شریک

ہو کر دشمن سے مقابلہ کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ معزولی کے بعد بھی ہر شخص خواہ وہ پہلے آپ کی فوج میں شامل رہا ہو یا نہ رہا ہو، آپ کی اطاعت کے لئے بے چین نظر آتا تھا۔ فوج کے ہر دستے کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ حضرت خالدؓ اسی میں شامل ہوگا تا کہ وہ آپ کے حسن تدبیر، اصابت رائے اور فنون جنگ میں سہارت کی بدولت جنگ میں زیادہ سے زیادہ سرخروٹی حاصل کر سکے۔

صحابہ کے دلوں پر معزولی کا اثر

اس میں کوئی شک نہیں کہ جلیل القدر اور کبار صحابہ دل سے یہی چاہتے تھے کہ حضرت خالد امارت کے عہدے پر بدستور برقرار رہیں اور انہیں حضرت عمر کی خوشنودی بھی اسی طرح حاصل رہے جس طرح انہیں حضرت صدیق کی خوشنودی حاصل تھی۔ وہ حضرت خالد کے بے نظیر کارناموں سے اچھی طرح واقف تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ کی تلوار کفار کے سروں پر بدستور مسلط رہے۔

ناراضی اور اختلاف کا اختتام

شروع میں حضرت عمر اور حضرت خالد کے درمیان ناراضی اور اختلاف پایا جاتا تھا وہ بالآخر دونوں جانب سے محبت اور اخلاص پر منہمک ہوئے۔ دونوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہر شخص اپنے موقف میں حق پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ اختلاف دنیوی یا شخصی وجوہات سے نہیں تھا بلکہ

بھٹس دینی امور کی وجہ سے تھا۔ بعد میں حضرت عمر خود اپنے فعل پر پشیمان ہوئے۔ جب حضرت خالد کی وفات ہوئی اور ان کے ترکے میں سوائے ان کے گھوڑے، ہتھیاروں اور ایک غلام کے اور کچھ نہ نکلا تو حضرت عمر نے فرمایا ”اللہ ابوسلیمان پر رحم کرے۔ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس تنگ دستی سے اپنا گزارہ کرتے ہوں گے“۔ اسی طرح جب حضرت خالد مدینہ تشریف لائے اور حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے متعلق ان سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا ”خالد! اللہ کی قسم تم مجھے نہایت عزیز اور محبوب ہو۔ آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا“۔

اس واقع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا دل بالآخر حضرت خالد کی طرف سے بالکل صاف ہو گیا تھا اور انہوں نے آپ کو اپنا حبیب ہی نہیں بنایا بلکہ ان پر کبھی ناراض نہ ہونے کا عہد بھی کیا۔

اسی پر نہیں۔ جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور آپ کو اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو لوگوں نے آپ سے کہا ”اگر آپ اپنا جانشین مقرر فرمادیں تو بعد میں امت کے لئے بہت آسانی رہے گی“۔ آپ نے فرمایا ”اگر خالد بن ولید زندہ ہوتے تو میں انہیں خلافت سونپ دیتا۔ پھر جب میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا اور وہ مجھ سے پوچھتا کہ اے عمر! تو نے امت محمدیہ پر کس شخص کو خلیفہ بنایا؟ تو میں عرض کرتا، اے اللہ! میں نے تیرے بندے اور حبیب (رسول اللہ) کو یہ کہتے سنا تھا کہ خالد، اللہ کی تلواروں میں سے ایک

* ابن عساکر صفحہ ۷۱۳ و ۷۱۶ -

تلوار ہیں جسے اس نے مشرکوں پر مسلط کیا ہے*۔

حضرت خالد کی وفات پر حضرت عمر کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے فرمایا ”خالد کے مرنے سے اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جو کبھی پر نہ کی جاسکے گی۔ کاش اللہ ان کی عمر اور لمبی کر دیتا†“

ہشام بن بختری بنو مخزوم کے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے کہا ”تم نے خالد کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں وہ سناؤ۔ ہشام نے وہ اشعار آپ کو سنائے لیکن آپ کو وہ پسند نہ آئے۔ آپ نے فرمایا :

”تم نے ابو سلیمان (حضرت خالد) کی قرار واقعی تعریف و توصیف نہیں کی۔ وہ چاہتے تھے کہ شرک کو کلی طور پر نیست و نابود کر دیں۔ انہوں نے اپنی زندگی نہایت اچھے طریقے پر گزاری۔ وہ اپنی مثال آپ تھے اور زمانہ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔“ اس کے بعد آپ نے بنو تمیم کے ایک شاعر کے یہ اشعار پڑھے :

”اس شخص سے جو جانے والے کی مخالفت پر کمر بستہ تھا کہہ دو کہ اگر تمہیں اپنے اوپر اتنا ہی ناز ہے تو اس جیسے کارنامے تو کر کے دکھاؤ۔ اس شخص کی زندگی، زندگی کہلانے کی مستحق نہیں جو دوسروں کے پس خوردہ پر گزارہ کرتا ہے اور وہ موت موت نہیں جس کے بعد انسان زندگانی جا و دانی

* ابن عساکر صفحہ ۷۱۳ -

† ابن عساکر صفحہ ۷۱۳ -

حاصل کر لے *۔“

جس طرح حضرت عمر اس رائے پر جو انہوں نے حضرت خالد کے بارے میں رکھی تھی نادم تھے اور انہوں نے آپ کی فضیلت اور کارناموں کا کھلے دل سے اعتراف کر لیا تھا اسی طرح حضرت خالد نے بھی یہ اعتراف کر لیا تھا کہ حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ محض اللہ کی خاطر اور مسلمانوں کے فائدے کے لئے کیا۔ مرض الموت میں حضرت ابوالدرداء، حضرت خالد کی عیادت کے لئے آئے۔ باتوں باتوں میں حضرت خالد نے کہا ”اے ابوالدرداء! اگر عمر وفات پا گئے تو تمہیں بہت سے ناخوشگوار امور دیکھنے پڑیں گے“۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا ”آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔“ حضرت خالد نے کہا ”مجھے کئی باتوں کے متعلق رنج تھا لیکن جب میں نے اس مرض میں ان پر ٹھنڈے دل سے غور کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ عمر نے جو کچھ کیا وہ محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا۔ ایک تو مجھے اس واقعے کے متعلق رنج تھا جب عمر نے میرا مال مجھ سے لے کر لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں یہ صرف مجھ پر ہی منحصر نہیں، انہوں نے کئی سابقوں الا ولوں اور بدری صحابہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ مجھے اس بات پر بھی رنج تھا کہ وہ مجھ سے درشتی سے پیش آئے۔ لیکن اس میں بھی میں منفرد

* ابن عساکر صفحہ ۷۱۶۔

† حضرت علی نے سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو ہریرہ کے اموال بھی اسی طرح ضبط کر لئے تھے۔ العقد الفرید جلد اول

صفحہ ۱۵ و ۱۶۔

نہیں تھا۔ اور بھی کئی لوگوں پر انہوں نے سختی کی اور ان کے ساتھ وہ درشتی سے پیش آئے۔ مجھے یہ خیال تھا کہ وہ میرے قریبی رشتے دار ہیں اس لئے میرا لحاظ کریں گے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ دینی اور دنیوی امور میں قریبی اور غیر قریبی کسی شخص کی پروا نہیں کرتے اور کسی ملامت کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ جب یہ باتیں میرے ذہن میں آئیں تو سارا رنج اور تمام وہ کدورت جو میرے دل میں عمر کی طرف سے تھی یکسر کافور ہو گئی۔“

حضرت خالد کی ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے متعلق حضرت عمر کے سلوک کو نہ صرف جائز ہی سمجھتے تھے بلکہ آپ کے دل میں جو کچھ کدورت ان کے متعلق تھی وہ بھی آپ نے نکال باہر کی تھی اور کھلے دل سے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ حضرت عمر ایسے شخص نہیں جو محض قرابت کی بنا پر کسی شخص کا لحاظ کریں یا کسی ملامت گر کی پروا کریں۔ ان باتوں کے دوران میں آپ نے یہ بھی فرمایا ”اسلام کو بہتر یہ مدد عمر بن الخطاب کے ذریعے ملی ہے *“۔

حضرت عمر کے عدل و انصاف پر آپ کو اس درجہ یقین تھا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو یہ فرمایا کہ میرے ترکہ اور میری وصیت عمر بن الخطاب کے پاس پہنچا دی جائے تا کہ وہ اس کا نفاذ کر سکیں †۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے یہی اخلاق تھے

* ابن عساکر صفحہ ۷۱۲۔

† ابن عساکر صفحہ ۷۱۲۔ الاستیعاب جلد اول ۱۵۷۔

ابن الاثیر جلد ۲ صفحہ ۱۰۳۔ الاصابہ جلد اول صفحہ ۱۰۰۔

کہ جب ان کی باہمی غلط فہمیاں دور ہو گئیں تو انہوں نے پچھلی باتوں کو بالکل فراموش کر دیا۔ ان کی ناراضیاں بھی محض اللہ کی رضا اور حق و انصاف کی خاطر تھیں اور دوستیاں بھی۔

حضرت خالد رضہ کا دینی مرتبہ

اسلام لانے کے بعد حضرت خالد کی پوری جد و جہد اور سعی و کوشش اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھنے اور شرک کو نابود کرنے کی خاطر صرف ہوتی رہی۔ آپ نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں اور دین کی سر بلندی اور مسلمانوں کی اسداد کے لئے وقف کر دیا تھا۔ آپ دین کا علم حاصل کرنے اور تقویٰ و پرہیز گاری کی زندگی گزارنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے۔ حضرت ابن عباس حضرت خالد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں گاوہ کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا۔ رسول اللہ نے اسے کھانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا تو کسی نے حضور سے عرض کیا کہ یہ گاوہ کا گوشت ہے جس پر حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ خالد نے عرض کیا ”حضور! کیا یہ حرام ہے؟“ حضور نے فرمایا ”حرام تو نہیں چونکہ یہ سیری قوم کی سر زمین (مکہ) میں نہیں پایا جاتا اس لئے مجھے یہ پسند نہیں آتا“۔ خالد کہتے ہیں ”حضور کے یہ فرمانے پر میں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کھانا شروع کیا۔ حضور سیری طرف دیکھتے جاتے تھے“۔

لیکن حضرت خالد بہت بعد میں اسلام لائے تھے اور اسلام

* ابن عساکر صفحہ ۶۸۷ - اسد الغابہ جلد ۱۰۳ -

لانے کے بعد وہ جنگوں اور جہاد میں مشغول ہو گئے اس لئے دین میں غور و فکر کرنے، اس میں تبصر حاصل کرنے اور قرآن کریم اور احادیث سیکھنے کے لئے وہ زیادہ وقت نہ نکال سکے۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حیرہ میں حضرت خالد نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ دوران نماز میں ایک ہی سورۃ آپ نے بار بار پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ”جہاد نے مجھے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے سے محروم رکھا*“ ابن حجر نے اصابہ میں یہ الفاظ اس طرح بیان کئے ہیں ”جہاد نے مجھے تعلیم قرآن کے بڑے حصے سے محروم رکھا†۔“

آپ نے بے درپے جنگوں میں شرکت کرنے کے باوجود احادیث نبوی کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ کر لیا اور جہاں تک ہو سکا ان کی اشاعت کی۔ آپ سے اٹھارہ احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث متفق علیہ ہے جسے بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہے اور ایک میں بخاری منفرد ہیں۔ علامہ ابن حجر نے اپنی کتابوں، اصابہ اور تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ حضرت خالد سے ابن عباس، جابر بن عبداللہ، مقدم بن معدیکرب، قیس بن ابی حازم، اشتر نخعی، علقمہ بن قیس، جبیر اور ابوالعالیہ وغیرہم نے احادیث لی ہیں‡۔

* ابن عساکر صفحہ ۷۰۲۔

† الاصابہ جلد اول صفحہ ۴۱۴۔

‡ ابن اثیر نے اسد الغابہ (جلد ۲ صفحہ ۱۰۴)۔ میں ابن

حجر کے بیان کردہ لوگوں کے علاوہ ابو امامہ بن سہیل بن حنیف کا نام بھی بیان کیا ہے۔ ابن عساکر (صفحہ ۶۸۶) میں بھی یہ نام درج ہیں۔

جہاں تک فقہ میں ان کی دسترس کا تعلق ہے مؤرخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت خالد حام میں داخل ہوئے۔ آپ نے جسم کو ایک ایسے کھردرے پتھر سے رگڑا جسے مٹی میں شراب ملا کر اور پھر اسے آگ میں پکا کر تیار کیا گیا تھا۔ جب حضرت عمر کو اطلاع ملی تو آپ نے انہیں لکھا ”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے شراب سے تیار کئے ہوئے پتھر کو اپنے جسم پر ملا۔ اللہ نے شراب کے ظاہر اور باطن کو اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اس نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو حرام کیا۔ اللہ نے شراب کے چھونے کو بھی حرام قرار دیا ہے چہ جائیکہ اس سے غسل کیا جائے۔ آئندہ سے شراب کو اپنے جسم سے کبھی مس نہ کرنا کیوں کہ وہ نجس ہے۔ تم نے غلطی سے ایسا کر لیا ہے۔ آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔“

حضرت خالد نے جواب میں لکھا ”ہم نے اس مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے شراب کی خاصیتیں قطعاً دور کر دی تھیں اس لئے اس سے جسم صاف کرنے میں کوئی ہرج نہیں تھا*“۔

ایک فقہی معاملہ میں ان کا حضرت عمر کو جواب دینا اور شراب کی اس طرح تفریق کرنا کہ اگر وہ اپنی اصل شکل میں اسی شدت اور نشہ پیدا کرنے والی حالت میں ہو تو حرام ہے لیکن جب اس سے یہ صفات زائل ہو جائیں تب اسے شراب کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دینی امور میں گہری نظر رکھنے والے شخص تھے۔ گو یہ بات ضرور ہے کہ فقہ میں ان کا پایہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور ان جیسے اہل علم اور فقیہ لوگوں جتنا نہیں ہے۔ دینی امور میں ان کی

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۲۰۴۔ ابن عساکر صفحہ ۷۰۹۔

کباحقہ واقفیت کا ثبوت اس واقعے سے بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے بنو الحارث بن کعب تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لئے حضرت خالد کو نجران بھیجا تھا۔ جب وہ لوگ اسلام لے آئے تو حضور نے آپ کو یہ حکم بھی دیا کہ ان میں رہ کر انہیں شریعت اسلام اور دینی امور کی تعلیم دیں۔ یہ کسی صورت بھی باور نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ نے تبلیغ اسلام کرنے اور دینی امور کی تعلیم دینے کے لئے کسی ایسے شخص کو بھیجا ہو گا جسے خود اسلامی عقائد و اعمال اور دینی امور سے واقفیت حاصل نہیں تھی۔ آپ نے جن لوگوں کو بھی اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لئے روانہ فرمایا وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے ہر طرح اہل تھے اور حضرت خالد بھی انہی میں سے ایک تھے۔

حضرت خالد کے اوصاف و اخلاق

اس ضمن میں ہم بعض ایسے بڑے بڑے لوگوں کے اقوال درج کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کے ہر پہلو کا اچھی طرح مشاہدہ کیا تھا، ان عظیم لوگوں کے اقوال سے آپ کے اخلاق و عادات کی صحیح اور روشن تصویر سامنے آجائے گی۔ یہ لوگ آپ کے ہم عصر تھے اور انہوں نے آپ کے متعلق جو کچھ کہا وہ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہا۔ اس لئے ان کے اقوال ایک قطعی فیصلے کا درجہ رکھتے ہیں۔

رسول اللہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں ”خالد کو تکلیف نہ دو کیوں کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کافروں پر گرایا ہے“*۔

* الاستیعاب جلد اول صفحہ ۱۵۸ - ابن عساکر صفحہ ۷۹۹۔

ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا ” یہ اللہ کا بندہ بھی کیا خوب آدمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے * “۔

حضرت ابوبکر صدیق کو جب ایس اور امغیشیا کے معرکوں کے دوران میں آپ کے کارناموں کا حال معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ” اے گروہ قریش ! تمہارے شیر نے ایک شیر پر حملہ کر دیا اور اس کے بھٹ میں گھس کر اس کو مغلوب کر دیا۔ اب عورتیں خالد جیسا بہادر پیدا کرنے سے عاجز ہیں † “۔

جب حضرت عمر نے حضرت خالد کو معزول کرنے پر اصرار شروع کیا تو حضرت صدیق نے فرمایا ” میں اس تلوار کو ہرگز نیام میں نہ ڈالوں گا، جسے اللہ نے کفار پر مسلط کیا ہوا ہے ‡ “۔

خود حضرت عمر نے قنسرین کی فتح کا حال سن کر فرمایا ” اس کارنامے سے خالد نے خود ہی اپنے آپ کو امیر بنا لیا۔ اللہ ابوبکر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس تھے * “۔

آپ نے حضرت خالد کی وفات کی خبر سنی تو فرمایا ” اسلام کی فصیل میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے جو کبھی پر نہیں ہو

* الاستیعاب جلد اول صفحہ ۱۵۸ - السیرة الحلبيہ جلد ۳

صفحہ ۲۸۶ -

† السیرة الحلبيہ جلد اول صفحہ ۱۷۶ -

‡ الطبری جلد ۴ صفحہ ۳۰ -

✧ الطبری جلد ۴ صفحہ ۱۵۵ - ابن اثیر جلد ۲ صفحہ ۳۴۴ -

سکے گی * ”۔

حضرت عمرو بن العاص سے ایک مرتبہ حضرت صدیق نے حضرت خالد کے بارے میں رائے دریافت کی۔ آپ نے کہا ” وہ جنگ کی سیاست کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ موت کی پروا مطلق نہیں کرتے۔ آگ میں بلے کی سی پھرتی ہے اور ان کا حملہ شیر کے مانند ہوتا ہے †“۔

اکیڈر، رئیس دوسہ نے آپ کے متعلق کہا تھا ” فتح حاصل کرنے میں کوئی شخص ان سے زیادہ خوش نصیب اور جنگی امور میں کوئی شخص ان سے زیادہ تجربہ کار نہیں ہے۔ خالد کے مقابلے میں کوئی قوم خواہ اس کی تعداد کم ہو یا زیادہ ٹھہر نہیں سکتی ‡“۔

خود حضرت خالد اپنے متعلق فرماتے ہیں ” جس دن سے میں اسلام لایا اس دن سے رسول اللہ میرے اور دوسرے صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے ✱“۔

ان اقوال کی موجودگی میں حضرت خالد کی بہادری اور آپ کی استعداد کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

* ابن عساکر صفحہ ۷۱۴ -

† الیعقوبی جلد ۲ صفحہ ۱۴۴ -

‡ اکیڈر نے یہ بات اس موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہی تھی جب حضرت خالد عیاض بن غنم کی مدد کے لئے دوما الجندل گئے تھے۔

✱ ابن عساکر صفحہ ۶۹۱ - السیرة الحلیہ جلد ۳ صفحہ ۸۸ -

آپ کی جنگی لیاقت

حضرت خالد ہر میدان سے کامیاب اور کامران ہو کر لوٹے۔ کسی جگہ بھی آپ کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ جہاں جاتے تھے فتح اور کامرانی آپ کے قدم چومتی تھی۔ آپ ایک مدیر اور دورانہدیش سپہ سالار تھے جو جنگ کے اصولوں اور طریقوں سے پوری طرح واقف تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کس موقع پر آگے بڑھنا چاہئے اور کس موقع پر مدافعت کرنی چاہئے۔ سپہ سالار کی صفات کے ساتھ ساتھ سپاہی کی صفات بھی آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ لڑائی میں آپ بوڑھوں کی سی تجربہ کاری، نوجوانوں کی سی بہادری اور شیر کی سی جرأت دکھاتے تھے۔ آپ دشمن پر اندھا دھند حملہ نہیں کر دیتے تھے بلکہ حملہ کرنے کے لئے سوزوں وقت کی تلاش میں رہتے تھے۔ آپ دشمن کے حالات معلوم کرنے کی پوری جستجو کرتے رہتے تھے۔ کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے وقت اس شہر کی حفاظت کے لئے ایک فوج وہاں متعین کر دیتے تھے۔ اپنے لشکر کے عقب کی حفاظت کا سامان بڑے اہتمام سے کرتے تھے تاکہ دشمن بے خبری میں پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ کثرت سے لڑائیاں لڑنے کے باعث آپ کو جنگی اسور کا اس قدر تجربہ ہو گیا تھا کہ کوئی شخص بھی اس میدان میں آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ جب تک فتح نہ ہو جاتی آپ میدان جنگ سے نہ ہٹتے تھے۔ دشمنوں کی قلت و کثرت، بہادری اور شجاعت اور سامان جنگ کی فراوانی آپ کو قطعاً مرعوب نہ کر سکتی تھی۔ میدان جنگ میں شہادت حاصل کرنے کے حد درجہ شائق تھے*۔ نہ خود

* حضرت صدیق کی آپ کو نصیحت بھی یہی تھی کہ موت

(باقی صفحہ ۳۱۸ پر)

سوتے تھے نہ دوسروں کو سونے دیتے تھے - دشمن کی کوئی بات آپ سے مخفی نہ رہ سکتی تھی -

لشکر کے سپاہیوں سے آپ کا حسن سلوک

حضرت خالد اپنی ماتحت فوج سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر سپاہی سے نہایت نرسی سے پیش آتے تھے - فوج کو ہمیشہ ایسے مقامات پر متعین کرتے تھے جہاں سے فتح حاصل کرنے میں کوئی روک نہ ہو - ہلاکت کی جگہوں میں اسے کبھی نہ لے جاتے تھے - بلکہ ایسے موقعے پر خود آگے ہوتے تھے - غنیمت میں سے پورا حصہ انہیں مرحمت فرماتے تھے - غنیمت کے علاوہ بھی انہیں انعام و اکرام سے نوازتے رہتے تھے - آپ کے وقت کا اکثر حصہ فوج کو لڑائی کے لئے ابھارنے، ہمت بندھانے اور جوش و خروش دلانے میں صرف ہو جایا کرتا تھا - ایک ایک صف کے سامنے جاتے اور فرماتے ”اے اہل اسلام! صبر میں عزت ہے اور بزدلی میں ذلت - خدائی مدد اسی شخص کو حاصل ہوگی جو صبر اختیار کرے گا“ - فوج کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کے نتیجے میں ہر شخص آپ کا گرویدہ ہو گیا تھا اور آپ ہی کے جھنڈے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۱۷)

کی آرزو کرو، تمہیں زندگی بخشی جائے گی (عیون الاخبار جلد اول صفحہ ۱۲۵ - العقد الفرید جلد اول صفحہ ۳۱) - اسی فلسفے کو مؤلف العقد الفرید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: کتنی موتیں ہیں جن کا سبب زندگی حاصل کرنے کا جذبہ تھا اور کتنی زندگیاں ہیں جن کا باعث موت حاصل کرنے کا جذبہ تھا - (العقد الفرید جلد اول صفحہ ۳۱) -

تلے لڑنا چاہتا تھا۔ ان کا سبب یہ اعتقاد بھی تھا کہ خواہ دشمن کتنی بھاری جمعیت اور ساز و سامان کے ساتھ مقابلے پر آجائے، جب خالد اس کے مقابلے کے لئے نکلیں گے تو دشمن کے حصے میں سوائے ناکامی اور نامرادی کے اور کچھ نہ آئے گا۔ اسی اعتقاد کا نتیجہ تھا کہ جب آپ نے حضرت صدیق کے حکم کے بموجب عراق سے شام جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو باوجودیکہ یہ سفر سینکڑوں خطرات اور آفتوں سے پر تھا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ قیصر نے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے اپنی پوری قوت مجتمع کر دی ہے، لیکن کسی ایک شخص نے بھی گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا اور ہر شخص یہ کہہ کر چلنے کے لئے تیار ہو گیا کہ آپ میں اللہ نے ہر قسم کی بھلائیاں مجتمع کر دی ہیں اس لئے آپ ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں، ہم چلنے کے لئے تیار ہیں*۔

آپ کے بارے میں لوگوں کے ان خیالات و اعتقادات، لشکر کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری اور آپ کے جہنڈے کے نیچے آکر موت کو بالکل فراموش کر دینے ہی کا اثر تھا کہ آپ کو ہمیشہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتوحات نصیب ہوتی رہیں۔ آپ کی معزولی کا بڑا سبب بھی یہی تھا کہ لوگوں کو حضرت خالد پر حد درجہ بھروسہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں لوگ خدا ہی کو نہ بھول جائیں آپ نے انہیں معزول کر دیا تاکہ یہ دکھا سکیں کہ فتح کا دار و مداد خالد پر نہیں بلکہ خدائی نصرت و تائید پر ہے۔

حضرت خالد آن صحابہ کا، جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام

* الطبری جلد ۴ صفحہ ۱۴۱ -

قبول کیا تھا اور اللہ کی راہ میں بیش از پیش قربانیاں دی تھیں، بے حد خیال رکھتے تھے اور ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرتے تھے۔ آپ کا یہ یقین تھا کہ اللہ کی مدد کا ظہور انہی لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس تعظیم و تکریم کی روشن مثال جنگ مؤتہ کے موقع پر نظر آتی ہے جبکہ آپ نے ایک بدری صحابی کے ہاتھ سے جھنڈا لینے سے انکار کر دیا تھا اور جب انہوں نے یہ کہہ کر جھنڈا آپ کو دینا چاہا کہ تم مجھ سے بہتر لڑنا جانتے ہو تو آپ نے فرمایا ”میں یہ جھنڈا نہیں لوں گا۔ آپ اس کے مجھ سے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ آپ جنگ بدر میں شریک ہو چکے ہیں“۔ جب آپ عراق سے شام جانے لگے تب بھی آپ نے صحابہ کرام کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دی اور انہیں خاص طور سے اپنی فوج میں شامل کیا۔

جہاد سے عشق

اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ہمہ تن اسلام کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اللہ کی راہ میں نہ آپ کو اپنی جان کی پروا تھی نہ مال کی۔ زندگی میں آپ کو جہاد سب سے زیادہ پسند تھا۔ اور آپ کی تمام تر کوشش اسی بات میں صرف ہوتی تھی کہ دشمنان دین کو چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کی کوئی رات مجھے میدان جنگ کی سخت رات سے زیادہ محبوب نہیں، جس میں میں سہاجرین کو ساتھ لے کر دشمنوں سے لڑوں۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی وفات تلواروں اور نیزوں کے سائے میں ہو۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بستر پر جان دینے کے خیال سے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ نے نہایت حسرت

بھڑے الفاظ میں فرمایا ” میں ایک سو سے زائد جنگوں میں لڑا ہوں - میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار ، تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو - میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں میدان جنگ میں شہادت حاصل کرتا لیکن افسوس میں بستر پر پڑا ہوا اس طرح جان دے رہا ہوں جس طرح اونٹ جان دیتا ہے * “۔

حضرت خالد کے اہل و عیال

حضرت خالد کی کئی بیویاں تھیں جن سے کثیر اولاد پیدا ہوئی - آپ کے ایک بیٹے سلیمان تھے انہی کی وجہ سے حضرت خالد کی کنیت ابوسلیمان تھی - ایک بیٹے عبداللہ † تھے جو عراق میں شہید ہوئے - دو بیٹے عبدالرحمان اور سہاجر خاص شہرت کے مالک ہوئے - یہ دونوں رسول اللہ کے زمانے میں بہت چھوٹی عمر کے تھے - جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو عبدالرحمان ، حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئے اور سہاجر ، حضرت علی کے ساتھ - بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ سہاجر جنگ صفین میں شہید ہوئے † - عبدالرحمان کا شمار عرب کے مشہور بہادروں اور شہسواروں میں ہوتا تھا - ان کی طبیعت میں فیاضی ، اور سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی - حضرت عثمان کے زمانے میں وہ حضرت معاویہ کے ماتحت حمص کے والی تھے - جب کوفہ کے مفسدین نے حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنی شروع کی تو حضرت عثمان نے انہیں

* امعد الغابہ جلد ۲ صفحہ ۳۰۳ - ۱ - المعارف لابن قتیبہ صفحہ ۹۰ -

† انساب القریشین جلد ۲ صفحہ ۳۳۲ -

‡ انساب القریشین جلد ۲ صفحہ ۳۳۰ -

شام کی طرف جلا وطن کر کے امیر معاویہ کے پاس بھیجنے کا حکم دیا لیکن حضرت معاویہ بھی بعض وجوہات کی بنا پر انہیں شام میں نہ رکھ سکے اور انہیں واپس کوفہ بھیج دیا۔ یہ لوگ کوفہ آنے کی بجائے جزیرہ چلے گئے جہاں کے عامل عبدالرحمان تھے۔ جب آپ کو ان لوگوں کی آمد کا حال معلوم ہوا تو آپ نے فوراً انہیں بلوایا اور کہا ”میں نے تمہارے حالات سنے ہیں۔ خدا مجھے نامراد کرے اگر میں تمہیں درست نہ کر دوں۔ تم جانتے ہو کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے فتنہ ارتداد کو دور کیا تھا اور بڑی بڑی مشکلات پر قابو پایا تھا۔ میں دیکھوں گا کہ کس طرح تم معاویہ اور سعید (وائی کوفہ) سے جو باتیں کیا کرتے تھے مجھ سے بھی کر سکتے ہو۔ سنو! اگر کسی شخص کے ساتھ تم نے یہاں فتنہ و فساد کی کوئی بات کی تو ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔“ یہ کہہ کر انہیں نظر بند کر دیا اور ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ جب سفر پر جاتے تو انہیں اپنے ساتھ پا پیادہ لے جاتے اور ان سے دریافت کرتے کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ جسے نیکی درست نہیں کرتی اس کا علاج سزا ہوتی ہے۔ تم لوگ اب کیوں نہیں بولتے؟ آخر ان لوگوں نے ندامت کا اظہار کیا اور معافی چاہی۔

عبدالرحمان بن خالد کی شہرت و عظمت اور لوگوں کی ان سے محبت اس درجے تک پہنچ گئی کہ جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنانے اور لوگوں سے اس کی بیعت لینے کا ارادہ کیا تو آپ نے مسجد میں خطبہ دیا اور کہا ”میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تمہارے لئے ایک ایسا

حاکم مقرر کردوں جس کی وجہ سے سلطنت اسلامیہ کا شیرازہ بندھا رہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں کس شخص کو اپنے بعد تمہارا حاکم مقرر کروں۔“ لوگوں نے متفقہ طور پر عبدالرحمان بن خالد کا نام پیش کیا۔ حضرت معاویہ کو یہ بات بہت شاق گزری اور انہوں نے انہیں مروا ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ان کی ہدایت کے مطابق ایک یہودی طبیب ابن اُثال نے شربت سین زہر ڈال کر عبدالرحمان کو پلا دیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس یہودی طبیب سے عبدالرحمان کے بیٹے خالد نے یا بعض روایتوں کے بموجب خالد بن سہاجر بن خالد نے عبدالرحمان کے قتل کا بدلہ لے لیا*۔

ان لڑکوں کے علاوہ حضرت خالد بن ولید کے اور بھی کئی لڑکے تھے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں ”شام میں حضرت خالد کے کئی لڑکے اور پوتے موجود تھے لیکن وہ سب طاعون کی وبا میں فوت ہو گئے، کوئی بھی باقی نہ بچا۔ ان کے گھروں اور جائداد کے وارث ایوب بن سلمہ بن عبد اللہ † (الولید) بن ولید بن ولید بن مغیرہ ہوئے“۔ مؤلف کتاب اسد الغابہ ‡ لکھتے ہیں ”حضرت خالد بن ولید کی تمام اولاد ختم ہو گئی اور کوئی بھی باقی نہ رہا۔ ایوب بن سلمہ مدینہ میں ان کے

* المعارف لابن قتیبہ صفحہ ۹۰۔

† ان کا نام ولید تھا لیکن رسول اللہ نے بدل کر عبد اللہ رکھ دیا۔ حضور نے ایک دفعہ ان کے بارے میں فرمایا تھا ”اگر بنو مغیرہ کا بس چلتا تو وہ ولید کو اپنا رب بنا لیتے“۔ انساب القرشیین جلد ۲ صفحہ ۳۳۳۔ الاستیعاب جلد اول صفحہ ۳۹۹۔

‡ اسد الغابہ جلد ۲ صفحہ ۳۰۱۔

گھروں کے وارث ہوئے۔“ مؤلف کتاب نہایۃ الأرب* لکھتے ہیں ”حضرت خالد بن ولید کی تمام اولاد ختم ہو گئی۔ مشرق اور مغرب میں کوئی شخص بھی ان کی اولاد میں سے باقی نہ رہا۔ جو شخص ان کی اولاد میں سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔“ مؤلف کتاب صبح الاعشی† اور دیگر اہل عام حضرات بھی حضرت خالد کی نسل کے ختم ہو جانے پر متفق ہیں۔

حضرت خالد کی وفات

حضرت خالد کی جائے وفات اور سنہ وفات کے بارے میں مؤرخین میں کافی اختلاف ہے۔ ہم ذیل میں بعض روایات کو درج کر کے کوشش کریں گے کہ صحیح جائے وفات و سنہ وفات متعین کر سکیں۔

(۱) ظہری نے واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے ۵۲۱ھ میں حمص کے مقام پر وفات پائی ‡۔

(۲) ابن عساکر لکھتے ہیں ”حضرت خالد کی قبر حمص میں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے جنازے کو کس کس نے غسل دیا تھا اور کون کون جنازے پر حاضر ہوا تھا ✧۔“

(۳) دوسری جگہ لکھتے ہیں ”حضرت خالد حمص کی

* نہایۃ الأرب جلد ۲ صفحہ ۳۵۶۔

† صبح الاعشی جلد اول صفحہ ۳۵۵۔

‡ الطبری جلد ۴ (۵۲۱ کے واقعات)۔

✧ ابن عساکر صفحہ ۶۹۵۔

سرحد پر مقیم ہو گئے تھے۔ آپ کے گھوڑے اور ہتھیار سب یہیں تھے۔ حمص ہی میں آپ نے وفات پائی *۔“

(۴) ایک اور جگہ لکھتے ”سزولی کے بعد حضرت خالد بن ولید مدینہ آئے اور حضرت عمر سے ملے۔ وہاں سے وہ شام چلے گئے اور حمص میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے۔ اسی جگہ ۵۲۱ میں آپ نے وفات پائی †۔“

(۵) مؤلف کتاب اسد الغابہ لکھتے ہیں ”آپ نے شام کے مقام حمص میں وفات پائی۔ البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات مدینہ میں ۵۲۱ میں ہوئی ‡۔“

(۶) ابن حجر تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں ”محمد بن سعد، ابن نمیر اور چند لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ۵۲۱ میں حمص میں وفات پائی۔ رحیم اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات ۵۲۲ میں ہوئی۔“

(۷) ابن حجر اپنی دوسری کتاب ”الاصابہ“ میں لکھتے ہیں: ”حضرت خالد بن ولید نے ۵۲۱ میں شہر حمص میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ آپ کی وفات حمص میں ہوئی۔“

* ابن عساکر صفحہ ۷۱۲۔

† ابن عساکر صفحہ ۷۱۴۔

‡ اسد الغابہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۴۔

✖ الاصابہ جلد اول صفحہ ۱۰۰۔

(۸) بدرعینی* لکھتے ہیں ”حضرت خالد بن ولید نے ۵۲۱ء میں حمص میں اپنے بستر پر وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینہ میں وفات پائی لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ ان روایات پر غور کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ نے ۵۲۱ء میں حمص کے مقام پر وفات پائی کیوں کہ ان روایات میں سے بعض میں سرے سے مدینہ کا ذکر ہی نہیں۔ اسی طرح بعض میں ۵۲۲ء کا بھی ذکر نہیں۔ ۵۲۲ء میں آپ کی وفات کا ذکر کرنے والوں نے بھی جو الفاظ استعمال کئے ہیں ان میں شک پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اس لئے ہم یہی نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ آپ کی وفات ۵۲۱ء میں حمص کے مقام پر ہوئی۔

اللہ حضرت خالد بن ولید پر اپنی رحمتیں اور برکات نازل فرمائے۔ آپ نے اسلام کی خاطر جو خدمات سرانجام دیں وہ ایسی ہیں کہ بھلائی نہیں جاسکتیں۔ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے واقعات پر غور کرے اور اپنے میں بھی وہی صفات پیدا کرے جو حضرت خالد میں تھیں۔ کیوں کہ اسلام اور مسلمانوں کی زندگی انہی صفات کو اختیار کرنے پر مضمور ہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

122

خالد، سیف اللہ

حضرت خالدؓ بن ولید



زندگی اور فتوحات

ابوزید شبلی

ترجمہ : شیخ محمد احمد پانی پتی

مکتبہ جدید

انارکلی • لاہور